

خلیفہ راشد کے حالاتِ زندگی کا مدنی گلدستہ



عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز

کی 425 حکایات



- 29 خواب میں والد گرامی کی زیارت
- 41 موت یاد آنے پر رو دیئے
- 65 پہلامدنی مشورہ
- 77 زمانہ خدمت کی یاد گاریں
- 121 عطر والے کپڑے دھو ڈالے
- 166 اپنی دولت راہِ خدا میں خرچ کر دی
- 181 بچوں کی اتنی پرانفرادی کوشش

www.islamiurdubook.blogspot.com

مکتبۃ المدینہ
SC 1286



مکتبۃ المدینہ
(مکتبۃ اسلامی)
شعبہ اسلامی کتب

”خليفة راشد کے حالات زندگی کا مدنی گلدستہ“

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز

کی 425 حکایات

پیش کش

مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ اصلاحی کتب)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

نام کتاب: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ اصلاحی کتب)

سن طباعت: ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ بمطابق 22 اگست 2011ء

ناشر: مکتبۃ المدینہ باب المدینہ (کراچی)

تصدیق نامہ

حوالہ: 172۔۔۔

تاریخ: ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب

”حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات“

(مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) پر مجلس تفتیش کتب و رسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش

کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد، کفریہ عبارات، اخلاقیات، فقہی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مفقود و بھرا ملاحظہ کر لیا ہے، البتہ کمپوزنگ یا کتابت کی غلطیوں کا ذمہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تفتیش کتب و رسائل (دعوتِ اسلامی)

22 - 11 - 2011

E.mail: ilmia@dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”عمر بن عبدالعزیز“ کے چودہ حُرُوف کی نسبت سے اس

کتاب کو پڑھنے کی ”14 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ۝ مسلمان کی نیت

اس کے عمل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ۵۹۳۲، ج ۶، ص ۱۸۵)

دومَدَنِي پھول: ﴿۱﴾ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

﴿۲﴾ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

{1} ہر بار حمد و {2} صلوٰۃ اور {3} تَعُوذُ و {4} تسمیہ سے آغاز کروں گا۔

{5} (اسی صفحہ پر اُپر دی ہوئی دو عَرَبی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا)۔

حَتَّى الْوُشَعِ اِسْ كَا بَاوُضُوْ اور {6} قَبْلَهُ رُوْ مُطَالَعَهْ كَرُوْں گا {7} قرآنی آیات اور

{8} اَحَادِيْثِ مَبَارَكَهْ كِي زِيَارَت كَرُوْں گا {9} جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا

وہاں عَزَّوَجَلَّ اور {10} جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسمِ مبارک آئے گا وہاں صَلَّى اللهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پڑھوں گا۔ {11} شَرَعِيْ مَسْأَلِ سِيَكْھُوْں گا۔ {12} اِگْر كُوْنِيْ بَات سَمْجھنہ آئی

تو علماء سے پوچھ لوں گا {13} دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔

{14} کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (مصنف یا

ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)

المدینة العلمیة

از: بانی دعوتِ اسلامی، عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ

الحمد لله على إحسانه و بفضله رسولہ صلى الله تعالى عليه وسلم
تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت،
احیائے سنت اور اشاعتِ علمِ شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُصمّم رکھتی ہے،
ان تمام امور کو بحسن و خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا
ہے جن میں سے ایک مجلس ”المدینة العلمیة“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی
کے علماء و مفتیانِ کرام کَرَّمَهُمُ اللهُ تَعَالَى پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی
اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲) شعبہ درسی کتب

(۳) شعبہ اصلاحی کتب (۴) شعبہ تراجم کتب

(۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

”المدینة العلمیة“ کی اولین ترین سرکارِ اعلیٰ حضرت امامِ

اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمعِ رسالت، مُجددِ دین و

مِلَّتِ حَامِي سُنَّتِ مَاحِي بَدَعْتِ عَالِمِ شَرِيْعَتِ پِيْر طَرِيْقَتِ بَاعِثِ خَيْرِ وَ
 بَرَكَتِ حَضْرَتِ عِلَامِهِ مَوْلِينَا الْحَاجِ الْحَافِظِ الْقَارِي شَاهِ أَمَامِ أَحْمَدِ رَضَاخَانِ عَلَيْهِ
 رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ كِي گراں مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حَتَّى الْوَسْعِ
 سَهْلِ اُسْلُوْبِ مِيں پيش كرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی
 اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے
 والی کُتُب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ”دَعْوَتِ اِسْلَامِي“ كِي تَمَامِ مَجَالِسِ بِشْمُولِ ”الْمَدِينَةِ الْعِلْمِيَّةِ“ كُو
 دِنِ گِيَا رَهِيں اور رات بار هويں تَرَقِّي عَطَا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیور
 اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا
 شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

فہرس

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
46	بزرگانِ دین کی بارگاہوں میں حاضریاں	27	پہلے دُرودِ پاک پڑھتے
47	رات بھر مَدَنی مذاکرہ جاری رہا	27	ابتدائی حالاتِ زندگی
47	ہاتھوں ہاتھ جواب	28	والدِ گرامی
48	علمی مشاغل جاری نہ رکھ سکے	29	اے دنیا! ہم دھوکے میں رہے
49	آپ نے یاد رکھا اور میں بھول گیا	29	خواب میں والدِ گرامی کی زیارت
49	آپ تابعی بھی ہیں	29	دلوں کے رنگ کی صفائی
49	مردی احادیث مبارکہ	30	والدہ محترمہ
50	نیکی کی دعوت چھوڑنے کا انجام	30	بہو کیسے نہیں؟
50	پسندیدہ نوجوان		خلافِ شریعت کاموں میں ماں باپ
51	محبتِ رمضان	33	کی اطاعت
51	حالتِ جب میں سونا	34	دودھ میں پانی ملانا
52	ذکر اللہ نہ کرنے پر حسرت	36	رشتہ طے کرتے وقت کیا دیکھنا چاہئے؟
52	اسلام کا حُلُق حیا ہے	37	تلاشِ رشتہ
53	شادی خانہ آبادی	39	میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں
53	تاریخی اعزاز	39	اپنے ننھیال میں رہے
54	اخراجات کی کیفیت	41	موت یاد آنے پر رو دیئے
54	ازواج و اولاد	41	یادِ موت کا فائدہ
55	اولاد کی تربیت	42	سیدنا فاروقِ اعظم کی بشارت
55	فکرِ تربیتِ اولاد پر مشتمل ایک مکتوب	43	خوابِ فاروقی کی تعبیر
56	بیٹے کے نام نصیحت آموز خط	43	خود مدعیے شریف جانے کی درخواست کی
58	مسلمان کے بارے میں حُسنِ ظن رکھو	44	بالِ منڈ وادیئے
59	حُسنِ ظن عمدہ عبادت ہے	45	عظمتِ الہی سے معمور سینہ
59	اچھائی پر حمل کرنا واجب ہے	46	حلیہ شریف

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
74	عالم کی تعظیم کا صلہ	59	بُر امطلب لینا بھی بدگمانی ہے
74	علماء کے احترام میں کوتاہی نہ کیجئے	60	غفلت سے بچ کر رہنا
75	حجاج بن یوسف کو ناپسند کرتے تھے	61	خواب میں مخصوص دعا سکھائی
	حجاج بن یوسف کے مدینہ میں داخلے	61	گورز بن گئے
76	کی ممانعت	62	گورزی قبول کرنے کے لئے شرط رکھی
76	دوسرے کونے میں چلے گئے	62	ظلم کا انجام ہلاکت ہے
77	زمانہ خدمت کی یادگاریں	63	ظلم کسے کہتے ہیں؟
78	رسول اکرم صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلہٖ وَسَلَّمَ جیسی نماز	63	مُفْلِس کون؟
79	اطمینان سے نماز پڑھنے کی فضیلت	64	لرز اٹھو!
80	مٹی پر سجدہ کیا کرتے	65	پہلا مدنی مشورہ
81	آگے نہ پڑھ سکے	66	مشورہ سہت ہے
82	محبت مدینہ	67	نیک بخت کون؟
82	واہ کیا بات ہے مدینے کی	67	مشورہ برکت کی کٹی ہے
83	اہل بیت سے محبت		مشورے کی اہمیت و افادت کے
83	محبت اہل بیت کا فائدہ	68	بارے میں 5 روایات
84	کھڑے ہو کر استقبال کیا	69	علم کے قدردان
85	بشارت نبوی	70	علم حاصل کرنے کا نسخہ
86	جنات کی تین قسمیں	70	عالم باعمل بنو
86	جنات کی مختلف شکلیں	70	علم غنی کی زینت ہے
87	گورزی سے استغفی	70	علم کی فضیلت
88	استغفی یا معزولی؟	71	علم مال سے افضل ہے
89	صرف ایک غلام ساتھ تھا	72	علم کی حفاظت کا طریقہ
89	بے چین ہو گئے	72	آپ واپس اپنی جگہ تشریف لے جائیے
90	بدشگونگی کی تردید	73	باادب بالنعیب

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
107	جھوٹ سے نفرت	90	بدشگونی کیا ہے؟
109	جھوٹ کی مذمت میں تین فرامین مصطفیٰ	91	بدشگونی کوئی چیز نہیں
110	حضرت خضر علیہ السلام سے شرفِ ملاقات	91	خلیفہ کے مُشیر بن گئے
110	حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟	92	ناحق قتل سے روکا
111	ایمان افروز خواب	93	حجاج کی سازش
115	خلیفہ کیسے بنے؟	95	کلمہ حق کہنے سے نہ ڈرے
117	دونوں میں کتنا فرق ہے؟	96	یئسگی کی دعوت کا ثواب
118	میرا نام نہ لیجئے گا	96	سمجھانا کب واجب ہے؟
118	خلافت کا اعلان	97	فائدہ ہی فائدہ
119	احساسِ ذمہ داری کی وجہ سے رونے لگے	98	بدنامِ زمانہ شخص کی توبہ
121	عطر والے کپڑے دھو ڈالے	99	دھوکہ دہی سے روکا
122	تمہارے پاس عدل اور نرمی آ رہی ہے	100	انسان کو وہی کچھ ملے گا جو آگے بھیجا ہوگا
122	خلافت کی بشارت	101	بارش سے عبرت
122	ہدایت یافتہ خلیفہ	102	یہ صدقے سے بہتر ہے
123	نصیحتِ نبوی	102	دُنیا کو دُنیا کھا رہی ہے
123	ان دونوں کی طرح خلافت کرنا	103	یہ تمہارے فریق ہیں
124	حجاج کی زبان پر ذکرِ خلافت	103	حکمِ شرعی کو نوقیت ہے
124	سلیمان کے لئے خوشخبری	104	عورتوں کو بھی میراث میں سے حصہ دیجئے
125	خلافت سے دستبردار ہونے کی پیشکش	104	جذامیوں کی جان بچائی
125	خلیفہ بننے کے بعد اصلاحی بیان	105	مُثلہ کرنے سے روکا
127	عہدِ صدیقی و فاروقی کی یاد تازہ کر دی	105	مشلہ سے منع فرماتے
128	خلافتِ راشدہ کسے کہتے ہیں؟	106	فیاضی کی حقیقت
129	خراسانی کا خواب	107	خلیفہ کی توہین پر قتل کا حکم
130	خلیفہ بنانے والے کے بارے میں حسن ظن	107	سلیمان بن عبدالملک کا اعتراف

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
148	کامل مسلمان کون؟	130	لوگ بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے
148	نیک اور پرہیزگاروں کی صحبت	130	بیعت کے الفاظ
149	مجھے خبردار کر دینا	130	مجھے اس منصب کی چاہ نہیں تھی
149	خود پر محاسب مقرر کیا	131	آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟
149	زیادہ معاومین نہ تھے	131	شاہی سواری سے انکار
150	معین و مددگار	132	مجھے اپنے جیسا ہی سمجھو
150	اہل حق کی قدر دانی	132	شاہی خیمے میں نہیں گئے
151	نصیحت کرنے والے کا شکریہ	133	تین فوری احکام
152	معافی مانگی	135	پہلے مسائل کی مدد
154	آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عاجزی	136	قصر خلافت میں قیام نہیں فرمایا
155	معافی مانگ لیجئے	136	مخصوص اشیاء بیت المال میں جمع کروادیں
156	منصب رسالت و خلافت میں فرق	137	خوہر و کنیزوں کی پیش کش
157	آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا	137	اب تم سے دل چسپی نہیں رہی
158	بہترین آدمی کی خصوصیات	138	اقتدار کے بارے سے اشد کبار
158	سکیورٹی کے مسائل	139	مانتخوں کے بارے میں سوال ہوگا
159	آرام کا وقت نہ ملتا		نگرانوں اور ذمہ داران کے لئے
160	اپنے غصے پر قابو پائیے	139	فکر انگیز فرامین
161	حق داروں کو ان کا حق دلایا	143	صحبت میں رہنے والوں کے لئے شرائط
162	اموال جائیداد واپس کرنے کا اعلان عام	143	حارسین سے بے نیازی
162	اولاد کو اللہ عزوجل کے حوالے کرتا ہوں	144	حارس بنانے کے لئے نمازی کو چننا
163	بھروسے کا انعام	144	شعراء کی دال نہ گلی
164	انگوٹھی کا ٹکینہ بھی واپس کر دیا	145	یہ شخص شعراء کو نہیں گدا گروں کو دیتا ہے
165	خیبر کی جاگیر	146	تین فقہاء سے مدنی مشورہ
166	اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کر دی	147	عدل کس طرح کروں؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
182	سونے، جاگنے کے 15 مدنی پھول	166	خليفة کا یومیہ وظیفہ
185	پہننے کے لئے کپڑے نہ تھے	166	اپنے کھانے کی رقم مطبخ میں جمع کرواتے
185	موٹے کپڑے	167	بیت المال سے کبھی ناحق مال نہیں لیا
186	ہزار بھوکوں کا پیٹ بھر دو	167	گورنروں کی بیش قیمت تنخواہ اور
186	بیت المال سوکنیں جمع کرنے کے لئے نہیں	167	حضرت عمر کی تنگ دستی
187	شہزادیوں کی عید	168	ذاتی منافع بھی بیت المال میں جمع کروادیا
189	مسور کی دال اور پیاز سے پیٹ بھرا	168	آمدنی کم ہوگئی
190	اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنے والا بد نصیب	170	بیچھے کیا چھوڑا؟
191	ذمی کو اس کی زمین واپس دلوانی	170	مال قبول نہ فرماتے
192	سات زمینوں کا ہار	171	نفع راہِ خدا میں خرچ کر دیا
193	دعا قبول نہ ہوئی	173	کیا بات ہے ایثار کی!
193	احساسِ ذمہ داری نے رُلا دیا	173	ایثار کی مدنی بہار
193	مظلوم کی مدد	175	30 ہزار درہم بیت المال میں جمع کروادینے
194	غلام آزاد کر دیا	175	خليفة کی اہلیہ کے زیورات
195	اپنے علاقوں میں واپس چلے جاؤ	176	سیاہ کوسفید اور سفید کوسیہ کر دو
195	بدوؤں کو زمین واپس دلانی	177	عورت پر شوہر کا حق
196	حکومتی کارندوں کو بھی اسی کی تاکید کی	177	گھروالوں کے خرچ میں کمی
197	نال مثل کرنے والے حکام سے ناراضی	178	اہلیہ کا وظیفہ
197	ادائے حقوق میں احتیاط	178	اپنی آخرت تباہ نہیں کروں گا
198	تمہارا کوئی حق نہیں مارا گیا	179	احق کون؟
198	سائل سے ہمدردی	179	بُر اسودا
200	حکومتی ذمہ دار پر انفرادی کوشش	180	قیامت کے دن اہل و عیال کا دعویٰ
200	پروٹوکول ختم کر دیا	181	بچوں کی امی پر انفرادی کوشش
201	سب کے لئے کی جانے والی دعا کی قبولیت	182	سونے کے انداز کی اصلاح

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
225	کسی سے امداد کی توقع نہ رکھئے	201	سب کے برابر بیٹھئے
225	یہ نصیحت کافی ہے	202	علماء کو اپنے قریب کر لیا
226	بُری خلافت کے گواہ ہوں	202	کم رفتار سواری پر بیٹھنا
226	شرفاً کو ذمہ داریاں دیتے تھے	203	خاندان والوں سے میل جول کم کر دیا
226	مختصر ترین نصیحت	203	بیس ہزار دینار دینے سے انکار
227	مطلبی کی صحبت سے بچئے	206	پھوپھی صاحبہ کا وظیفہ
227	کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی	208	حکم الہی کا پاس
228	بے ہوش ہو کر گر گئے	208	آئندہ ایک درہم بھی نہیں دوں گا
229	آنسوؤں سے چولہا بجھ گیا	209	دُکانیں واپس دلوائیں
229	نصیحتوں بھرا مکتوب	210	جواب نہ بن پڑا
235	تقدیر پر صبر کیجئے	211	”سسبھانے“ کی ایک اور کوشش
236	خالد بن صفوان کی ناصحانہ تقریر	213	میں قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں
239	دھوکے باز دُلہن	214	پھوپھی صاحبہ کی سفارش
243	دنیا کی مذمت پر چار احادیث مبارکہ	215	خلافت سے بے نیازی
	دنیا کے لئے مال جمع کرنے والے	215	عمر بن ولید کا خط اور اس کا جواب
243	بے عقل ہیں	217	خاندان کی عزت کا پاس
244	دنیا کی حُجّت باعثِ نقصانِ آخرت ہے	218	بیت المال پر کس کا حق ہے؟
244	آخرت کے مقابلے میں دُنیا کی حیثیت	219	مالِ حرام کے شرعی احکام
245	بھیرہ کا مراہوا بچے	220	قسطِ ظنیہ کے مسلمان قیدیوں کو رقم بھیجی
246	امیر المؤمنین کی عاجزی زمین پر بیٹھ گئے	220	بخل کا خوف
247	میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی	221	کنیز واپس کر دی
247	بلندی عطا فرمانے گا	223	خارجیوں نے آپ سے جنگ نہیں کی
248	عاجزی کس حد تک کی جائے؟	224	بزرگانِ دین کی بارگاہوں سے رجوع
		224	موت کو اپنے سر ہانے رکھئے

صفحہ نمبر	عنوان	5 نمبر	عنوان
260	کھانا کتنا کھانا چاہئے؟	248	مزان چہرے کرنے والے کو جواب
261	انگور کھانے کی خواہش	249	خادمہ کی خدمت
261	دال اور کٹی ہوئی پیاز سے مہمان نوازی	249	چادر اوڑھادی
262	کھانے میں اسراف چھوڑ دیا	249	تحریر پھاڑ ڈالتے
263	دوران بیان رونے لگے	250	بیچان نہ پاتے
264	تقویٰ و پرہیزگاری	250	مجھے ”عمر“ ہی سمجھو
265	شاہی گھوڑے بیچ دیئے	251	تعریف کرنے والے کو جواب
265	بیت المال کا گرم پانی	251	”خليفة الله“ کا مصداق
266	سخت سردی کی ایک رات	252	اسلام نے مجھے فائدہ دیا ہے
266	بیت المال کے مال سے بنے مکانوں	252	شان و شوکت کے اظہار کی ممانعت
266	میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا	252	مجلس برخواست کرنے کا معمول
266	ذاتی چراغ جلا لیا	253	جب سلام کرنا بھول گئے
269	بیت المال کے کوئلے	255	روزانہ کا جدول
270	کلکڑیوں کا تحفہ	256	خلیفہ کا کھانا
271	بیت المال میں دودھ بنا کر جمع کروائے	256	زیتون کا سالن
271	خوشبو سونگھنے میں احتیاط	256	پسلیاں گنی جاسکتی تھیں
272	خوشبو دھو ڈالی	256	مسور اور پیاز
273	سیب کے لئے اپنے آپ کو برباد کر لوں!	257	کیا بات ہے ”مسور“ کی؟
273	آگ کی چنگاریاں	258	سمجھانے والے کو سمجھا دیا
274	چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا	258	کھانا نہ کھا سکے
274	کھجوروں کی قیمت جمع کروائی	259	زیادہ کھانا سامنے آپر اٹھ کھڑے ہوئے
275	دودھ کے چند گھونٹ	259	پیٹ بھر کر کیسے کھانی سکتا ہوں؟
276	شہد بیچ ڈالا	260	کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا
277	یہ گوشت تم ہی کھا لو	260	تمہارے آقا کی یہی غذا ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
290	بیٹے سے تلاوت سُنی	277	پہلے کی آسائشیں اور بعد کی آزمائشیں
291	غلطی نکالنے کا ہوش تھا!	278	اخلاقی برائیوں سے کوسوں دور تھے
292	تلاوت ہو تو ایسی ہو!	278	عمری چال
294	امیر المؤمنین کا خوفِ خدا	279	لوہے کی زنجیریں
295	خوفِ خدا کی ضرورت	280	امیر المؤمنین کا لباس
295	میرے لئے دعا کرنا	280	ایک ہی گرتا
296	خوفِ خدا کے اثرات	281	آٹھ سو کی چادر اور آٹھ درہم کا کمبل
296	اہلیہ محترمہ کی گواہی	281	12 درہم کا لباس
297	امیر المؤمنین کی یادِ موت	282	لباس کی سادگی
297	قبر والے کے بارے میں سوچتے رہے	282	سادہ لباس کی فضیلت
298	موت کو یاد کیا کرو	283	نماز چنگانہ کا اہتمام
299	آباد اجداد کی قبروں سے عبرت پکڑتے	283	نماز کی حفاظت کی تاکید
299	آخرت کی فکر دلانے والا ایک مکتوب	284	شب بیداری
300	موت سے ڈرو	284	عبادت گزاروں کی رات
300	ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے	285	رحمت کی چار راتیں
301	قبر کی دل ہلا دینے والی کہانی	285	زکوٰۃ کی ادائیگی اور نفلی روزوں کا اہتمام
303	زادِ آخرت تیار کر لو	285	شکر کی بوریاں صدقہ کیا کرتے
303	بوسیدہ نہ ہونے والا کفن	286	شوقِ تلاوت
304	موت کو یاد کرنے کا فائدہ	287	ایک طرف کو جھک گئے
304	دنیاوی رنج و غم کا علاج	287	آیت مکمل نہ پڑھ سکے
305	کانٹے دار بنی	287	رونے والے کو جنت ملے گی
305	دنیا میں آنا آسان، جانا مشکل ہے	288	رونے کا طریقہ
306	بے ہوش ہو گئے	289	آنسوؤں کی چھڑی
306	کرامین کا تہین کا سامنا	290	دھاڑیں مار مار کر رونے لگے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
324	بارگاہ رسالت میں سلام بھیجا کرتے	307	مُرغ بسبل کی طرح تڑپتے
325	مقدس تحریر چوم لی	307	نرم حدیث بیان کرتا
325	چوم کر آنکھوں پر رکھا	308	رو نکلنے کھڑے ہو جاتے
326	حج کی خواہش	308	کتنا سفر باقی ہے؟
327	لوٹ کے مال سے حج کرنے والے کا انجام	308	میزبان کے پاس کب تک رہیں گے؟
328	امیر المؤمنین کی تبرکات سے محبت	309	اٹھنے والے جنازوں سے عبرت پکڑو
329	قبر میں میت کے ساتھ تبرکات رکھئے	309	موت کو یاد کیا کرو
	حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِيَ اللهُ	311	لذتوں کو مٹانے والی
329	تعالیٰ عنہ کی وصیّت	311	خوفِ قیامت
329	تبرکات رکھنے کا طریقہ		امیر المؤمنین کا جنتیوں اور دوزخیوں
330	میں بھی غلام علی ہوں	312	کے بارے میں غور و فکر
331	امیر المؤمنین کا رضائے الہی پر راضی رہنا	312	کہیں میں دوزخیوں میں سے نہ ہوں
331	اس پر میری رحمت ہے	313	جنت و دوزخ کے ذکر پر رو دینے
332	نرمی کا فائدہ	313	حوضِ کوثر کے پھلکتے جامِ پینے کی تڑپ
333	نرمی کی فضیلت پر 4 فرامینِ مصطفیٰ	315	قیامت کے امتحان کی فکر
334	والدین کے نافرمان کے ساتھ تعلق نہ جوڑنا	315	قیامت کے 5 سوالات
335	جنت یا جہنم کا دروازہ	316	امتحان سر پر ہے
335	غفلت بھی ایک طرح سے نعمت ہے	316	صرف ایک نیکی چاہئے
336	اعترافِ ذہانت	318	پل صراط سے گزرو
336	جلد اطاعت کا انعام	320	عذابِ الہی کا خوف
337	امیر المؤمنین کا زبان کا قفلِ مدینہ	320	بادلوں میں کہیں عذاب نہ ہو
337	ظن و مزاح کرنے والوں کو تنبیہ	321	کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی دوزخ میں
338	شور و غل کو ناپسند فرماتے	321	پھر مرتے دم تک نہیں بنے
338	شرم و حیا کا پیکر	324	امیر المؤمنین کا عشقِ رسول

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
350	نا پسند کام پر ردِ عمل	339	خاموش طبع کی صحبت میں رہو
351	صبرِ نعمت سے افضل ہے	339	زبان خزانے کی چابی ہے
351	سب سے بہتر بھلائی	339	بولنے والا فائدے میں رہا
351	صبر کی تین قسمیں	340	بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے
352	دل کے لئے مفید شے	340	کلام کو اپنے عمل میں شاکر کرنے کا فائدہ
352	سانپ اور بچھو سے بچنے کا وظیفہ	340	زبان کی حفاظت
353	احسان قبول نہ کرو	340	دعا دینے کو بھی سلیقہ چاہئے
353	کامیاب کون؟	341	طویل نہیں پاکیزہ زندگی کی دعا دو
353	حرص کسے کہتے ہیں؟	341	یکسوئی سے دعا مانگو
354	انسان کا بیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے	342	بولنے میں رکاوٹ
354	قناعت فقہ اکبر ہے	342	تین نقصان دہ عادتیں
355	کامیابی کا راز	342	جاہل کون؟
355	امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی نصیحت	343	بیان روک دیا
356	گھر میں خاص ساز و سامان نہ تھا	343	کم گوئی کی عادت
356	دابق کی راتیں	344	خاموشی باعثِ نجات ہے
357	زاهد تو عمر بن عبدالعزیز ہیں	345	آپ خاموش کیوں ہیں؟
358	زہد کسے کہتے ہیں؟	345	کلام کی اقسام
358	دُنیا سے بے رغبتی کا انعام	346	خاموش رہنے کی عادت کیسے بنائیں؟
359	کوئی ذاتی عمارت تعمیر نہیں کی	347	حاسد ظالم بھی مظلوم بھی
359	ایک اینٹ بھی دوسری اینٹ پر نہیں رکھوں گا	347	حسد کسے کہتے ہیں؟
360	غیر ضروری تعمیرات کی حوصلہ شکنی	347	حسد نیکیوں کو کھاتا ہے
361	ہر سفر کے لئے توشہ لازمی ہے	348	حسد کے چار درجے
362	امیر المؤمنین کا غنودہ درگزر	349	حسد کا علاج
362	دو بہترین عادتیں	350	صبر مؤمن کا مددگار ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
376	پرنا لے سے آنسو بہہ نکلے	363	سر جھکا لیا
377	داڑھی آنسوؤں سے تر تھی	363	سزا دینے میں احتیاط
377	آنسوؤں کو غنیمت سمجھو	363	میں تم سے قصاص لیتا
377	سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر تھی	364	تقویٰ نے منہ میں لگام ڈال دی ہے
378	آنسوؤں میں خون	364	گالی دینے والے کو کچھ نہ کہا
378	دُنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں	365	بُرا بھلا کہنے والے سے حسن سلوک
378	سب رونے لگے	366	میں پاگل نہیں ہوں
380	خلیفہ کا اثر رعایا پر	366	گالوں سے خون نکل آیا
381	مناجاتِ عمر بن عبدالعزیز	367	سزا کے بجائے وظیفہ مقرر کر دیا
385	ذمہ داران پر انفرادی کوششیں	367	غصے کی حالت میں سزا نہ دو
385	ایک اہم مکتوب	368	بلاوجہ داغنا نہیں چاہئے
388	سپہ سالار کے نام خط	368	بُرا بھلا نہ کہو
389	تقویٰ بہترین توشہ ہے	368	سزا معاف کر دی
390	ہماری حیثیت زرخیز غلام کی سی ہے	370	امیر المؤمنین کی رحم دلی
391	حجاج کی روش سے بچنا	370	جانور کو تین دن آرام کرنے دو
391	یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو	371	چوپاؤں کے بارے میں ہدایات
391	20 کوڑے مارے	371	صلح کروائی
392	برائی کو نہ روکنے کا انجام	373	صلح کروانا سنت ہے
395	غیر مسلموں کی مناصب سے معزولی	373	صلح کروانے کا ثواب
396	نومسلم پر جزیہ نہیں	374	عیادت و تعزیت
397	نظامِ سلطنت کی بنیاد خوفِ خدا پر تھی	374	مُردہ مُردے کی تعزیت کرتا ہے
399	گورنر نہیں بنوں گا	375	تعزیت کا انداز
399	ذمہ داران کو مختلف نصیحتیں	375	صبر اور رضا میں فرق
400	امین کیسے ہوں	376	امیر المؤمنین کی اشک باریاں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
416	دکھاوے کا انجام	400	یہ ہمارے لئے رشوت ہے
417	جو شریف کا دلایا	401	سیبوں کے طباق
	ایک حبش کثیر کا خط خلیفہ کے نام اور	404	قلم باریک کرلو
420	مسئلے کا فوری حل	404	شع کی جگہ چراغ جلاؤ
422	تھکا دینے والی مصروفیات	405	عدل کا قلعہ بنا دو
423	سیر و تفریح کا مشورہ دینے والے کو جواب	405	گواہیوں پر فیصلہ کرو
423	وقت کی قدر	406	قاضی کیسا ہونا چاہئے؟
425	وقت برف کی مانند ہے	406	خوف خدا رکھنے والے کو قاضی مقرر کر دیا
425	بیت المال کی اصلاح	407	گورز بنانے سے پہلے ٹھوک بجا کر دیکھا
427	آپ قسم کھائیے	408	کسی کام کا فیصلہ کیسے کرے؟
427	مواصل کی اصلاح	409	اُسی وقت اصلاح کرتے
429	جو مسلمان ہو جائے اس سے جزیہ نہ لو	409	نصیحت کرنے کا حق
	نو مسلموں سے جزیہ لینے والے گورز کو	410	میرے غیر شرعی حکم کو دیوار پردے مارنا
429	معزول کر دیا		معاف کرنے میں خطا سزا دینے میں
430	ٹیکس ختم کر دیئے	410	خطا سے بہتر ہے
431	مال میں برکت	410	عادل عدالت کا عادل فیصلہ
431	سرکاری عہدوں پر تقرری کا طریقہ کار	411	ذمی کو انصاف دلایا
433	ذمہ داران کی تقرری کے مدنی پھول	412	حجاج کے ساتھ کام کرنے والے گورز نہ بنایا
435	حجاج کی روش اپنانے سے روکا	412	کیا یہ نافرمانی تھی؟
436	کارکردگی کی تحقیقات بھی کرتے تھے	413	کھلی آزمائش
436	ذمیوں کے حقوق کی حفاظت	414	چالیس کوڑے لگوائے
437	گر جاگھر کا مقدمہ	414	مذموم اور مجرم کا فرق
437	جزیہ کی وصولی میں تخفیف	415	کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا
438	زری کرو		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
452	بچوں کے وظیفے	438	ظلم کی نشانیاں مٹادیں
452	ہر ایک کو برابر وظیفہ ملتا تھا	439	زائد رقم واپس لوٹادی
452	وٹا نَف میں اضافہ ہوتا رہتا	439	قیدیوں کو سہولتیں دیں
453	غریبوں کی امداد کے دیگر ذرائع	440	مسلمان قیدیوں کا فدیہ
453	غلام کو آزادی کیسے ملی؟	441	سزا کی حد مقرر کر دی
455	ہردل عزیز خلیفہ	441	لوگوں کو مشقت کا عادی بنا رہا ہوں
456	ملاحوں کی خیر خواہی	442	دلوں سے حرص و لالچ نکالنا چاہتا ہوں
457	سفر خرچ عطا کیا	442	مسلمان کو تکلیف پہنچنا گوارا نہیں
457	مقرضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکم	443	اپنے ہاتھ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرو
458	فوت شدگان کے قرض کی ادائیگی	443	نیک بندے چیونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے
458	عوام کی خوشحالی	443	تلوار کے استعمال سے روکا
459	خوشحالی کی چند جھلکیاں	444	خونریزی کی اجازت نہیں دی
459	صدقہ لینے والے صدقہ دینے والے بن گئے	445	کھیتی کے مالک کی شکایت
459	صدقہ دینے کے لئے فقیر نہیں ملا	447	فلاح عامہ کے کام
460	اب ہم چارہ نہیں بیچتے	447	مسافروں کی خیر خواہی کرو
460	مال میں برکت	448	عوامی لنگر خانہ
461	رعایا کی خوشحالی پر مسرت	448	چراگا ہوں کو کھول دیا
462	نعمتوں کا شکر ادا کریں	448	ضرورت مندوں کی تلاش
462	نعمت کی حفاظت کا طریقہ	449	تا بیٹاؤں، فاج زدوں اور یتیموں کی خیر خواہی
462	نعمت کا ذکر بھی شکر ہے	449	اندھوں اور اپاہجوں کی دیکھ بھال کے لئے غلام عطا فرماتے
463	شکر کی توفیق ملنا بھی سعادت ہے	450	اپاہجوں کے وظائف مقرر کئے
463	شکر کیسے کریں؟	450	تخت زدگان کی مدد
463	نیکی کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرو	451	حیا آتی ہے
463	شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
479	نماز سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے		بہن کے جنازے میں شرکت کرنے
480	نماز جمعہ پڑھ کر جانا	464	والوں کا شکر یہ ادا کیا
481	مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں	464	حضرت عمر بن عبدالعزیز بطور مجدد
481	زکوٰۃ و صدقہ	466	تدوین احادیث کا اہتمام
482	لہو و لعب اور نوحہ کی ممانعت		تمام گورنروں کو احادیث جمع کرنے کا
482	انسدادِ شراب نوشی	467	کام سونپنا
484	عورتوں کو حمام میں جانے سے روک دیا	467	اتباع سنت کی تاکید
485	امیر المؤمنین اور دعوتِ اسلام	468	سنت کی اہمیت
485	دیگر بادشاہوں کو دعوتِ اسلام	468	سوشیڈوں کا ثواب
486	سندھی حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پیش کی	469	شرابی بسلغ کیسے بنا؟
486	چار ہزار ذمیوں نے اسلام قبول کر لیا	472	علم دین کی اشاعت
487	مغرب والوں کو دعوتِ اسلام	472	خلیفہ کا پیغام علماء کے نام
487	ہماری حیثیت کا شکر کار کی سی رہ جائے	472	علم کے بغیر عمل کرنا خطرناک ہے
488	حسن ظن رکھو	473	علم سیکھنے کے لئے سوال کرنے سے نہ شرمناؤ
488	شریعت پر عمل کی ترغیب	473	محدثین کی خدمت
489	اصلاح کا انداز	473	30 درہم پیش کئے
	دوسروں کی اصلاح کے لئے اپنی	474	ہر ایک کو سودینا پیش کیجئے
489	آخرت برباد نہ کرو	474	علمی مراکز قائم کئے
490	اصلاح میں رُکاؤٹیں	476	علما کا اثر و رسوخ
490	چغخل خور کی اصلاح	476	فن مغازی اور مناقب صحابہ کی تعلیم و اشاعت
491	محبیبوں کے چور	477	یونانی تصنیفات کی اشاعت
492	دیوار پر قرآن لکھنا	477	نماز کی تاکید
493	اپنے اہل و عیال کو رزق حلال ہی کھلاؤ		قرآن میں 90 سے زیادہ بار نماز کا
494	کیوں روتے ہو؟	478	تذکرہ ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
516	افضل عبادت	496	عمل نے کام آتا ہے
516	گناہ کی تین جڑیں	497	آقائے اپنے مشتاق کو سینے سے لگالیا
518	دنیا فائدہ کم نقصان زیادہ دیتی ہے	498	بہتان تراشنے والوں کا انجام
518	دس طرح کے افراد دھوکے میں ہیں	499	دوزخیوں کی پیپ میں رہنا پڑے گا
	نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار	501	جہنم کا ہلکا ترین عذاب
519	کرنے سے بچو	501	ہمارا نازک وجود
519	تیسرا شیطان ہوتا ہے	501	قطع رحمی کرنے والے سے دور رہو
	جہالت سے بڑھ کر کوئی درد اور	502	افضل عمل کونسا ہے؟
521	گناہوں سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں		داڑھی کے بال اکھیڑنے والے کی
521	گناہوں پر اصرار ہلاکت ہے	502	گواہی مسترد کردی
522	توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا	503	داڑھیاں بڑھاؤ
523	نعمتوں میں غور عمدہ عبادت ہے	503	مرنے کے بعد کی ہوشیاری با منظر کشی
523	غرُبت کا رونا رونے والے کو محمدہ نصیحت	506	داڑھی منڈواتے ہی موت
524	کون کس کو دیکھے؟	507	سردار کون ہوتا ہے؟
526	اپنے بزرگوں کا دامن تھامے رکھو	508	رزق پہنچ کر رہے گا
526	تین نصیحتیں	509	توکل کیسا ہونا چاہئے؟
527	دل کی اصلاح کی ضرورت	509	بد مذہبوں کی صحبت سے بچو
528	معذرت کرنے والے کاموں سے بچو	510	اچھے اور بُرے مصاحب کی مثال
528	نصیحت کا شکر یہ	511	ہمیں کیا کرنا چاہئے؟
530	دل ہلادینے والی نصیحت	512	زلزلہ، صدقہ اور دعائیں
532	امیر المؤمنین کی بیٹے کو نصیحت	513	زلزلہ کیسے آتا ہے
532	صاحبزادے کی وفات سے عبرت	515	زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے
534	ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں	515	فرائض کی ادائیگی کی اہمیت
535	دھوکے میں نہ رہئے	516	تقویٰ سے عقل بڑھتی ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
553	آپ کو زہریوں دیا گیا؟	536	صبر کا مثالی مظاہرہ
554	لوگوں کی ہمدردی	537	بیٹے کے دفن کے بعد بیان
554	بغیر قبض کے رہنا ہوگا	537	تعزیت پر رد عمل
555	اولاد کو وصیت		فوتگی میں بلے جانے والے کفریات
556	امیر المؤمنین کی مدنی سوچ	539	کے بارے میں سوال جواب
557	برکت کے نظارے	539	”اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے“ کہنا کیسا؟
557	وہیں لوٹا دو		نیک لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت پڑتی
558	بعد کے خلیفہ کو وصیت	540	ہے، کہنا کیسا؟
559	ایک دن تمہیں بھی اسی طرح ہونا ہے	540	”یہ اللہ کو چاہئے ہوگا“ کہنا کیسا ہے؟
560	میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا		یا اللہ! تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا!
560	قبر میں تبرکات رکھنے کی وصیت	541	کہنا کیسا؟
561	قبر کی جگہ خریدی		”یا اللہ تجھے بھری جوانی پر بھی رحم نہ
561	سادہ کفن	541	آیا، کہنا
562	دُنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں؟		”یا اللہ! ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے“ کہنے
562	موت کی سختیوں کا فائدہ	541	کا حکم شرعی
526	وقتِ وفات رونے لگے	542	محبت کا معیار
563	کلمہ پاک پڑھا	542	مدنی آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا پیغام
564	مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت	547	امیر المؤمنین کی فکرِ موت
564	دمِ رخصت تلاوتِ قرآن کی	548	موت کی دُعا کروائی
565	وفات کے وقت عمر مبارک	549	موت کی رغبت
565	خیرِ النَّاسِ کا انتقال ہو گیا	550	مزاہم بہترین وزیر
	خوبیاں بیان کرنے والے کے لئے	551	عافیت کی موت کی دعا
566	امام احمد بن حنبل کی بشارت	551	موت کی دعا کرنا کیسا؟
566	اخلاقی ٹُویاں	552	کیا آپ پر جادو کیا گیا تھا؟

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
581	آزادی کا پروانہ	566	نجیب قوم
582	جنت کے دروازے پر پروانہ نجات	567	بعد وصال چہرہ جگمگاٹھا
582	میں جنت عدن میں ہوں	567	آسمانی رقعہ
582	حضرت مکحول کے تاثرات	568	عذاب سے چھٹکارے کا بشارت نامہ
583	تقویٰ و پرہیزگاری کی قسم اٹھائی جاسکتی ہے	568	بوڑھے راہب کی عقیدت
583	اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام	569	صدیق کی قبر
583	مرنے کے بعد بھی احترام	569	سرزمین سمعان کی خوش نصیبی
584	بارگاہِ مصطفیٰ میں حاضری	569	خلافت سے وفات تک کا سفر
585	نظامِ حکومت کی تبدیلی	570	خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد
586	ماخذ و مراجع	573	پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگتے
590	شعبہ اصلاحی کتب کی کتابیں	574	غریب اسلامی بہن کی خیر خواہی
		576	ایک مسلمان قیدی کا واقعہ
		578	جب خلیفہ کا قاصد موت کی خبر لے کر پہنچا
		578	شاہِ روم کا رنج و غم
		579	نبطی کے آنسو
		579	وفات پر جنت کا اظہارِ غم
		580	ایک جن کے اشعار
		581	شہدا کی جنازے میں شرکت

وہ جن کو لوگ یاد رکھتے ہیں

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس دنیا میں روزانہ شاید ہزاروں لوگ آتے ہیں، اپنے حصے کی زندگی گزارتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد لوگ بھی انہیں بھول بھال جاتے ہیں لیکن بعض حضرات ایسے عظیم الشان انداز سے زندگی گزارتے ہیں کہ صدیوں بعد آنے والے لوگ بھی اُن کو یاد کرتے اور اُن سے محبت رکھتے ہیں حالانکہ انہیں دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز تاریخ اسلام کی ایسی ہی تابناک شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ۶۱ھ یا ۶۳ھ میں خاندان بنو امیہ میں مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً میں آنکھ کھولی اور مدینہ شریف ہی میں علم و عمل کی منزلیں طے کرنے کے بعد صرف 25 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور طائف کے گورنر بنے اور 6 سال یہ خدمت شاندار طریقے سے انجام دینے کے بعد مُستعفی ہو کر خلیفہ کے مُشیر خاص بن گئے اور سلیمان بن عبدالملک کی وفات کے بعد 10 صفر المظفر 99ھ کو تقریباً 36 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہوئے اور اس شان سے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا کہ تاریخ میں اُن کا نام سنہرے حروف سے لکھا گیا، کم و بیش اڑھائی سال خلیفہ رہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے 25 رجب 101ھ بدھ کے دن تقریباً 39 سال کی عمر میں اپنا سفر حیات مکمل کر لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپردِ خاک کیا گیا جو ملکِ شام میں ہے۔

حنبلوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُ وَيُنْشُرُهَا فَأَعْلَمُ أَنَّ مِنْ وِرَاءِ ذَلِكَ خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۴) حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی عبادت گزاری پر نظر دوڑائیں تو عابدوں کے سردار، زُہد و تقویٰ کو دیکھیں تو سُبْحَانَ اللَّهِ! ان کا خوفِ خدا دیکھ کر رشک آئے، ذوقِ تلاوت کے بارے میں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، علمی و مستویوں کو ماپنا چاہیں تو بڑے بڑے علماء ان کے سامنے زانوئے تلمذ بچھاتے دکھائی دیں، تہجدِ میدی کارناموں کا شمار کرنے جائیں تو اسلام کا پہلا مجتہد سب سے منفرد دکھائی دے، طرزِ حکومت کا مشاہدہ کریں تو کامیاب ترین حکمران اور ایسے کامیاب کہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بطورِ خلیفہ انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جس کا سوچنا بھی مشکل تھا۔ 590 صفحات پر مشتمل زیرِ نظر کتاب ”حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات“ انہی کی سیرت مبارکہ کی جھلکیوں پر مشتمل ہے۔ بلاشبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کی عظمتوں کا بیان کرنے والا تَرْدُ دِکَا شِکَارِ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم؟ کونسی حکایت پہلے بیان کرے اور کونسی بعد میں؟ پھر بھی حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی زندگی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے: (۱) خلافت سے پہلے کی زندگی اور (۲) خلافت کے بعد والی زندگی۔ یوں تقریباً 456 حکایات (جس میں کم از کم 425 حکایات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی ہیں) کا مدنی گلدستہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے ممکن ہے کہ کوئی واقعہ پہلے رونما ہوا لیکن اس کتاب میں اس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہو یوں حکایات کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہو لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ گلدستے کی خوشبو اس بات کی محتاج نہیں کہ کونسا پھول کہاں رکھا گیا ہے! اس خوشبو کو سونگھئے اور اپنے مشام جاں مُعَطَّرٌ وَمُعْتَبِرٌ کیجئے۔ اس کتاب میں شامل اکثر روایات و حکایات حضرت علامہ عبدالرحمن ابن جوزی علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی کتاب ”سیرت عمر بن عبدالعزیز“ اور حضرت علامہ عبداللہ ابن عبدالحکم علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی کتاب ”سیرت عمر بن عبدالعزیز“ سے لی گئی ہیں یہ دونوں کتابیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی سیرت کے حوالے سے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے علاوہ تاریخ دمشق، حلیۃ الاولیاء، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور احیاء العلوم وغیرہ سے بھی مواد لیا گیا ہے مگر قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر لفظ بلفظ ترجمے کے بجائے مقصود کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

شاید یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں دو ہی حسرتیں پیدا ہوں: ایک یہ کہ کاش! میں بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ جیسا بن جاؤں، اور دوسری: کاش! میں اُن کے دور میں پیدا ہوا ہوتا۔ اُن کے دور میں پیدا ہونا تو ممکن

نہیں لیکن اُن جیسا بننے کی کوشش ضرور کی جاسکتی ہے۔ چونکہ سیرتِ اشلاف کا مطالعہ محض ذوقِ افزائی کے لئے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لئے بھی ہونا چاہئے اس لئے حتی المقدور اس کتاب میں دَرَجِ روایات و حکایات سے ملنے والے مدنی پھولوں اور دَرَسوں کو تحریری شکل دے دی گئی ہے اگرچہ ان کی وجہ سے کتاب کچھ طویل ہوگئی ہے مگر یہ طوالت بے جا نہیں کیونکہ ہر ایک ان دَرَسوں کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض مقامات پر شیخِ طریقت امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظلہ العالی کی کُتُب و رسائل سے ضرورتاً لفظ بلفظ مواد نقل کیا گیا ہے جس کا حتی المقدور حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں شامل اکثر اشعار بھی آپ دامت برکاتہم العالیہ کے نعتیہ دیوان ”وسائلِ بخشش“ سے لئے گئے ہیں۔

”حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات“ کو خود بھی مکمل پڑھئے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دے کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ثواب کمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ”اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کرنے کے لئے **مَدَنی انعامات** پر عمل اور **مَدَنی قافلوں** کا مسافر بننے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول **مجلس المدینة العلمیة** کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاؤ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

شعبہ اصلاحی کتب مجلس المدینة العلمیة (دعوتِ اسلامی)

۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ، بمطابق 22 اگست 2011ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حدیث بیان کرنے سے پہلے درودِ پاک پڑھتے

جلیل القدرِ محدث حضرت سیدنا ابو عمرو بہ حُرّانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی

کے سامنے حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے دُرودِ پاک پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ

حدیث کی بَرَکَت سے دُنیا میں سَرَوَرِکَاتِ نَات، شہنشاہِ موجودات صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ

وَسَلَّمَ کی ذَاتِ اَقْدَاسِ پر کثرت سے دُرودِ پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آخِرَتِ میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔

(مسائل الحنفیاء للقطرانی ص ۳۰۵)

پڑوسی خُلد میں یَا رَبِّ بنا دے اپنے پیارے کا

تیبی ہے آرزو میری تیبی دِل سے دعا نکلے (وسائل بخشش ص ۲۱۲)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

اِبْتِدَائِي حَالَاتِ زَنْدَغِي

خليفة عادل امير المؤمنين حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن عبدالعزیز علیہ

رحمة اللہ العزیز نے ۶۱ یا ۶۳ ھ میں مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً میں

آنکھ کھولی۔ (سیرت ابن جوزی، ص ۹)

والدِ گرامی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمینِ عَرَب کے معزز ترین خاندان ”قُرَیْش“ کی شاخ ”بنوأمیہ“ کی ممتاز شخصیت تھے، 20 برس سے زائد عرصہ مِضْر کے گورنر رہے اور بہت سے یادگار کام کئے مثلاً ”حُلُوَان“ میں بہت سی نئی مسجدیں تعمیر کروائیں، مِضْر کی جامع مسجد کو اَزْسَرِنُو (یعنی نئے سرے سے) بنوایا، لوگوں کی آسانی کے لئے خلیجِ مِضْر پر دوپل بنوائے، علماء کرام کے حُقُوق و احترام کو بڑی اہمیت دی، اُن کے بیش بہا وظیفے مقرر کئے۔ جب شادی کرنا چاہی تو اپنے خزانچی کو فرمایا: مجھے میرے مال سے خالص حلال کے 400 دینار لا دو، میں نیک گھرانے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔

بِحَادِیِ الْاُولٰی ۸۵ھ میں ان کا وصال ہو گیا، وقتِ انتقال یہ الفاظ زبَان پر تھے:

”يَالَيْتَنِي لَمْ اَكُنْ شَيْئًا مَّا مَذْكَورًا اَلَّا لَيْتَنِي كُنْتُ كَهَذَا الْمَاءِ الْجَارِي اَوْ كَنْبَاتَةِ الْاَرْضِ كَاش! میں کوئی قابلِ ذِكر چیز نہ ہوتا، کاش! میں کوئی شے نہ ہوتا، کاش میں جاری پانی کی طرح ہوتا یا ایک تنکا ہوتا۔“ ۱

کاش! کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قَبْر و خَشْر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا
آہ! سَلْبِ ایماں کا خوف کھائے جاتا ہے کاش! میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جتنا ہوتا

(وسائل بخشش ص ۲۵۶)

دینہ

۱: تاریخ دمشق ج ۳۶ ص ۳۵۱ ۲: حسن المحاضرة، ج ۱ ص ۱۰۷ ۳: حسن المحاضرة، ج ۲ ص ۳۲۷
۴: سیرت ابن جوزی ص ۲۸۷ ۵: البدایہ والنہایہ، ج ۶ ص ۱۷۹ ۶: تاریخ دمشق ج ۳۶ ص ۳۵۹

اے دنیا! ہم دھوکے میں رہے

جب حضرت عبدالعزیز بن مروان علیہ رحمۃ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا: ”مجھے وہ کفن دکھاؤ جس میں تم مجھے کفناؤ گے۔“ جب کفن سامنے آیا تو اُسے دیکھ کر فرمانے لگے: میرے اتنے سارے مال میں صرف یہ میرے ساتھ جائے گا! اور منہ پھیر کر رونے لگے پھر فرمایا: اے دنیا! تجھ پر افسوس ہے کہ تیرا مال اگر بہت زیادہ ہو تو کم پڑتا ہے اور اگر تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، آہ! ہم تیری طرف سے دھوکے میں رہے۔ (درمنثور ج ۴ ص ۱۹۳)

مرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر
کر اُلقت میں اپنی فنا یا الہی (وسائل بخشش ص ۷۸)

خواب میں والدِ گرامی کی زیارت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں، میں نے پوچھا: ائی الأعمالِ وَجَدتْ أَفْضَلَ؟ یعنی آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا: ”اِسْتِغْفَارُکُو“ (سیرت ابن جوزی ص ۲۸۷)

دلوں کے زنگ کی صفائی

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ استغفار کی فضیلت بیان فرمائی ہے چنانچہ حضرت سیدنا اُکس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتَمُ النَّبِيِّينَ، صَاحِبُ قُرْآنِ مُبِينٍ، جنابِ صَادِقِ وَاٰمِنِ صَلَّى اللهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ دَلِيشين ہے: اِنَّ لِّلْقُلُوْبِ صَدَاً كَصَدَاِ
الْحَدِيْدِ وَجَلَا وَهَآءِ الْاِسْتِغْفَارُ بِيَشْكُ لَوْ هِيَ كِطْرَحِ دُلُوْنِ كَوْبُهِيَ زَنْكٌ لِّگ جَاتَا هَے اور اس كِ
صَفَاىِ اسْتِغْفَارُ كَرْنَا هَے۔ (مَجْمَعُ الزَّوَاِجِ ج ۱۰ ص ۳۴۶ حدیث ۱۷۵۷۵)

ہر خطا تو دَرگزر کر نیکس و مجبور كِ
یا الہی! مغفرت کر نیکس و مجبور كِ (وسائل بخشش ص ۷۶)

والده محترمه

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ كِ وَالده حضرت سیدتنا اُمّ
عاصم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْہَا حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كِ صا جز ادی اور
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كِ پوتی تھیں، اس لحاظ
سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ كِ رگوں میں فاروقی خون
تھا، شاید اسی وجہ سے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْہِ كِ کے کردار و اطوار پر حضرت سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔

خوش نصیب مُبَلَّغُ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كِ بہو کیسے بنیں؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ كِ نانی جان کا امیرُ
المؤمنین، امامُ العادلین، حضرت سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كِ بہو بننے کا

واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری و حاجت روائی کے لئے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً کا دورہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مصیبت زدہ یا مظلوم مدد کا منتظر تو نہیں۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مدنی دورے میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگالی۔ اچانک ایک آواز سنا لے کوچیرتی ہوئی آپ کے کانوں سے ٹکرائی، بظاہر وہ گھسّر پھسّر ہی تھی مگر ماحول کی خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی: ”بیٹی! اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔“ کچھ وقفے کے بعد لڑکی کی آواز سنائی دی: ”امی جان! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔“ ماں نے کہا: اس وقت امیر المؤمنین اور اعلان کرنے والے تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں! جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔“ مگر بیٹی صاف انکار کرتے ہوئے کہنے لگی: تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت گزاری کروں اور تہائی میں نافرمانی!“ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بیٹی کی گفتگو سن کر مجھ سے فرمایا: ”اسلم!

اِس مکان کو اچھی طرح پہچان لو۔“ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے، جب صبح ہوئی تو مجھے اُس مکان کے مکینوں (رہنے والوں) کی معلومات کیلئے بھیجا۔ میں نے معلومات کیں تو پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اپنی کنواری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، میں نے بارگاہِ خلافت میں حاضر ہو کر اپنی کارکردگی پیش کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے دریافت فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟“ حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی: ”ہم تو شادی شدہ ہیں۔“ لیکن تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لئے راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس لڑکی کے گھر اپنے شہزادے سے شادی کے لئے پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا، شادی خانہ آبادی ہو گئی، اللہ عزَّ وَجَدَّ کے کرم سے ان کے یہاں ایک خوش قسمت بیٹی پیدا ہوئی، پھر جب اُس کی شادی ہوئی تو اس کے بطن سے ”عمر ثانی“، یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی ولادت ہوئی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ دودھ میں پانی ملانے سے انکار کرنے والی خوش نصیب مبلغہ کو اس نیکی کا کیسا عمدہ صلہ ملا کہ ایک طرف امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو اور دوسری جانب عمر ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی

نانی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کسی اُن پر رَحمت ہو اور ان کے
صَدقے ہماری بے حساب مَغفرت ہو۔

امین بجاہِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

بنادے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی
عبادت میں گزرے مری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی

(وسائل بخشش ص ۷۸)

خلافِ شریعت کا موں میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں

اس سبق آموز حکایت سے ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ اگر والدین خلاف
شریعت حَلْم دین مٹھا جھوٹ بولنے، حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا کہیں تو
یہ باتیں نہ مانی جائیں، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں، آپ نافرمان نہیں ٹھہریں گے،
بلکہ اگر ان کی خلافِ شریعت باتیں مان لیں گے تو خدائے حَتَّانِ وَمَتَّانِ عَزَّوَجَلَّ کے
نافرمان قرار پائیں گے، سرکارِ مدینہ، سلطانِ باقرینہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
کا فرمانِ باقرینہ ہے: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ يَعْنِي اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ (مسلم
ص ۱۰۲۳ حدیث ۱۸۳۰) اعلیٰ حضرت، مجددین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ
الرحمن فرماتے ہیں: جائز باتوں میں والدین کی اطاعت فرض ہے اور اگر وہ کسی ناجائز
بات کا حَلْم دین تو اس میں اُن کی اطاعت جائز نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۱ ص ۱۵۷)

گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی بڑی عادتیں بھی چھڑوا یا الہی
 مطہج اپنے ماں باپ کا کریم اُنکا ہر اک حکم لاؤں بجا یا الہی
 (وسائلِ بخشش، ص ۷۹، ۸۰)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

دودھ میں پانی ملانا

مذکورہ حکایت میں دودھ میں پانی ملانے کا بھی تذکرہ ہے، اگر دودھ بیچنے والا گاہک کو خود صاف صاف بتا دے کہ ہم اس میں اتنی مقدار (مثلاً 10%) پانی ملاتے ہیں تو ایسا دودھ بیچنا جائز ہے، یا اُس علاقے کا عُرْف ہو کہ دودھ میں دس فیصد پانی ملایا جاتا ہے اور خریدار بھی اس بات کو جانتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر عُرْف دس فیصد کا ہے یا گاہک کو دس فیصد بتایا مگر پانی زیادہ ملا دیا تو اب بیچنا ناجائز ہوگا کیونکہ فریب و دھوکہ پایا گیا، سرکارِ دو عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ“ یعنی جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم سے ہے۔“

(المعجم الكبير حديث 10233 ج 10 ص 138)

دودھ میں پانی کی ملاوٹ کے مسئلے کو اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ایک فتویٰ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے: چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاوٹ والے گھی کی خرید و فروخت کے بارے میں

سوال ہوا تو فتاویٰ رضویہ جلد 17 صَفْحَہ 150 پر فرمایا: اگر یہ مَضْنُوعِ جَعْلِي (یعنی نقلی) گھی وہاں عام طور پر پکتا ہے کہ ہر شخص اس کے جَعْل (یعنی نقلی) ہونے پر مُطَّلَع ہے اور باؤ جُودِ اِطْلَاعِ خریدتا ہے تو بشرطیکہ خریدار اسی بلد (یعنی بستی) کا ہو، نہ غریب الوطن تازہ وارد ناواقف (یعنی مسافر، نیا آنے والا اور آنجان نہ ہو) اور گھی میں اس قدر مِیل (یعنی ملاوٹ) سے جتنا وہاں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے اپنی طرف سے اور زائد نہ کیا جائے نہ کسی طرح اس کا جعلی (یعنی نقلی) ہونا چھپایا جائے۔ خُلاصہ یہ کہ جب خریداروں پر اس کی حالت مَكْشُوف (یعنی ظاہر) ہو اور فریب و مغالطہ راہ نہ پائے (یعنی دھوکہ دینے کی کوئی صورت نہ پائی جائے) تو اس (یعنی ملاوٹ والے گھی) کی تجارت جائز ہے، گھی بیچنا بھی جائز اور جو چیز اس میں ملائی گئی اُس کا بیچنا بھی، جیسے بازاری دودھ کہ سب جانتے ہیں کہ اس میں پانی ہے اور باوصفِ عِلْم (یعنی جاننے کے باؤ جُود) خریدتے ہیں، یہ (یعنی ناجائز ہونا تو) اس صورت میں ہے جبکہ بائِع (یعنی بیچنے والا) وَقْتِ بَيْع (یعنی بیچتے وقت) اصلی حالت خریدار پر ظاہر نہ کر دے اور اگر خود بتادے تو ظاہرُ الرّواہیہ ل

وَمَدَّ يَدَ امَامِ عَظِيمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي مَطْلَقًا جَائِزٍ هُوَ خَوَاهُ (گھی میں) كِتَابِي مِيل (یعنی ملاوٹ) ہو، اگرچہ خریدار غریب الوطن (یعنی پردیسی) ہو کہ بعد بیان فریب (یعنی دھوکہ)

دینہ

۱: فقہ حنفی میں ظاہر الرّواہیہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو حضرت سیدنا امام مُحَمَّد بن حَسَن شَیْبَانِی قُدْس سرُّه الرِّبَانِی کی چھ کتابوں (1) جَامِع صَغِير (2) جَامِع كَبِير (3) سِير كَبِير (4) سِير صَغِير (5) زِيَادَات (6) مَبْسُوط میں مذکور ہوں

نہ رہا۔ بالجملہ مدارِ کار ظہورِ آمر (یعنی ہر چیز کا دار و مدار معاملے کے ظاہر ہونے) پر ہے خواہ خود ظاہر ہو جیسے گے ہوں میں جو (نمایاں ہو جاتے ہیں)، یا بھت عُرف و اشتہار (یعنی عرف و شہرت کے اعتبار سے) مُشتری (یعنی خریدار) پر واضح ہو جیسے (کہ) دودھ کا معمولی پانی، خواہ یہ (یعنی بیچنے والا) خود حالتِ واقعی (یعنی حقیقتِ حال) تمام و کمال (یعنی اچھی طرح) بیان کرے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۷، ص ۱۵۰)

مدنی مشورہ: وہ اسلامی بھائی جو دودھ بیچنے کا یا کوئی اور ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں ملاوٹ کے احتمالات و معاملات ہوتے ہیں، انہیں چاہئے کہ وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے تفصیلات بتا کر دارالافتاء سے شرعی حکم معلوم کر لیں، **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** پاکستان میں دعوتِ اسلامی کے زیر انتظام ”دارالافتاء اہلسنت“ کی کئی شاخیں قائم ہو چکی ہیں جہاں رابطہ کر کے فتویٰ لیا جاسکتا ہے۔

رشتہ طے کرتے وقت کیا دیکھنا چاہئے؟

ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ جب بھی رشتہ کیا جائے تو تقویٰ و پرہیزگاری کو ترجیح دی جائے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ محبوبِ ربُّ العزت، حُسنِ انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بھی ہمیں یہی مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ ”کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے: (۱) اُس کا مال (۲) حَسَب و نَسَب (۳) حُسن و جمال اور (۴) دین۔“ پھر فرمایا: ”فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ یعنی تم دیندار عورت کے حُصول کی کوشش کرو۔“ (صحیح بخاری، کتاب النکاح، الحدیث ۵۰۹۰، ج ۳، ص ۴۲۹)

مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ والد کی بیٹی گھر میں آئے تاکہ ہمارے بیٹے کے سارے اُزمان نکلیں، اس قدر جہیز ملے کہ گھر بھر جائے بلکہ اب تو ہاتھ جھاڑ کر منہ پھاڑ کر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جہیز میں فُلاں فُلاں چیز دو گے تو شادی ہوگی، اُدھر لڑکی والوں کے سامنے اگر کسی نیک و پرہیزگار اسلامی بھائی کا رشتہ پیش کیا جائے تو بسا اوقات صرف اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ بارِ ایش (یعنی داڑھی والا) اور سنتوں کا عامل ہے جبکہ اس کے برعکس ایسے نوجوان کے رشتے کو ترجیح دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں جو والد ارہو چاہے وہ اپنے بڑے اعمال سے اللہ عزَّوَجَلَّ کو ناراض کر کے جہنم میں جانے کا سامان کر رہا ہو، اُس کی صحبت اُن کی بیٹی کو بھی خوفِ خدا عَزَّوَجَلَّ سے بے نیاز اور اُس کی عبادت سے غافل کر سکتی ہو۔ ہمارے اَسلاف اِس حوالے سے کیسی مدنی سوچ رکھتے تھے، اِس حکایت سے اندازہ کیجئے، چُنانچہ

تلاشِ رشتہ

حضرت سیدنا شیخِ کرمانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دُنیاوی مَشَاغِل سے بہت دُور ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک صاحبزادی تھی جو حُسنِ صورت کے ساتھ ساتھ حُسنِ سیرت سے بھی آراستہ تھی۔ ایک دن اُسی صاحبزادی کے لئے شاہِ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سیدنا شیخِ کرمانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نہیں چاہتے تھے کہ ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو۔ اِس لئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ کو ٹال دیا اور

مسجد مسجد گھوم کر کسی متقی نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ دوران تلاش ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت و پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: ”تمہاری شادی ہو چکی ہے؟“ اُس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا: ”کیا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت، پاکباز اور نیک ہے۔“ اُس نے کہا: ”میں تو ایک غریب شخص ہوں بھلا مجھ سے ان پاکیزہ صفات کی حامل لڑکی کا رشتہ کون کرے گا؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”میں کرتا ہوں، یہ ذرا ہم لو اور ایک دُزہم کی روٹی، ایک دُزہم کا سالن اور ایک دُزہم کی خوشبو خرید لاؤ۔“ نوجوان وہ چیزیں لے آیا۔ حضرت سیدنا شیخ کرمانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اُس نیک و پارسا نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ صاحبزادی جب رخصت ہو کر اس نوجوان کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک صُراحی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اُس صُراحی پر ایک روٹی رکھی ہوئی دیکھی تو پوچھا: ”یہ روٹی کیسی ہے؟“ نوجوان نے جواب دیا: ”یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لئے رکھ لی تھی۔“ یہ سن کر کہنے لگی: مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے۔ نوجوان نے کہا: ”مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔“ صاحبزادی نے پلٹ کر کہا: ”میں آپ کی مُفلسی کے باعث نہیں لوٹ رہی ہوں بلکہ اس لئے کہ مجھے آپ کا توکل کمزور نظر آ رہا ہے، مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ نِصَلت،

عَفِيف اور صالح کیسے کہا جب کہ آپ کا اللہ عَزَّوَجَدَّ پر بھروسے کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہیں۔“ یہ باتیں سن کر نو جوان بہت متاثر ہوا اور ندامت کا اظہار کیا۔ لڑکی نے پھر کہا: ”میں ایسے گھر میں نہیں رُک سکتی جہاں ایک وَثَق کی خوراک جمع کر کے رکھی ہو، اب یہاں میں رہوں گی یا روٹی!“ یہ سن کر نو جوان فوراً باہر نکلا اور روٹی خیرات کر دی۔

(روض الریاحین، الحکایۃ الثانیۃ والتسعون بعد المائۃ، ص ۱۹۲)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ چھوٹی سی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے بچا جان حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں بکثرت حاضر ہوا کرتے تھے اور اپنی والدہ سے اکثر اس خواہش کا اظہار کیا کرتے کہ میں ان (یعنی سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) جیسا بننا چاہتا ہوں۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۰)

۷۔ بنادے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ

گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی (وسائل بخشش ص ۷۸)

اپنے ننھیال میں رہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ کچھ بڑے ہوئے تو والد محترم حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گورنر بن گئے۔ وہاں جا کر

اپنی زوجہ ”ام عاصم“ کے نام پیغام بھیجا کہ بچے کو لے کر مضر آ جائیں۔ حضرت سیدنا ثنا ام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اپنے چچا جان حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر کے پیغام سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: ”بھتیجی! تمہارے شوہر نے بلایا ہے تو تمہیں جانا ہی چاہئے۔“ جب وہ روانہ ہونے لگیں تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہدایت کی: اس مدنی منے (یعنی عمر بن عبدالعزیز) کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، یہ تم سب کی بہ نسبت ہمارے گھرانے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اپنے چچا کی بات ٹالنا انہیں اچھا نہ لگا، چنانچہ وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو وہیں چھوڑ گئیں۔ جب مضر پہنچیں تو حضرت سیدنا عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش خوشی اپنے بیٹے کے استقبال کے لئے نکلے جب انہیں اپنا تخت جگر دکھائی نہ دیا تو دریافت کیا: میرا بیٹا عمر کہاں ہے؟ حضرت سیدنا ام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصرار پر انہیں مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً چھوڑ آنے کا سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے بھائی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو سارا واقعہ لکھ کر بھیجا جنہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے اخراجات کے لئے ایک ہزار دینار ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۱)

موت یاد آنے پر رو دیئے

سہولیات و آسائشات کے ماحول میں سانس لینے کے باوجود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا دل اللہ عزوجل کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا چنانچہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دن حفظِ قرآن مکمل کیا تو اچانک رونے لگے، والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کو پتا چلا اور انہوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو عرض کی: ”ذَكَرْتُ الْمَوْتَ لِعِنِّي مَجْهِي مَوْتَ يَادَا كَيْ تَهِي“۔ اپنے چھوٹے سے مدنی منے کی یاد آخرت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگی۔ (تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۱۳۵)

اے کاش! ان نفوسِ فُذِیَہ کے صدقے میں ہماری آنکھوں سے بھی غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہم بھی اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، اگرچہ یہ طے ہے کہ ”اک دن مرنا ہے آخر موت ہے“ مگر موت کو یاد کرنا فائدے سے خالی نہیں، چنانچہ

یادِ موت کا فائدہ

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فَمَنْ أَثْقَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَجَدَ قَبْرَهُ رُوْضَةً مِّنْ رِّبَاطِ الْجَنَّةِ لِعِنِّي جَسَمِي مَوْتَ يَادَا خَوْفٌ زِدَةٌ كَرْتِي هِي“

قبر اُس کے لئے جنت کا باغ بن جائے گی۔“ (جمع الجوامع، الحدیث ۳۵۷۶، ج ۲، ص ۱۳)

آہ! ہر لمحہ گنہ کی کثرت و بھرمار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفسِ بد اطوار ہے زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے نفس! گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے

(وسائلِ بخشش، ص ۱۲۸)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

سَيِّدُ نَافَرُوقِ الْعَظْمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كِي بَشَارَت

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کوئی

خواب دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد فرمایا: ”میری اولاد میں سے ایک شخص جس کے

چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کثرت کہا کرتے:

”لَيْتَ شَعْرِي مَنْ هَذَا الَّذِي مِنْ وَكْدِ عَمْرِفِي وَجِهِهِ عَلَامَةٌ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا

یعنی کاش! مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے ابو جان (یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ

عنہ) کی اولاد میں سے کون ہوگا جس کے چہرے پر نشان ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر

دے گا؟“ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے رہے اور

”فاروقی خاندان“ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر دیکھنے

کا منتظر رہا یہاں تک کہ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نواسے حضرت

سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی ولادت ہوئی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰، ۱۱)

خوابِ فاروقی کی تعبیر

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اپنے والد محترم سے ملنے مضر آئے تو کچھ عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن دراز گوش (یعنی گدھے) پر سوار تھے کہ زمین پر گر گئے، اُن کی پیشانی پر زخم آیا، ان کے کم سن سوتیلے بھائی اصْخِغ بن عبدالعزیز نے جب ان کی پیشانی سے خون بہتا دیکھا تو خوشی سے اُچھلنے لگے، جب ان کے والد حضرت سیدنا عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو معلوم ہوا تو ناراضی کا اظہار کیا کہ تم اپنے بھائی کے زخمی ہونے پر ہنستے ہو! اصْخِغ نے وضاحت پیش کی: میں ان کی مصیبت پر ہرگز خوش نہیں ہوا اور نہ ان کے گرنے پر ہنسا ہوں بلکہ میری خوشی کا سبب یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ ان میں ”اَشْجُرُ بَنَسِيْ اُمَيْسَه“ کی ساری علامتیں موجود ہیں مگر پیشانی پر زخم کا نشان نہیں، جب یہ سواری سے گرے اور پیشانی پر زخم آیا تو میں بے اختیار خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ یہ سن کر والد صاحب خاموش ہو گئے اور کہا: جس سے اس قسم کی اُمیدیں وابستہ ہوں اس کی تعلیم و تربیت مدینہ منورہ زانھا اللہ شرفاً و تعظيماً و تَكْرِيماً ہی میں ہونی چاہئے۔ چنانچہ انہیں مدینے شریف بھیج دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۱) اور وہاں کے مشہور عالم اور محدث حضرت سیدنا صالح بن کيسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کا اتالیق (یعنی نگران استاذ) مقرر کیا۔

خود مدینے شریف جانے کی درخواست کی

بعض روایات کے مطابق حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے والد محترم سے درخواست کی تھی کہ مجھے پڑھنے کے لئے مدینہ منورہ

زَادَهَا اللَّهُ شُرْفًا وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا بھیج دیا جائے، چُننا نچہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اپنے ساتھ مضر سے شام لے جانا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی: ابا جان! میں آپ کو ایسا مشورہ نہ دوں جس میں ہم دونوں کا فائدہ ہو! فرمایا: وہ کیا؟ عرض کی: آپ مجھے مدینے شریف کی پربہار علمی فضا میں بھیج دیجئے تاکہ میں وہاں کے فقہائے کرام و مشائخ عظام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام سے علم و عمل کے مدنی پھول حاصل کر سکوں۔ والد صاحب کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو ایک خادم کے ہمراہ مدینہ منورہ زَادَهَا اللَّهُ شُرْفًا وَ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا بھیج دیا۔

(البدایۃ والنہایۃ، ج ۶، ص ۳۳۲)

بال مُنْتَد وادبے

حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دیانت و محنت کے ساتھ اپنے شاگرد رشید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے کردار و گفتار کی نگرانی کی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نماز کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ اُستاذ محترم نے وجہ پوچھی تو بتایا: ”میں اُس وقت بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔“ تڑپ کر بولے: ”بال سنوارنے کو نماز پر ترجیح دیتے ہو!“ اور اس بات کی خبر مضر میں آپ کے والد محترم کو کر دی، انہوں نے اُسی وقت اپنا خاص آدمی بیٹے کو سزا دینے کے لئے

بھیجا جس نے مدینے شریف پہنچتے ہی سب سے پہلے اُن کے بال مُنڈوائے پھر کوئی دوسری بات کی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۴) اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت اُن تمام اخلاقی برائیوں سے پاک تھی جن میں بنو اُمیّہ کے کئی نوجوان مُبتلا تھے۔

اس حکایت میں اُن والدین کے لئے دَرس پوشیدہ ہے جو اپنی اولاد کی مَدَنی تربیت پر خاطر خواہ توجُّہ نہیں دیتے، اُن سے دُنیاوی تعلیم کے بارے میں تو پوچھ گچھ کرتے ہیں مگر نمازوں کی ادائیگی کی ترغیب نہیں دیتے، یاد رکھئے کہ تربیتِ اولاد صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انہیں کھانے پینے اور لباس جیسی ضروریات اور دیگر آسائشات مہیا کر دی جائیں بلکہ انہیں اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا مُطَبِّع و فرمانبردار بنانے کی کوشش کرنا بھی والدین کی ذمّہ داریوں میں شامل ہے۔^۱

سے یارب بچالے تُو مجھے نارِ جَحیم سے
اولاد پہ بھی بلکہ جہنّم حرام ہو (وسائلِ بخشش ص ۱۸۹)

عظمتِ الہی سے معمور سینہ

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ کے والد حج کے لئے آئے اور اپنے بیٹے کے استاذِ محترم حضرت سیدنا صالح بن کيسان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ سے ملاقات کی تو انہوں نے مَدَنی مَنے کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے ارشاد

مدینہ

۱: اولاد کی بہترین تربیت کیونکر کی جائے، یہ جاننے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 188 صفحات پر مشتمل کتاب ”تربیتِ اولاد“ کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔

فرمایا: میں نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جس کے دل میں اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی اتنی عظمت ہو جتنی اس بچے کے سینے میں ہے۔ (تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۱۳۵)

حلیہ شریف

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ كَارِنگ سفید، چہرہ پتلا، آنکھیں گہری اور چہرے پر خوبصورت داڑھی مبارک تھی، بچپن میں دراز گوش (یعنی گدھے) نے پیشانی پر لات ماری تھی جس کا نشان باقی تھا اور اس لئے وہ ”أَشَجُّ بَنِي أُمَيَّةَ“ کہلاتے تھے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۷ ملخصاً)

بزرگانِ دین کی بارگاہوں میں حاضریاں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت پانچکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک، سائب بن یزید اور یوسف بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہٴ دَرَس میں بھی شریک ہوئے۔ یوں ان بزرگانِ دین رَحْمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ کی صحبتِ بابرکت میں قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے وہ مقام حاصل کیا کہ آپ کے ہم عصر بڑے بڑے مُخْتَدِّثین کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فَضْل و کمال کا اعتراف رہا، چنانچہ حضرت سیدنا علامہ ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ اِن الفاظ میں لکھا ہے: ”وہ بہت بڑے امام، فقیہ، مجتہد، حدیث کے بہت ماہر اور

معتبر حافظ تھے۔“ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۹۰) حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ المنان نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مَعْلَمُ الْعُلَمَاءِ قرار دیا اور فرمایا: ”ہم ان کے پاس اس خیال سے آئے تھے کہ وہ ہمارے محتاج ہوں گے، لیکن معلوم ہوا کہ ہم خود ان کی شاگردی کے لائق ہیں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۳۵) ایک صاحب جو حضرت سیدنا ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی قد آور علمی شخصیات کی صحبت میں رہ چکے تھے، ان کا بیان ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ جاننے کی ضرورت پڑی تو اُس کا جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ملا، وہ یقیناً سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ (البدایۃ والنہایۃ، ج ۶، ص ۳۳۳)

رات بھر مدنی مذاکرہ جاری رہا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن طاووس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا طاووس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نمازِ عشاء کے بعد ایک شخص سے مصروف گفتگو ہوئے تو رات بھر مدنی مذاکرہ جاری رہا حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کے لئے والدِ محترم سے اُن کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: یہ خاندانِ بنو امیہ کے سب سے نیک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز (علیہ رحمۃ اللہ العزیز) تھے۔ (البدایۃ والنہایۃ، ج ۶، ص ۳۳۳)

ہاتھوں ہاتھ جواب

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایسے زبردست فقیہ و عالم

تھے کہ بڑے بڑے علماء کرام مشکل ترین سوالات کیا کرتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھوں ہاتھ ان کے جوابات دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ججاز اور شام کے متعدد علماء جمع تھے، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الملک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْخَالِقِ سے کہا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ سے پارہ 22 سورہ سبا کی آیت 52 کی تفسیر پوچھئے:

أَلَيْسَ لَّهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝
ترجمہ کنزالایمان: اب وہ اسے کیونکر
(پ ۲۲، سبا: ۵۲) پائیں اتنی دور جگہ سے!

انہوں نے جا کر پوچھا تو فرمایا: ”التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ“ سے وہ تو بہ مراد ہے جس کی ایسی حالت میں خواہش کی جائے جس میں انسان اُس پر قادر نہ ہو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۳۷)

علمی مشاغل جاری نہ رکھ سکے

اُمورِ سلطنت میں مصروفیت کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ علمی مشاغل جاری نہ رکھ سکے، خود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے:

خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَعْلَمُ مِنِّي، فَلَمَّا قَدِمْتُ الشَّامَ نَسِيتُ عَنِ
میں مدینہ طیبہ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا سے زبردست عالم بن کر نکلا مگر شام آ کر
(مصروفیت کی وجہ سے) بھول گیا۔ (تذکرۃ الحفاظ للذہبی ج ۱، ص ۹۰)

آپ نے یاد رکھا اور میں بھول گیا

عظیم مُجَدِّث حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ملاقات کی اور دورانِ گفتگو کچھ احادیث سنائیں تو فرمایا: کُلُّ مَا حَدَّثْتُ بِهِ فَقَدْ سَمِعْتَهُ، وَلَكِنَّكَ حَفِظْتَ وَنَسِيتُ جو حدیثیں آپ نے بیان کیں وہ سب میں نے بھی سنی تھیں مگر آپ نے انہیں یاد رکھا اور میں بھول گیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۷)

آپ تابعی بھی ہیں

”تابعی“ اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو۔ (تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ص ۳۹۲) اپنے والدِ گرامی کی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بھی تابعی ہیں کیونکہ آپ نے معتدِّ وصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات کا شرف پایا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے مَرْوِی احادیث مبارکہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے کئی صحابہ کرام علیہم الرِّضْوَانُ اور اپنے ہم عصر تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے احادیث روایت کی ہیں مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکومتی مصروفیات کے باعث روایتِ حدیث پر زیادہ توجُّہ نہیں دے سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت کم احادیث مَرْوِی ہیں، حافظ باغندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ”مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ“ کے نام سے ایک مجموعہ

بھی ترتیب دیا ہے۔ بہر حال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے مزویٰ احادیث میں سے 6 روایتیں بطور برکت یہاں درج کی جا رہی ہیں:

(۱) نیکی کی دعوت چھوڑنے کا انجام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا انس

بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْلُطَنَّ عَلَيْكُمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِكُمْ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ“ یعنی تم ضرور بھلائی کی دعوت دو گے اور برائی سے منع کرو گے ورنہ تم پر باہر سے ایسا دشمن مسلط کر دیا جائے گا کہ تم اس کے خلاف دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸)

۷ نہ ”نیکی کی دعوت“ میں سستی ہو مجھ سے

بنا شائقِ قافلہ یا الہی (وسائلِ بخشش ص ۷۵)

(۲) پسندیدہ نوجوان

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم رسولِ محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابَّ الَّذِي يَفْنَى شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ“ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی

فرمانبرداری میں بسر کی ہو۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹)

ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت
جو کرنا ہے اب کر لو ابھی ٹوری جواں تم ہو

(۳) محبتِ رمضان

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے حضرت سیدنا عبادة

بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بیشک جب رمضان آتا تو رسول
ہاشمی، مکی مدنی، محمد عَزَّ بِیْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دعا کرتے: **اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ لِيْ
لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِيْ رَمَضَانَ وَتَسَلِّمْهٖ مِنِّيْ مُقْبِلًا** یعنی اے اللہ مجھے رمضان کے لئے
سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لئے سلامتی بنا اور میری طرف سے اسے بطور رضا من قبول فرما۔“

(سیرت ابن جوزی ص ۲۱)

تجھ پہ صدقے جاؤں رَمَضَانَ! تُو عَظِيْمِ الشَّانِ ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے
ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہِ رَمَضَانَ رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے

(وسائلِ بخشش ص ۵۵۳)

(۴) حالتِ حُب میں سونا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے حضرت سیدنا عروہ

بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی: **”كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يِّنَامَ وَهُوَ جَنَبٌ**

تَوَضُّأً وَضَوْءَهُ لِلصَّلَاةِ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حالتِ جب میں سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو کرتے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷)

(۵) ذِکْرُ اللّٰهِ نَہِ كَرْنِے پَر حَسْرَت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے حضرت سیدنا عمر بن زُبَیْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اُمُّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے اللہ کے محبوب، دانائے غُیُوبِ و سَاغِرِ الْعِیُوبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُّ بِاَبْنِ اٰدَمَ لَمْ یَکُنْ ذَاکِرًا لِلّٰهِ فِیْہَا بِخَیْرٍ اِلَّا حَسِرَ عَلَیْہَا یَوْمَ الْقِیَمَةِ یعنی ابنِ اَدَم پر کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس میں وہ بھلائی کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر نہ کرے مگر قیامت کے دن اس پر اُسے ہمت ہوگی۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷)

رہے ذِکْر آٹھوں پہر میرے لب پر

ترا یا الہی ترا یا الہی (وسائلِ بخشش ص ۷۷)

(۶) اسلام کا خلق حیا ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے حضرت سیدنا امام زُہْرِی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت سیدنا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رَحْمَتِ عَالَمِ، نُورِ مَجْسَمِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اِنَّ لِکُلِّ دِیْنٍ خُلُقًا وَاِنَّ خُلُقَ الْاِسْلَامِ الْحِیَاءُ یعنی بے شک ہر دین کا

ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۳۱)

اُٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب

عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یارب (وسائل بخشش ص ۹۹)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

شادی خانہ آبادی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز طرباً

صالح اور نیک تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا خلیفہ عبدالملک

نے ہمیشہ ان کو دیگر اموی شہزادوں کی نسبت زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ

سے دیکھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کی وفات کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی شادی

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کر دی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۶)

تاریخی اعزاز

حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کو ایک مثنوی تاریخی

اعزاز حاصل ہے جسے کسی شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا ہے:

بُنْتُ الْخَلِيفَةَ وَالْخَلِيفَةَ جَدُّهَا أُخْتُ الْخَلِيفَةِ وَالْخَلِيفَةُ زَوْجُهَا

یعنی: وہ ایک خلیفہ (یعنی عبدالملک) کی بیٹی تھی، اس کا دادا (یعنی مروان) بھی خلیفہ تھا، وہ خلفاء (یعنی

ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، اور یزید بن عبدالملک) کی بہن تھی اور اس کے شوہر (یعنی عمر

بن عبدالعزیز) بھی خلیفہ تھے۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۹۶)

اخراجات کی کیفیت

صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں: خلیفہ عبدالملک بن مروان نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے اپنی بیٹی بیاتہ وقت خرچ کا حال دریافت کیا تو جواب دیا: ”نیکی دو بدیوں کے درمیان ہے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۳۶) اس سے مراد یہ تھی کہ خرچ میں اعتدال نیکی ہے اور وہ اشرف و اقطار (یعنی فضول خرچی اور تنگی) کے درمیان ہے جو دونوں بدیاں ہیں۔ اس سے عبدالملک نے پہچان لیا کہ وہ سورہ فرقان کی آیت 67 کے اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا ﴿۱۹﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔

(خزائن العرفان، تحت الایۃ ۶۷)

آزواج و اولاد

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے کل تین شادیاں کیں بقیہ دو بیویوں کے نام لمیس بنت علی بن حارث اور ام عثمان بنت شعیب بن زیان ہیں اور آپ کی ایک کنیز ام الولد لے تھی۔ ان چاروں میں ہر ایک سے اولاد پیدا ہوئی،

مدینہ
۱: ام الولد اس کنیز کو کہتے ہیں جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور مولیٰ (یعنی اس کے مالک) نے اقرار کیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۲۹۴)

کنیز سے 7 بیٹے یعنی عبدالملک، ولید، عاصم، یزید، عبداللہ، عبدالعزیز، زیان اور 2 بیٹیاں امینہ اور ام عبداللہ پیدا ہوئیں۔ ”ام عثمان“ سے صرف ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، دو بیٹے عبداللہ اور بکر اور بیٹی ام مہار ”لمیس بنت علی“ کے بطن سے تھے اور بقیہ اولاد یعنی اسحاق، یعقوب اور موسیٰ، ”فاطمہ بنت عبدالملک“ کے بطن سے تھی۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجموعی اولاد 16 تھی جن میں 14 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۵ ملتقطاً)

اولاد کی تربیت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ انتظام کیا، چنانچہ جلیل القدر محدث حضرت سیدنا صالح بن کسبان علیہ رحمۃ الحنان جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاذ محترم تھے، ان کو اپنی اولاد کا اتالیق (یعنی نگران استاذ) مقرر کیا۔ (التحفة اللطیفۃ فی تاریخ المدینۃ الشریفۃ، حرف الصاد، ج ۱ ص ۳۰۲) علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آزاد کردہ غلام سہل بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ان کو بہترین تعلیم و تربیت دینے پر خود بھی متوجہ کرتے رہتے تھے، چنانچہ ایک بار انہیں خط میں لکھا:

فکرِ تربیتِ اولاد پر مشتمل ایک مکتوب

میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو تزکِ صحبت کی طرف توجہ دلاؤ کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے، انہیں کم ہنسنے دو

کہ زیادہ ہنسنا دل کو مُردہ کر دیتا ہے، تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم بات جو وہ سیکھیں وہ یہ ہے کہ انہیں گانے باجے کی طرف سے نفرت ہو کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اُگتا ہے، میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے جذول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت کرے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ میں تیر و کمان لے کر برہنہ پا (یعنی ننگے پاؤں) نکل جائے اور سات تیر چلا کر نشانہ بازی کی مشق کرے، پھر قیلولہ (یعنی دوپہر کا آرام) کرنے کے لیے واپس آئے کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”قیلولہ کرو اس لئے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۲۹۷)

بیٹے کے نام نصیحت آموز خط

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز براہ راست اپنی اولاد کو بھی تربیت و نصیحت کے مدنی پھولوں سے نوازتے رہتے تھے، چنانچہ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں لکھا: تم اپنے آپ اور اپنے والد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، پھر اپنے باپ کی ان کاموں میں مدد کرو جن پر اسے قدرت حاصل ہے اور اس معاملہ میں بھی مدد کرو جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا باپ ان کو انجام دینے سے عاجز ہے۔ تم اپنی جان، صحت اور جوانی کی پوری رعایت رکھو، اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زبان تحمید و تسبیح کی صورت میں اللہ عزوجل کے ذکر سے تر رکھو، اس لئے کہ تمہاری اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر ہے۔ جو شخص جنت

کی رَغْبَت رکھتا ہو اور جہنم سے بھاگتا ہو تو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔ مدتِ مقررہ (یعنی موت) کے آنے سے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جن و انس کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے سے پہلے، اللہ تعالیٰ انہیں اُن کے اعمال کا بدلہ دے گا ایسی جگہ جہاں فِذِیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور جہاں معذرت نفع مند نہیں ہوگی اور جہاں پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے، لوگ اپنے اعمال کا بدلہ لے کر لوٹیں گے اور متفرق ہو کر اپنے اپنے مقامات کی طرف جائیں گے، پس اس آدمی کے لئے خوش خبری ہے جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کی اور اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری عطا کر کے آزمائے تو اپنی مالداری میں میا نہ رَوِی اختیار کرنا، اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو جھکا لو، اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے حُوق کو ادا کرو، اور مالداری کے وقت وہ بات کہو جو حضرت سلیمان علیٰ

نَبِینَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے کہی تھی، یعنی

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ﷻ لِيَبْلُوَنِي
عَاشِكُمْ أَمْ أَكْفُرُ ط
ترجمہ کنز الایمان: یہ میرے رب کے
فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر

کرتا ہوں یا ناشکری۔ (پ ۱۹، النمل: ۴۰)

اور تم فخر و خود پسندی سے اجتناب کرنا اور اسی طرح اپنے رب کے دیئے ہوئے مال کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہاری کسی شرافت کی بنا پر تمہیں ملا ہے

یا کسی ایسی فضیلت کی بنیاد پر ملا ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مال نہیں دیا ہے، پھر اگر تم نے اللہ عزوجل کے شکر میں کوتاہی کی تو نافر وفاقہ کا مزہ چکھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو گے جنہوں نے مالداری کی بنیاد پر سرکشی کی اور ان کو اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا، بیشک میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں حالانکہ میں اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا ہوں، بہت سے امور میں غلطی کرنے والا ہوں اور اگر آدمی اپنے امور کے ٹھیک ہونے تک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامل ہونے تک اپنے بھائی کو نصیحت نہ کرتا تو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے اور حرام کاموں کو حلال سمجھنے لگتے، اور نصیحت کرنے والے اور زمین میں اللہ کے لئے خیر خواہی کرنے والے کم ہو جاتے، پس اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لئے زمین و آسمان میں کبریائی ثابت ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۱۰)

مسلمان کے بارے میں حُسنِ ظن رکھو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی اولاد کی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت میں بھی بھرپور کوشش فرمائی، چنانچہ ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو نصیحت کی: إِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةً مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ فَلَا تَحْمِلْهَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ مَا وَجَدْتَ لَهَا مُحْمَلًا عَلَى الْخَيْرِ یعنی جب تم اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے کوئی بات سنو تو اس وقت تک بُرائی پر مَحْمُول نہ کرو جب تک اس میں بھلائی کا ادنیٰ سے

ادنی احتمال باقی رہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۱۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اگر ہم اس مدنی پھول پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں ایسا روحانی سکون محسوس ہوگا جس کی لذت بیان سے باہر ہے، یاد رکھئے کہ مسلمان سے حُسن ظن رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ عبادت بھی ہے چنانچہ

حُسن ظن عُمده عبادت ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا، غُیوب، مُنَزَّہ عَنِ الْغُیُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْه وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ یعنی حُسن ظن عُمده عبادت ہے۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، ج ۴، ص ۳۸۷، الحدیث ۴۹۹۳)

مسلمان کا حال حتی الامکان اچھائی پر تحمل کرنا واجب ہے

امام اہلسنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ شریف میں لکھتے ہیں: ”مسلمان کا حال خُشی الامکان صلاح (یعنی اچھائی) پر تحمل کرنا (یعنی گُمان کرنا) واجب ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۹، ص ۶۹۱)

مسلمان کی بات کا بُرا مطلب لینا بھی بدگمانی ہے

صدرُ الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں: ”مؤمن صالح کے ساتھ براگمان ممنوع ہے اس طرح (کہ) اُس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باؤدیکہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو یہ بھی گُمانِ بد میں

وَاخْلُ هَلْ“ (خزائن العرفان، پ ۲۶، الحجرات: ۱۲)

مھے غیبت و چغلی و بدگمانی
کی آفات سے تُو بچا یا الھی (وسائل بخشش ص ۸۰)
صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد
غفلت سے بچ کر رہنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْز نے اپنے بیٹے کے نام
ایک خط میں نصیحت فرمائی: اِحْذَرِ الصَّرْعَةَ عَلٰی الْغُفْلَةِ وَلَا تَغْتَرَنَّ بِطَوْلِ الْعَافِيَةِ
یعنی غفلت سے بچ کر رہنا اور لمبے عرصے کے لئے ملنے والی عافیت سے ہرگز غلط فہمی
میں مُبْتَلَا نہ ہونا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس مدنی پھول کی خوشبو کو عمر بھر کے لئے اپنے
دل میں بسا لیجئے، یقیناً آفات و بلیات سے عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
مگر اُس کی وجہ سے گناہوں پر دلیر ہو جانا سراسر غفلت ہے کیونکہ رب عَزَّوَجَلَّ کی گرفت
بہت شدید ہے جیسا کہ پارہ 30 سورہ بروج کی آیت 12 میں ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک تیرے رب کی
گرفت بہت سخت ہے۔

مدینہ

۱: بدگمانی کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ
المدینہ کے مطبوعہ 57 صفحات پر مشتمل رسالے ”بدگمانی“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

خواب میں مخصوص دعا سکھائی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے شہزادے حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو یزید بن ولید کے دور میں حرمین طہیین کے گورنر بھی رہے، ان کا بیان ہے کہ مجھے علم حدیث کے زبردست امام حضرت سیدنا زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی زیارت کا بہت شوق تھا، بالآخر مجھے خواب میں ان کی زیارت نصیب ہو ہی گئی۔ میں نے عرض کی: حضرت! کوئی مخصوص دعا بتائیے۔ فرمانے لگے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي وَذَرِيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میرا بھروسا اسی پر ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی مرے گا نہیں، یا اللہ عزوجل میں تجھ سے عافیت کا سوالی ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میری اولاد کو شیطان مر دود سے محفوظ فرمادے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۱۲)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

گورنر بن گئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے علمی فضل و کمال کے اظہار کا سب سے موزوں ذریعہ دُرس و تدریس تھا مگر خاندانِ خلافت سے تعلق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشد خلافت تک لے گیا، مگر اس سے پہلے ”خناصرہ“ پھر مدینہ

منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظيماً و تکریماً میں صرف 25 سال کی عمر میں گورنر کے عہدہ پر بھی

فائز ہوئے، مگر یہ خدمت بھی آپ نے آسانی سے قبول نہیں کی، چنانچہ

گورنری قبول کرنے کے لئے شرط رکھی

خليفة وقت وليد بن عبد الملك نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ

اللہ العزیز کو مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظيماً و تکریماً، مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و

تعظيماً، اور طائف کا گورنر مقرر کیا مگر آپ یہ خدمت قبول کرنے میں پس و پیش کرتے

رہے، خلیفہ کے بار بار کہنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گورنری اس شرط پر قبول کی

کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی پر مجبور نہ کیا جائے۔ ولید نے

اس شرط کو منظور کرتے ہوئے کہا: اَعْمَلُ بِالْحَقِّ وَإِنْ لَمْ تَرْفَعِ الْيَدَيْنَا إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا

یعنی آپ حق پر عمل کیجیے چاہے ہمیں ایک ہی درہم وصول ہو۔ (سیرت ابن جوزی ۴۲)

ظلم کا انجام ہلاکت ہے

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ

رحمۃ اللہ العزیز کا مدنی ذہن ملاحظہ کیا کہ گورنری کا عہدہ جو اختیارات کا مرکز تھا، اس

کو بھی آپ نے اس شرط پر قبول کیا کہ مجھے ظلم کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یقیناً

لوگوں پر ظلم کرنے میں دنیا و آخرت کی بربادی ہے، اس میں اللہ ورسول عزوجل

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ لہذا اگر

ہمیں کوئی منصب یا عہدہ حاصل ہو جائے تو اس بات کا بے حد خیال رکھنا چاہئے کہ

کہیں عزت و طاقت کا غرور ہمیں لوگوں پر ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے جس کے نتیجے میں ہم میدانِ محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں۔

ظلم کسے کہتے ہیں؟

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 62 صفحات پر

مشتمل رسالے ”ظلم کا انجام“ کے صفحہ 9 پر ہے: حضرت جُزْجانی قُدِّسَ سِرُّهُ السُّورَانِی

اپنی کتاب ”التَّعْرِیْفَات“ میں ظلم کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کسی چیز کو

اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا۔ (التعريفات للسجر جانی ص 102) شریعت میں ظلم

سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو غیر قُصُور کے سزا

دینا۔ (مراۃ ج ۶ ص ۶۶۹)

مُفْلِس کون؟

حضرت سیدنا مُسْلِم بن حَاجَّاجُ ثُقَیْشِرِی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے مشہور

مجموعہ حدیث ”صَحِیحُ مُسْلِم“ میں نقل کرتے ہیں: سرکارِ نامدار، مدینے کے

تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے نغمسار، ہم بیکسوں کے

مددگار، شفیعِ روزِ شُمارِ جنابِ احمد مختارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسْتِنْصَافِ فرمایا: کیا

تم جانتے ہو مُفْلِس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عَرَضِ کی: یا رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہم میں سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہوں وہ مُفْلِس

ہے۔ فرمایا: ”میری اُمّت میں مُفْلِس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور

زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اُس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اُس کا خون بہایا، اُسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اُس مظلوم کو پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لیکر اُس ظالم پر ڈال دی جائیں پھر اُسے آگ میں پھینک دیا جائے۔“ (مسلم ص ۱۳۹۴ حدیث ۲۵۸۱)

لَرَزَاٹھو!

اے نمازیو! اے روزہ دارو! اے حاجیو! اے پوری زکوٰۃ ادا کرنے والو!
اے خیرات و خنات میں حصہ لینے والو! اے نیک صورت نظر آئی والے مالدارو!
ڈر جاؤ! لرزاٹھو! حقیقت میں مُفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات، سخاوتوں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے! جن کو کبھی گالی دیکر، کبھی پلا اجازتِ شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عاریتاً چیزیں لے کر قصداً واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر ناراض کر دیا ہوگا وہ اُس کی ساری نیکیاں لی جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واصلِ جہنم کر دیا جائے گا۔ (ظلم کا انجام ص ۹)

ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں بچانا ظلم و ستم سے مجھے سدا یارب
رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم کریں نہ رُخ مرے پاؤں گناہ کا یارب

(وسائلِ بخشش ص ۹۶، ۹۷)

پہلامدنی مشورہ

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً پہنچے تو وہاں کے اکابر فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کو مدنی مشورے کے لئے جمع کیا اور اُن کی خدمت میں عرض کی: میں نے آپ حضرات کو ایک ایسے کام کے لئے اکٹھا کیا ہے جس پر آپ کو ثواب ملے گا اور آپ حق کے حمایتی قرار پائیں گے۔ آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ میں سے کسی کو میرے عامل (یعنی حکومتی اہلکار) کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں آپ کو خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ تک اس معاملہ کو ضرور پہنچائیں۔ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور دعائے خیر سے نوازا۔ (سیرت ابن جوزی، ص ۴۱) غالباً اسی مدنی مشورے کا اثر تھا کہ جب بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہائے مدینہ پر مشتمل مجلسِ شوریٰ سے اس پر مشورہ کیا کرتے اور اسی کی برکت سے آپ کے فیصلے غلطی سے پاک ہوتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے کسی فیصلے کا ذکر ہوا تو فرمایا: واللہ! انہوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۶، ص ۳۳۲، ۳۳۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے دیکھا کہ علم و حکمت سے مالا مال اور حکومتی امور کا تجربہ ہونے کے باوجود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ

الْعَزِيزُ نَعْمَ الْمَدِينَةُ مَنُورٌ رَكَزَ اَدَهَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِماً فِي مِيسْ گورنری کی خدمات کا آغاز فقہائے مدینہ کے مدنی مشورے سے کیا اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں کوئی مَنصَب یا ذمہ داری مل جاتی ہے تو کسی ماتحت سے مشورہ کرنا تو دُور کی بات ہے اگر وہ اَز خود ہمیں مشورہ دینے کی بَحسارت کر بیٹھے تو اُس کو بدتہذیب، بے ادب، گستاخ اور زبان دراز جانتے بلکہ بعض اوقات تو اپنے عہدے کے عُور میں اُسے کھری کھری سُنا کر اور حوصلہ شکن رویے کے نُشور سے اُس کے دل کا شیشہ چکنا چور کر ڈالتے ہیں۔ یقیناً دینی و دُنیاوی اُمور میں مشورے کی بڑی اہمیت و ضرورت اور بَرکت ہے۔ کاش ہم عاجزی اپنا کر اپنے آقائے خوش خصال، صاحبِ شیریں مقالِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی مشورہ کرنے والی سنت پر بھی عمل پیرا ہوں اور وُسعتِ قلبی سے اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی رائے لینے کا حُلُق اپنائیں اور اُن کی مناسب رائے قبول بھی کریں۔

مشورہ سنت ہے

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوبِ کریم رءوف رَّحيم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

سے ارشاد فرمایا:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ترجمہ کنز الایمان: اور کاموں

میں اُن سے مشورہ لو۔ (پ ۴، ال عمران: ۱۵۹)

اس آیت کی تفسیر میں خزان العرفان میں ہے کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ اُمت اس

سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ (خزائن العرفان)

حضرت سیدنا حسن بصری اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما سے مَرِ وِی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ان کے مشورہ کی حاجت ہے بلکہ اس لئے کہ انہیں مشورے کی فضیلت کا علم دے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بعد اُمت مشورہ کرنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اِثْتِد اور اِتْبَاع کرے۔ (تفسیر قرطبی، الجزء الرابع، ص ۱۹۲)

نیک بخت کون؟

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے روایت کی ہے: مَا شَقِي قَطُّ عَبْدٌ بِمَشُورَةٍ وَمَا سَعَدَ بِاسْتِغْنَاءِ رَأِيٍّ يَعْنِي جُو بِنْدَه مَشُورَه لَه وَه كَبْهِي بَد بَخْت نَهِيْن هُو تَا اور جُو بِنْدَه خُو د رَا ئَه اور دُوسروں كَه مَشُورُوں سَه مُسْتَعْنِي (يعني بَه پُر وَا ه) هُو وَه كَبْهِي نِيْكَ بَخْت نَهِيْن هُو تَا۔

(الجامع لاحكام القرآن، الجزء الرابع، ص ۱۹۳)

مشورہ برکت کی کنجی ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اِنَّ الْمَشُورَةَ وَالْمَنَاظِرَةَ اَبَا رَحْمَةٍ وَمِفْتَاحًا بَرَكَةٍ لَا يَصِلُ مَعَهُمَا رَأْيٌ وَلَا يَفْقَدُ مَعَهُمَا حَزْمٌ یعنی مشورہ اور حق کے لئے باہمی بحث رحمت کا دروازہ اور برکت کی کنجی ہے جن

کی وجہ سے کوئی رائے گمراہ نہیں ہوتی اور دُور اندیشی قائم رہتی ہے۔

(باب السِّلک فی طبائع الملک، مشورۃ ذوی رأی، ج ۱ ص ۶۳)

”مشورہ“ کے پانچ حروف کی نسبت سے مشورے کی اہمیت و افادیت کے بارے میں 5 روایات

(۱) حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ

السلام نے ارشاد فرمایا: مَنْ أَرَادَ أَمْرًا، فَشَاوَرَ فِيهِ وَقَضَىٰ إِهْتِدَىٰ لِأَرْشَادِ الْأُمُورِ یعنی جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے اللہ تعالیٰ اسے دُرست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ (تفسیر درمنثور ج ۷ ص ۳۵۷)

(۲) حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے: ”کوئی قوم جب بھی آپس میں مشورہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے افضل رائے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔

(قرطبی ج ۴ ص ۱۹۳) (۳) حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے

ہیں کہ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا خَابَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا نَدَمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ یعنی جس نے استخارہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میا نہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ (طبرانی اوسط ج ۵ ص ۷۷ الحدیث: ۶۶۲۷) (۴) کسی دانا سے پوچھا گیا کونسی چیز عقل کی

زیادہ مَوْیِد (یعنی مددگار) اور کونسی زیادہ مُضَر (یعنی نقصان دہ) ہے۔ کہا: عقل کے لئے

زیادہ مُفید تین چیزیں ہیں۔ (۱) علماء کرام سے مشورہ کرنا۔ (۲) اُمور کا تجربہ ہونا۔

(3) کام میں ٹھہراؤ سبھاؤ ہونا اور زیادہ مُضِر (یعنی نقصان دہ) بھی تین چیزیں ہیں۔

(1) خود رائی (2) ناتجربہ کاری (3) جلد بازی۔ (العقد الفرید ج ۱ ص ۲۶) (۵) حضرت

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”خَاطَرَ مَنْ اسْتَعْنَىٰ بِرَأْيِهِ یعنی جس نے اپنی رائے کو کافی جاننا وہ خطرے میں پڑ گیا۔“^۱ (المسطر ج ۳ ص ۲۴۵)

علم کے قدردان

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید نہ صرف خود زبردست

عالم تھے بلکہ علم اور علماء کے قدردان بھی تھے، پُتیا نچھ فرماتے ہیں: ”إِن اسْتَطَعْتَ فَكُنْ عَالِمًا فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاحْبِبِهِمْ“

فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَاتَبْغُضْهُمْ یعنی اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنو، یہ نہ ہو سکے تو

مُتَعَلِّم بنو، یہ بھی نہ ہو سکے تو علمائے کرام سے محبت ہی رکھو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از

کم ان سے بُغْض تو نہ رکھو۔ پھر فرمایا: جس نے اس نصیحت کو قبول کر لیا، اُس کے لئے

نجات کا کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔“ (سیرت ابن عبدالحمص ص ۱۱۳)

۷ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے

إِنْ شَاءَ اللَّهُ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے (وسائل بخشش ص ۶۴۶)

مدینہ

۱: مشورے کے بارے میں مزید مدنی پھول حاصل کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ”رسائل دعوتِ اسلامی“ میں شامل رسالے ”مدنی کاموں کی تقسیم“ کے صفحہ 30 تا 48 کا ضرور مطالعہ کیجئے

علم حاصل کرنے کا نسخہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمَةِ نے فرمایا: تم علم کو اُس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کو جہالت پر ترجیح نہ دو اور حق کو نہیں پاسکتے جب تک باطل کو نہ چھوڑ دو۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۲)

عالم باعمل بنو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمَةِ نے حضرت عبدالرحمن بن نُعْمِیْم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَوَ اَیْک مکتوب میں لکھا: بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں لہذا تم عالم باعمل بنو کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو اُن کا علم ان کے لئے وبال بن جاتا ہے۔ (تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۵۰)

علم غنی کی زینت ہے

ایک اور مقام پر فرمایا: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ زِينٌ لِلْغَنِيِّ وَعَوْنٌ لِلْفَقِيرِ لَا أَقُولُ أَنَّهُ يَطْلُبُ بِهِ وَلَكِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْقَنَاعَةِ يَعْنِي عِلْمٌ يَسْكُو! یہ غنی کی زینت اور فقیر کے لئے معاون (یعنی مددگار) ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر علم کے ذریعے مانگتا پھرے گا بلکہ علم اُسے قناعت پر آمادہ کرے گا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۶)

علم کی فضیلت

رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ یعنی عالم

کی بُورگی عابد (یعنی عبادت گزار) پر ایسی ہے جیسے چودہ ہویں رات کے چاند کی تاروں

پر۔ (ابن ماجہ ج ۱، ص ۱۲۶، الحدیث ۲۲۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یقیناً علم دین کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے مگر فی

زمانہ اس حوالے سے ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہے، حجت جاہ و مال نے ہمارے

دلوں پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ ہم عزت، شہرت اور دولت پانے کے لئے دُنیا کا ہر کام

سیکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنی آخرت سنوارنے کے لئے علم دین حاصل

کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یاد رکھئے علم مال سے افضل ہے، چنانچہ

علم مال سے افضل ہے

حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم

فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر سات وجہ سے افضل ہے: (۱) علم پیغمبروں کی میراث

اور مال فرعون، ہامان اور ثمود کی (۲) مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم بڑھتا ہے

(۳) مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے (۴) مرنے کے

بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبور میں ساتھ جاتا ہے (۵) مال مومنین و کافر سب

کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے (۶) کوئی بھی عالم سے

بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں (۷) علم سے پُلن

صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۴۰۳)

علم کی حفاظت کا طریقہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: أَيُّهَا النَّاسُ قِيدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ یعنی اے لوگو! علم کی حفاظت لکھنے کے ذریعے کرو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۷۶)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! جب بھی دینی علم کی یا حکمت بھری کوئی بات سنیں اُسے لکھنے کی عادت بنائیے، علم دین کی بات لکھ لینے سے جلدی یاد بھی ہو جاتی اور اس کی بقا کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابوقلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے: بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ، ص ۱۰۳) علم نحو کے مشہور امام حضرت خلیل بن احمد تابعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا قول ہے: ”جو کچھ میں نے سنا ہے، لکھ لیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے، یاد کر لیا ہے اور جو کچھ یاد کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔“ (ایضاً، ص ۱۰۵) حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفید باتیں لکھنے کیلئے ایک دینار میں قلم خرید فرمایا تھا۔ (تعلیم المتعلم، ص ۱۰۸) (تذکرۃ امیر اہلسنت حصہ ۵ ملخصاً)

آپ واپس اپنی جگہ تشریف لے جائیے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کو اگرچہ حکومتی اعتبار سے ہر قسم کے لوگوں سے میل جول رکھنا پڑتا تھا تاہم ان کا زیادہ میلان اہل علم کی طرف تھا اس لئے مختلف طریقوں سے ان کی قدر دانی کیا کرتے تھے، چنانچہ جب آپ مدینہ

مَنْوَرَهُ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا میں تھے، ایک قاصد حضرت سیدنا سعید بن مُسَيَّبِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی خدمت میں بھیجا کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھ آئے۔

قاصد نے غلطی سے کہہ دیا کہ آپ کو ”امیر“ بلاتے ہیں، حضرت سعید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کسی حاکم یا خلیفہ کے پاس جانے کے عادی نہیں تھے لیکن بلا واحضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ جیسی علم دوست شخصیت کی جانب سے تھا، اس لئے حضرت سعید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو ان کے بلانے پر نہ جانا گوارا نہ ہوا، فوراً جوتے پہنے

اور قاصد کے ساتھ ہو لئے، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا سعید بن مُسَيَّبِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بنفس نفیس تشریف لارہے ہیں تو وضاحت کی: حضور! ہم نے قاصد آپ کو بلانے کے لیے نہیں بلکہ اس لئے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے مسئلہ دریافت کر آئے۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، خُدا را! آپ واپس اپنی جگہ تشریف لے جائیں، ہمارا قاصد وہیں آ کر آپ سے مسئلہ دریافت کرے گا۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۹۱)

با ادب بالنصیب

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے عالم دین کی کیسی تعظیم کی اور قاصد کی غلطی کا کیسا ازالہ کیا! ہمیں بھی چاہئے کہ علمائے کرام کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہ اٹھارکھیں، عالم کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے سرکارِ مدینہ سُورِ قَلْبِ وَسِينَةِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

وسم نے فرمایا: ہر وہ چیز جو آسمان وزمین میں ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور علماء انبیائے کرام کے وارث و جانشین ہیں، انبیائے کرام کا تزکہ دینار و دینہم نہیں ہیں، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔“

(ترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ، الحدیث ۲۶۹۱، ج ۴، ص ۳۱۲)

عالم کی تعظیم کا صلہ

ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا، اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نے میری مغفرت فرمادی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا: کون سا عمل کام آ گیا؟ جواب دیا: ایک بار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور وہیں میں بلندی کی طرف وضو کرنے بیٹھ گیا، جب میری نظر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر پڑی تو تعظیماً نیچے کی جانب آ گیا۔ بس یہی عمل کام آ گیا اور میں بخشا گیا۔ (تذکرۃ الاولیاء، ص ۱۹۶)

علماء کرام کے احترام میں کوتاہی نہ کیجئے

شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ علماء کرام کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے لکھتے ہیں: دعوتِ اسلامی کے

تمام وابستگان بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اہلسنت سے ہرگز نہ ٹکرائیں، اُن کے ادب و احترام میں کوتاہی نہ کریں، علماء اہلسنت کی تکفیر سے قطعاً گریز کریں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ”عالم زمین میں اللہ عزوجل کی دلیل و حُجّت ہیں تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا۔“ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۷۷) میرے آقا اعلیٰ حضرت مولینا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمن فرماتے ہیں، ”اُس کی (یعنی عالم کی) خطا گیری (یعنی بھول نکالنا) اور اُس پر اعتراض حرام ہے اور اس کے سبب رہنمائے دین سے کنارہ کش ہونا اور اِسْتِفَادَة مسائل چھوڑ دینا اس کے حق میں زہر ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۷۱) اُن نادان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو بات بات پر علمائے کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک دیا کرتے ہیں مثلاً بھئی ذرا بیچ کر رہنا کہ ”علّامہ صاحب“ ہیں، علمائے لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو چھوڑو یہ تو مولوی ہے، (معاذ اللہ عزوجل عالموں کو بعض لوگ کھارت سے کہہ دیتے ہیں) ”یہ مُلّا لوگ!“، وغیرہ وغیرہ۔ (کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ص ۳۴۴)

سارے سُنی عالموں سے تُو بنا کر رکھ سدا

کر ادب ہر ایک کا، ہونا نہ تُو اُن سے جدا (وسائل بخشش ص ۶۴۶)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

حجاج بن یوسف کو ناپسند کرتے تھے

گورنروں میں سے ”حجاج بن یوسف“ ولید کے زمانے میں زیادہ مقبول

تھا لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اُسے اُس کے ظلم و ستم کی وجہ سے بدترین سمجھتے تھے اور فرماتے تھے: اگر قیامت کے دن دنیا کی تمام قومیں خبیث لوگوں کا مقابلہ کریں اور ہر قوم اپنے اپنے خبیث کو مقابلہ میں لائے تو ہم حجاج کو پیش کر کے تمام دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۸)

حجاج بن یوسف کے مدینہ میں داخلے کی ممانعت

جن دنوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مدینہ پاک کے گورنر تھے، حجاج بن یوسف کو امیرُ الحج بنا یا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ کو خط لکھا کہ مجھے حجاج کے مدینہ آنے سے معاف رکھا جائے۔ خلیفہ نے حجاج کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے اس مضمون کا خط لکھا ہے، جو شخص تمہارے آنے کو پسند نہیں کرتا تم اگر اس کے پاس نہ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ حجاج مدینہ نہیں گیا۔ (سیرت ابن عبدالحمک ص ۲۵)

دوسرے کونے میں چلے گئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اپنے زمانہ گورنری میں ایک رات مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، اور بھری (یعنی اونچی) قراءت لے کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، آواز بڑی اچھی تھی، اتفاقاً قریب ہی کہیں حضرت سعید بن

مدینہ

ل: دن کے نو اہل میں قرآن آہستہ پڑھنا واجب ہے اور رات کے نو اہل میں اختیار ہے اگر تہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے، تو جہر واجب ہے۔ (درمختار مع رد المحتار ج ۲، ص ۳۰۶)

میں رب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، مگر انہیں آپ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی کا علم نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے غلام ”بُرْدُ“ سے فرمایا: ”اس قاری کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کی آواز ہمیں پریشان کر رہی ہے۔“ غلام اس کام کی ہمت نہ کر سکا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بدستور اپنے دھیان میں نماز پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غلام سے پھر فرمایا: ”بُرْدُ! بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ اس قاری کو یہاں سے ہٹاؤ، مگر تم نے ابھی تک نہیں ہٹایا۔“ بُرْدُ نے عرض کی: ”حضور! مسجد کوئی ہماری جاگیر تو نہیں۔“ جب یہ بات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے کان میں پڑی تو اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۳) **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ اُنْ پَرِ رَحْمَتِ هُوَ اَوْر اَن كے صَدَقے هَمَارِي بے حَسَابِ مَغْفِرَتِ هُو۔ اَمِينِ بِجَاهِ**

النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلِي مُحَمَّد

زمانہ خدمت کی یادگاریں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاؤ تعظیماً و تکریمائیں اپنے زمانہ خدمت کے دوران مسجد نبوی شریف کی اڈسرو تعمیر کی، مسجد نبوی میں اگرچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے ہی تھوڑی بہت توسیع کا کام شروع ہو گیا تھا بالخصوص امیر

المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت شاندار بنا دیا تھا، پھر **امیر المؤمنین** حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر عبدالملک تک مسجد نبوی میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا، ولید بن عبدالملک مسندِ خلافت پر بیٹھا تو مسجد نبوی کو نئی آب و تاب کے ساتھ بنانا چاہا، چنانچہ اس نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو لکھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے پاس موجود مکانات خرید کر مسجد میں شامل کئے اور فقہائے مدینہ نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا اور مسجد بنا شروع ہو گئی۔ پہلے مسجد میں امام کیلئے طاق نما محراب نہیں ہوتی تھی سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مسجد النبوی الشریف علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی اس نئی ایجاد (بدعتِ حسنہ) کو اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ اب دنیا بھر میں مسجد کی پہچان اسی سے ہے، روضۂ اطہر کے چاروں طرف دوہری دیوار بنوائی، اطرافِ مدینہ میں جن جن مساجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، ان کو منقش پتھروں سے تعمیر کروایا، مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً میں پانی کے کنویں کھدوائے اور راستے ہموار کروائے۔ (البدایہ والنہیۃ ج ۶ ص ۱۹۷ ملخصاً)

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جیسی نماز

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سنتِ خیر الانام علی

صَاحِبِهَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ پر عمل کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گورنر مدینہ تھے تو نبی کریم، رُءُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے خادم خاص اور جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے مدینہ منورہ زائداً اللہ شرفاً وَ تَعْظِيماً وَ تَكْرِيماً آئے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ کی نماز بہت پسند آئی چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا: ”مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ لِعِنِّي مِثْلُ اس نوجوان سے بڑھ کر رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مشابہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔“

(سیرت ابن جوزی ص ۳۴)

اطمینان سے نماز پڑھنے کی فضیلت

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہمیں بھی نماز اطمینان اور سکون سے پڑھنی چاہئے
 تاکہ ہماری نماز قبولیت کی معراج تک پہنچ سکے، چنانچہ حضرت سیدنا عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ **نِعْمَ رَحْمَتٌ، شَفِيعٌ اُمْتُ، شَهْنَشَاهُ نُبُوَّتٌ،** تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے، ”جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رُكُوعِ، سُجُودِ اور قِرَاءَتِ (قرآن) کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے: **اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ تِیرِی حِفَاظَتِ کَرِے جِس طِرْحِ تُوْنِے** میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے

چمک اور نور ہوتا ہے۔ پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حُٹ
ی کہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اُس نمازی کی
شفاغت کرتی ہے۔ اور اگر وہ اس کا رُکوع، سُجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز
کہتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے ضائع کر دے جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس
نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے
اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر اس کو پُرانے کپڑے کی
طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔

(شعب الایمان، ج ۳، ص ۱۴۲، الحدیث ۳۱۴۰)

میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی
میں پڑھتا رہوں سستئیں وقت ہی پر ہوں سارے نوافل ادا یا الہی

(وسائل بخشش ص ۸۴)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

مٹی پر سجدہ کیا کرتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيْز (کپڑے وغیرہ کے بجائے)

ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ (احیاء العلوم، ج ۱، ص ۲۰۴)

مدنی پھول: سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا مُسْتَحَب ہے۔ اگر کوئی کپڑا

بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو حرج نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۲۹، ۵۳۸)

آگے نہ پڑھ سکے

حضرت سیدنا مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت کرتے ہوئے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت 24: ”وَقَفُّوهُمْ اِنَّهُمْ مَسَّوْا نَۜوۜنَ ﴿۲۴﴾ (ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے۔)“ پر پہنچے تو رونے لگے، اسی آیت کو بار بار پڑھا مگر آگے نہ بڑھ سکے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۱۷)

صدر الافاضل حضرت علامہ مولینا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: (یعنی) صراط کے پاس (ٹھہراؤ)، حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک چار باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں: (۱) ایک اس کی عمر کہ کس کام میں گزری؟ (۲) دوسرے اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا؟ (۳) تیسرے اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا؟ (۴) چوتھے اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا؟ (ترمذی، ج ۴، ص ۱۸۸، الحدیث ۲۴۲۵)

ٹہلیں میرے اعمال میزاں پہ جس دم

پڑے اک بھی نیکی نہ کم یا الہی (وسائل بخشش، ص ۸۲)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مَحَبَّتِ مَدِينَةِ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مدینہ طیبہ زَاہَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا کے ادب و احترام کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے، مثلاً مدینہ کا جو حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا، اس کے اندر کے درخت یا گھاس کو کاٹا نہیں جاسکتا تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، نمر و رِقَب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں اس کے گوشوں کے درمیان کو کہ اس میں خون بہایا جائے نہ شکار کیا جائے اور نہ ہی بجز چارے کے یہاں کا درخت کاٹا جائے۔ (مسلم، کتاب الحج، الحدیث ۱۳۶۲ ص ۷۰۹)

غالباً اسی فرمانِ مصطفیٰ کا پاس رکھنے کے لئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرمایا کرتے تھے: ایک شخص کو میرے سامنے اس حالت میں لایا جائے کہ وہ شراب لئے جاتا ہو مگر یہ گوارا نہیں کہ ایک شخص کو اس حالت میں لایا جائے کہ وہ حرمِ مدینہ سے کوئی چیز کاٹ کر لے جاتا ہو۔

(معجم البلدان، باب المیم والداد ج ۴ ص ۲۳۲ ملخصاً)

واہ! کیا بات ہے مدینہ کی

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب سفر سے آتے اور مدینہ پاک کی دیواروں کو دیکھتے تو اس کی

محبت کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز فرمادیتے اور اگر گھوڑے پر ہوتے تو اسے ایڑی لگاتے۔ (بخاری، کتاب الحج، الحدیث ۱۸۰۲، ج ۱، ص ۵۹۳)

تُو عَطَّارُ كَوْچِشْمِ نَم دے کے ہر دم
مدینے کے غم میں رُلا یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۰)
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد
اہل بیت سے محبت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت محبت رکھتے تھے، چنانچہ جب کسی چیز کو راہِ خدا میں پیش کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے: اِبْتِغُوا اَهْلَ بَيْتِیْ بِہُمْ حَاجَةٌ ۱ یعنی اُن اہل بیت کو تلاش کرو جو حاجت مند ہوں۔ (سیرت ابن جوزی ۴۲)

محبت اہل بیت کا فائدہ

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اَحْبَبُوا اللهُ لِمَا یَغْذُوکُمْ مِنْ نِعْمِہِ وَاَحْبَبُوْنِیْ بِحُبِّ اللهِ وَاَحْبَبُوا اَهْلَ بَيْتِیْ لِحُبِّیْ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے روزی دیتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ (ترمذی، الحدیث ۳۸۱۴، ج ۵، ص ۴۳۴)

مُفَسِّرِ شَہِیْرِ حَکِیْمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس

حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت حاصل کرنے کے لئے مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، محبوب کا محبوب خود اپنا محبوب ہوتا ہے، میری محبت حاصل کرنے کے لئے میرے گھر والوں، اولادِ پاک، ازواجِ مطہرات (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ان محبتوں میں ترتیب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت زینہ ہے حضور (صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی محبت کا اور حضور (صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی محبت ذریعہ ہے رب تعالیٰ کی محبت کا۔

(مراۃ المناجیح ج ۸، ص ۹۳)

صحابہ کا گدا ہوں اور اہلبیت کا خادم

یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ (وسائل بخشش ص ۱۸۴)

کھڑے ہو کر استقبال کیا

جو لوگ خاندانِ نبوت سے تھوڑا سا تعلق بھی رکھتے تھے، حضرت سیدنا عمر

بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ اُن کے ساتھ اسی قسم کے فیاضانہ سلوک کرتے

تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم، نور مجسم صَلَّی

اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مولیٰ زاد (یعنی آزاد کردہ غلام) تھے، اُن کی بیٹی ایک مرتبہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ کے پاس آئیں تو آپ رَحْمَةُ اللہِ

تعالیٰ علیہ نے کھڑے ہو کر اُن کا استقبال کیا، اپنی جگہ بٹھایا اور ان کی تمام ضرورتیں

پوری کیں۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۲۳۹) اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ

العزیز کے خلیفہ بننے کے بعد ایک بار خاندان بنو امیہ کے بہت سے لوگ دروازہ پر منتظر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام کو سب سے پہلے باریابی کا موقع دیا تو ہشام نے جل کر کہا: کیا عمر بن عبدالعزیز کو سب کچھ کر کے اب بھی تسکین نہیں ہوئی کہ ایک غلام کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری گردن پھاند کے چلا جائے۔ (سیرت ابن جوزی، ص ۹۲)

بشارتِ نبوی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک چٹیل میدان میں ایک مردہ سانپ دیکھا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور ایک کپڑے میں اس سانپ کو لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اچانک غیب سے ایک آواز سنائی دی: ”اے سُرَّق! تم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو فرماتے سنا ہے: اے سُرَّق! تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہیں میری امت کا بہترین آدمی دفن کریگا۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس آواز دینے والے سے پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟“ اس نے کہا: ”میں ایک جن ہوں اور یہ سُرَّق ہے، ہم اُن جنات میں سے ہیں جنہوں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے بیعت کی ہے، ہم دونوں کے سوا اُن میں کوئی بھی زندہ نہیں رہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا

تھا: ”اے سرق! تم چٹیل میدان میں دم توڑو گے اور تمہیں میرا بہترین اُمّتی دُفن کرے گا۔“ (دلائل النبوة، ج ۶، ص ۴۹۴)

جنات کی تین قسمیں

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”جنات کی تین قسمیں ہیں؛ **اَوَّل**: جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اُڑتے ہیں، **دُووم**: سانپ اور کتے اور **سُوم**: جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔“

(الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ، الْجَنِّ ثَلَاثَةٌ اصْنَافٍ، الْحَدِيثُ ۳۷۵۴، ج ۳، ص ۲۵۴)

جنات کی مختلف شکلیں

علامہ بدرالدین شہلی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب ”**اَحْكَامُ الْمَرْجَانِ فِي اَحْكَامِ الْجَانِّ**“ میں لکھتے ہیں: ”بلاشبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ وہ سانپوں، بگھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، خجروں، گدھوں اور پرندوں کی شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں۔“^۱

(آكام المرجان في احكام الجنان، الباب السادس في تطور الجن و تشكلهم، ص ۲۱)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

مدینہ

۱: جنات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ”جنات کی حکایات“ اور 262 صفحات پر مشتمل کتاب ”قوم جنات اور امیرِ اہلسنت“ کا مطالعہ کیجئے۔

گورنری سے استعفیٰ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ۸۷ھ سے ۹۳ھ تک تقریباً 6 سال تک مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً میں گورنری کی خدمات انجام دیتے رہے، اس دوران طائف اور مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر انتظام رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عدل و انصاف نے مکہ مدینے والوں کے دل جیت لئے مگر ایک افسوس ناک واقعہ کی وجہ سے آپ گورنری سے مُستعفی ہو گئے، ہوا یوں کہ خلیفہ ولید بن عبدالملک نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیغام بھیجا کہ خُبیب بن عبداللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو گرفتار کر لیں اور 100 کوڑوں کی سزا دیں۔ چنانچہ حضرت خُبیب بن عبداللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو پابندِ سلاسل کر دیا گیا اور جب انہیں سو کوڑے مارے گئے تو ایک گھڑے میں ٹھنڈا پانی لا کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو دیا گیا جسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خُبیب بن عبداللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) پر پھینک دیا، سردیوں کے دن تھے، اُن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے انہیں قید سے رہا کر دیا اور اپنے فعل کی معافی مانگی۔ ان کے رشتہ دار انہیں گھر لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بہت پریشان تھے چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے معاون ”ماجشون“ کو معلومات کے لئے ان کے گھر بھیجا۔ جب ماجشون وہاں پہنچے تو حضرت خُبیب بن عبداللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی

کفن میں لپیٹی ہوئی لاش ان کے سامنے تھی۔ ماجشون کا بیان ہے کہ جب میں واپس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے قراری کے عالم میں اٹھ بیٹھ رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی بے چینی سے پوچھا: کیا ہوا؟ جب میں نے حُنبیب بن عبد اللہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی موت کی خبر دی تو وہ غش کھا کر زمین پر گر گئے کچھ دیر بعد ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ پڑھتے ہوئے اٹھے اور گورنری سے مُستعفی ہو گئے۔ اس واقعے کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عمر بھرا فسوس رہا، حتیٰ کہ جب کبھی کوئی کسی کام پر آپ کی تعریف کرتا کہ آپ نے بڑا شاندار کام کیا ہے تو فرمایا کرتے: ”مگر میں نے حُنبیب کے ساتھ کیا کیا؟“ (سیرت ابن جوزی، ص ۴۴)

اِسْتَعْفٰی یَا مَعْرُوٰی؟

بعض روایات کے مطابق محلاتی سازشوں کے نتیجے میں ولید نے خود ہی انہیں مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً کی گورنری سے معزول کر دیا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اُس وقت کے خلیفہ ولید بن عبدالملک کو ایک خط روانہ کیا جس میں حجاج بن یوسف کے بڑھتے ہوئے مظالم کی شکایت کی گئی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کو اس بارے میں پتا چلا تو اس نے آگ بگولہ ہو کر ولید کو ایک خط میں لکھا کہ عراق سے بہت سے فسادی لوگ جلا وطن ہو کر مکہ اور مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں جو ایک قسم کی سیاسی کمزوری ہے (اور اس کا ذمہ دار وہاں کا گورنر ہے)۔ ولید نے جواب میں لکھا: مجھے گورنری کے لئے دو نام بتاؤ جنہیں

وہاں گورنری کی خدمت سونپی جاسکے۔ حجاج بن یوسف نے خالد بن عبداللہ اور عثمان بن حیان کے نام لکھ کر بھیجے، چنانچہ ولید نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو معزول کر کے خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً اور عثمان بن حیان کو مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں گورنر مقرر کر دیا۔

(تاریخ طبری ج ۴، ص ۱۹۹ تا ۲۱۳ ملخصاً)

صرف ایک غلام ساتھ تھا

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مدینہ طیبہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً آئے تھے تو آپ کا ذاتی سامان اونٹوں پر لڈ کر آیا تھا مگر جب معزول ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں دمشق جانے کے لئے نکلے تو صرف ایک غلام ”مزاحم“ ساتھ تھا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۷۷ ملتقطاً)

بے چین ہو گئے

مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً سے رخصتی کے وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو یہ حدیث یاد آئی: ”الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَفِي خَبَثَهَا“ یعنی مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ وہ میل کچیل اور گندگی کو نکال باہر کرتا ہے، (الاحسان بترتیب ابن حبان، الحدیث ۷۲۳، ۳، ۶ ج، ۱۸) اس پر بے چین ہو گئے اور اپنے غلام مزاحم سے فرمایا: نَحْشِي أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ یعنی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی اُن میں سے نہ ہوں جن کو مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً باہر نکال

دیتا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۳)

افسوس وقتِ رخصت نزدیک آرہا ہے اک ہوک اٹھ رہی ہے دل بیٹھا جا رہا ہے
آہ! الفراق آقا! آہ! الوداع مولیٰ اب چھوڑ کر مدینہ عطار جا رہا ہے
(وسائلِ بخشش ص ۴۱۳)

بدشگونی کی ترویج

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے
غلام مزاحم کا بیان ہے کہ: جب ہم مدینہ طیبہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً سے
نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند ”دبر ان“ میں ہے، میں نے ان سے یہ کہنا تو مناسب نہ
سمجھا بلکہ یہ کہا: ”ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔“ آپ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو چاند دبر ان^۱ میں تھا، فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو
کہ چاند دبر ان میں ہے، مزاحم! ہم چاند سورج کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ واحد و قہار
عز و جلّ کے حکم و مشیت کے ساتھ نکلتے ہیں۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۷)

بدشگونی کیا ہے؟

کسی چیز یا عمل کو دیکھ کر یا کسی آواز کو سن کر اسے اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا
شگون کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) اچھا شگون (نیک فال) (۲) بدشگونی۔

مدینہ

۱: دبر ان چاند کی ایک منزل کا نام ہے، اس وقت چاند ثریا اور جوزا کے درمیان ہوتا ہے، عرب
میں نجومیوں کا یہ وہم رائج تھا کہ یہ ساعت منحوس ہوتی ہے، مزاحم کا اشارہ اسی طرف تھا۔

مثلاً کوئی شخص گھر سے کہیں جانے کے لئے نکلا اور کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹ لیا ، جسے اس نے اپنے حق میں منحوس جانا اور واپس پلٹ گیا یا یہ ذہن بنا لیا کہ اب مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ کر ہی رہے گا تو یہ بدشگونی ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ اور اگر گھر سے نکلتے ہی کسی نیک شخص سے ملاقات ہوگئی جسے اُس نے اپنے لئے باعث خیر سمجھا تو یہ نیک فالی کہلاتا ہے اور یہ جائز ہے۔

بدشگونی کوئی چیز نہیں

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ یعنی بدفالی کوئی چیز نہیں اور فال اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی: مَا الْفَالُ؟ فال کیا چیز ہے؟ فرمایا: ”الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا یعنی اچھا کلمہ جو کسی سے سنے۔“ (بخاری، الحدیث ۵۷۵۳، ج ۴، ص ۳۶) یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے اگر اچھا کلمہ نکل گیا، یہ فال حَسَن ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، ص ۵۰۳)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

خليفة کے مشیر بن گئے

گورنری سے معزولی کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ”سُویدا“ پہنچے۔ کچھ عرصہ وہیں رہے پھر آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے دمشق منتقل ہونے کا ارادہ کیا اور خلیفہ ولید بن عبدالملک کے پڑوس میں رہائش پذیر

ہوئے تاکہ اُسے بھلائی کے مشورے دے سکیں اور حتی المقدور اُسے ظلم سے روک سکیں،
یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دار الخلافہ دمشق میں ولید کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن
مقرر ہو گئے۔

ناحق قتل سے روکا

جب جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو موقع ملتا بڑی جرات کے ساتھ حاکم
وقت کی اصلاح فرمایا کرتے۔ ایک روز ولید سے فرمایا: ”میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا
ہوں جب آپ کو مکمل فرصت ہو مجھے یاد کر لیجئے گا۔“ ولید کہنے لگا: ”ابھی فرمائیے!“
جواب دیا: ”ابھی آپ اطمینان اور دل نمئی کے ساتھ سن نہیں پائیں گے۔“ کچھ ہی
عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شامیوں کی ایک جماعت کے ساتھ دربار خلافت
میں موجود تھے تو ولید کہنے لگا: ابو حفص! کہیے آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ فرمایا: ”اللہ
عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک شُرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، آپ کے
گورنر اور امراء لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں پھر آپ کو اس کا جھوٹا سچا بُرم لکھ کر بھیج
دیتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی کیونکہ ان کو آپ نے گورنر
مقرر کیا ہے، لہذا آپ انہیں لکھ بھیجئے کہ کوئی گورنر کسی کو قتل نہ کرے جب تک اُس کے
بُرم کی شرعی شہادت آپ تک نہ پہنچا دے اور آپ اُس کے واجب القتل ہونے کا
فیصلہ نہ کر دیں۔“ مِزَاجِ شَاهَاں تَابِ سُخْنُ نَدَارْدَ یعنی شاہوں کا مزاج سننے کی
تاب نہیں رکھتا“ کے مضداق ولید کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ اپنا غصہ پی گیا اور کہنے

لگا: اللہ عزَّوجلَّ آپ پر برکتیں نازل فرمائے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۴ ملخصاً)

حجاج کی سازش

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورے کے مطابق ولید نے تمام گورنروں کو یہ حکم لکھ کر بھیج دیا۔ سوائے حجاج کے کسی نے اس سے تنگی محسوس نہیں کی، اُس کو یہ حکم بڑا شاق گزرا اور وہ اس پر بڑا تکملا یا، پہلے پہل اُس کا خیال تھا کہ یہ حکم میرے سوا کسی اور کو نہیں بھیجا گیا لیکن جب اُس نے تفتیش کرائی تو معلوم ہوا کہ اُس کا یہ خیال صحیح نہیں۔ چنانچہ اس نے کہا: یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ امیر المؤمنین کو یہ مشورہ کس نے دیا؟ اُسے بتایا گیا کہ یہ کارنامہ عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) نے انجام دیا ہے، یہ سن کر بولا: آہ! اگر مشورہ دینے والا عمر ہے تو اس حکم کو رد کرنا ممکن نہیں۔ پھر حجاج نے ایک چال چلی وہ یوں کہ قبیلہ کبر بن وائل کے ایک دیہاتی کو بلوایا جو بڑا اکھڑ، بد مزاج اور عقیدے کے اعتبار سے خارجی تھا، حجاج نے اس سے پوچھا: معاویہ بن ابوسفیان (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے اُن کی عیب جوئی کی۔ پھر پوچھا: یزید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے یزید کو گالیاں سنا دیں، پھر پوچھا: عبد الملک کیسا تھا؟ اس نے کہا: ظالم تھا۔ پھر پوچھا: موجودہ خلیفہ ولید کیسا ہے؟ اس نے کہا: یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کیونکہ اُس نے تمہارے جو رو ستم کو جانتے ہوئے بھی تجھے ہم پر مسلط کر دیا۔ اس جواب کو سن کر حجاج خاموش ہو گیا کیونکہ اُسے لوگوں کو قتل کرنے پر دلیل چاہئے تھی جو اُسے مل چکی تھی، لہذا اُس نے

خارجی کو ولید کے پاس بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا: ”میں اپنے دین کے معاملے میں بے حد محتاط ہوں، جس رعایا پر آپ نے مجھے حاکم بنایا ہے اُن کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہوں اور میں اس بات سے نہایت احتراز کرتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دوں جو اس کا سزاوار نہ ہو، لیجئے! میں آپ کے پاس ایک شخص کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کی باتیں سنئے اور یقین کیجئے کہ میں اسی قسم کے لوگوں کو ان کے خیالاتِ فاسدہ کی بنا پر قتل کیا کرتا تھا، اب آپ جائیں اور یہ جانے!“ وہ خارجی ولید کے دربار میں پیش ہوا۔ اُس وقت مجلس میں اہل شام کی ممتاز شخصیات کے علاوہ خود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بھی موجود تھے، ولید نے خارجی سے کہا: میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: ظالم اور جاہل۔ ولید نے کہا: اور عبدالملک؟ خارجی بولا: جبّا اور سرکش۔ ولید نے کہا: اور معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)؟ خارجی نے کہا: ظالم (مَعَاذَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ)۔ ولید نے اپنے جلاّد ”ابن ریان“ کو حاکم دیا: اُڑا دو اس کی گردن۔“ اگلے ہی لمحے خارجی کا سر تن سے جدا تھا۔ پھر ولید وہاں سے اُٹھ کر گھر چلا گیا اور خادم سے کہا: ذرا عمر بن عبدالعزیز (علیہ رحمۃ اللہ العزیز) کو بلا لاؤ۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اس کے پاس تشریف لے گئے تو کہنے لگا: ”ابو حفص! کیا خیال ہے؟ ہم نے ٹھیک کیا یا غلط؟ فرمایا: ”آپ نے اُسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا، بہتر تھا کہ آپ اُسے جیل بھجواتے، پھر یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا یا اس کو موت آ لیتی۔“ ولید غصے سے بولا: اُس نے

مجھے اور (میرے باپ) عبدالملک کو گالیاں دیں اور وہ خارجی تھا مگر پھر بھی آپ کے خیال میں میں نے اُسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: ”جی نہیں! واللہ! میں اسے جائز نہیں سمجھتا، آپ اسے قید بھی تو کر سکتے تھے اور اگر معاف ہی کر دیتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔“ یہ سن کر ولید غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۳ ملخصاً)

کلمہ حق کہنے سے نہ ڈرے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: ایک دن خلاف معمول دوپہر کے وقت خلیفہ ولید بن عبدالملک نے مجھے بلوایا، میں گیا تو وہ اپنے کمرہ خاص میں تھا اور غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ اُس نے مجھے اپنے سامنے اس طرح بٹھالیا جیسے مجرموں کو بٹھایا جاتا ہے، اس وقت وہاں ہم دونوں کے علاوہ اس کا جلا دخالہ بن ریّان تھا جو تلووار سونٹے کھڑا تھا۔ ولید نے گرج دار آواز میں پوچھا: اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو خلفاء کو برا بھلا کہتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے یا نہیں؟ میں خاموش رہا، وہ پھر گرجا: جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں پھر چپ رہا کیونکہ وہ مجھ سے ”ہاں“ کہلوانا چاہتا تھا، اس نے سہ بار پوچھا تو میں نے کہا: ”کیا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟“ وہ کہنے لگا: ”نہیں، مگر سوال خلفاء کی عزت کا ہے۔“ اب کی بار میں نے ہمت کر کے کہا: تو میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو خلفاء کی توہین کرنے کے جرم میں سزا دی جاسکتی ہے۔ ولید نے سراٹھا کر جلا دکی طرف دیکھا، مجھے

ایسا لگا جیسے اس نے مجھے قتل کرنے کا اشارہ کیا ہے، تاہم ایسا نہیں ہوا اور خلیفہ طیش کے عالم میں یہ کہہ کر گھر کے اندر چلا گیا کہ یہ ”مُتَكَبِّر“ ہے۔ اُس کے جانے کے بعد جلا دے مجھے بھی واپس ہونے کا اشارہ کیا اور میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۵)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگانِ دین عَلَیْہِمْ رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّمِیْعِیْنِ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں رُغْبِ شَاہِی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اے کاش! ہمیں بھی اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے) جیسی عظیم ذمہ داری کا احساس ہو جائے اور ہم بھی اس کے بدلے میں ملنے والے ثواب کے لئے کوشاں ہو جائیں۔

نیکی کی دعوت کا ثواب

حضرت سیدنا موسیٰ کلیمُ اللّٰہِ عَلَی نَبِیْنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے بارگاہِ خداوندی عَزَّوَجَلَّ میں عرض کی: اے ربِّ کریم عَزَّوَجَلَّ! جو اپنے بھائی کو بلائے اور اُسے نیکی کا حُکْم کرے اور برائی سے روکے اُس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا: ”میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔“ (مکاشفۃ القلوب، باب فی الامر والمعروف، ص ۴۸)

سمجھنا ناکب واجب ہے؟

عام حالات میں اگرچہ نیکی کی دعوت دینا مُسْتَحَب ہے، مگر بعض صورتوں میں

یہ واجب ہو جاتی ہے، واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ظن غالب ہو کہ اس کو منع کریں گے تو یہ مان جائیگا تو اب اس کو بتانا، سمجھانا، منع کرنا واجب ہے۔ اب ہم کو غور کرنا چاہئے کہ یہ واجب کون ادا کر رہا ہے؟ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بلا عذر شرعی نماز کی جماعت ترک کرنے کا گناہ کر رہا ہے اور وہ آپ سے چھوٹا بھی ہے بلکہ آپ کا ماتحت، ملازم یا بیٹا بھی ہے، اور آپ کا ظن غالب بھی ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائیگا مگر آپ اُس کی اصلاح کی کوشش نہیں فرماتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ (زلزلہ اور اس کے اسباب ص ۵)

عطا ہو ” نیکی کی دعوت“ کا خوب جذبہ کہ

دو دھوم سنتِ محبوب کی مچا یارِ پ (وسائل بخشش ص ۹۷)

فائدہ ہی فائدہ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! نیکی کی بات بتانے، گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کیلئے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھا یا وہ مان جائے تو ہی ثواب ملیگا بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی اِنْ شَاءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ثواب ہی ثواب ہے اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی پھر تو اِنْ شَاءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائیگا۔ آئیے اس ضمن میں انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار سنتے چلیں، چنانچہ

بدنام زمانہ شخص کی توبہ

پنجاب (پاکستان) کے شہر مدینۃ الاولیاء (ملتان) کے نواحی علاقے جھوک وٹیس میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ملنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا بدنام ترین شخص تھا۔ ہر دوسرے دن تھانے میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت پہنچ جاتی۔ لوگ مجھ سے دور بھاگتے اور گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت نالاں تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مجھے اپنے علاقے میں نیک نامی نصیب ہو گئی اور میں اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ اس طرح ممکن ہوا کہ جس جگہ میں نوکری کرتا تھا وہاں دعوتِ اسلامی کے ایک مبلغ کسی کام سے آئے۔ انہوں نے مجھ سے بھی ملاقات کی اور انفرادی کوشش کے دوران دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں سنانے کے بعد تحفے میں شیخ طریقت امیر اہلسنت وامت بَرکاتُہمُ الْعَالِیَہ کے بیان کی کیسٹ ”قبر کی پہلی رات“ دی۔ جب میں نے یہ بیان سنا تو مارے خوف کے میرے رُونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ زندگی کے ناگفتہ بہ حالات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں نے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نافرمان پایا۔ اپنے انجام کا تصوّر کر کے میں بے قرار ہو گیا۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اُسی وقت اپنے خالق و مالک عَزَّوَجَلَّ سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر لی۔ پھر مجھ پر دعوتِ اسلامی کا ایسا مدنی رنگ چڑھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے اور اُن کی نفرت محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک خواہش مسلسل مجھے تڑپاتی

رہتی کہ کاش میں اس ولی کامل یعنی امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کا شربت پی سکوں جن کی بنائی ہوئی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کی بدولت میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا۔ آخر کار میری سعادتیں اپنی معراج کو پہنچیں اور امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ غالباً کسی مدنی مشورے کے لئے عید گاہ مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے۔ وہاں میں آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے عطارِی ہو گیا اور رات بھر ویڈیو مرشد کے مزے بھی لوٹا رہا۔ تا دمِ تحریر میں علاقائی مشاورت کے خادم (نگران) کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دُھو میں مچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

مقبول جہاں بھر میں ہو دعوتِ اسلامی

صدقہ تجھے اے ربِّ غفار مدینے کا

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّد

دھوکہ دہی سے روکا

ولید کا بھائی سلیمان بن عبدالملک اس کا ولی عہد تھا مگر وہ اُسے ولی عہدی سے ہٹا کر اپنی اولاد کو خلافت منتقل کرنا چاہتا تھا اور یہ کام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ جب ولید نے اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بات کی تو حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا: ”یَا اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنَّا بَايَعْنَا لَكُمْ فِیْ عَقْدَةٍ وَّاحِدَةٍ فَكَيْفَ نَخْلَعُهُ وَنَتْرُكُكَ یعنی امیر المؤمنین! ہم نے آپ دونوں کی ایک ہی وقت میں بیعت کی تھی اب اکیلے

سلیمان کو اس بیعت سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟“ (سیرت ابن جوزی ۵۲) اس پر ولید نے ناراض ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قید میں ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کافی عرصہ قید میں رکھا گیا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ارادے پر ثابت قدم رہے، بالآخر کسی کی سفارش پر رہائی ملی۔ سلیمان بن عبدالملک نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی وفاداری اور احسان کو یاد رکھا چنانچہ اپنے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ (تاریخ الخلفاء ۲۳۵) **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ**
پَر رَحْمَتِ هُوَ اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔

’امین بجاہِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
انسان کو وہی کچھ ملے گا جو آگے بھیجا ہوگا

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز، خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے نکلے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ وغیرہ پہلے سے آگے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا جو اُس نے پہلے سے بھجوا رکھا تھا۔ سلیمان بھی اپنے خیمے میں چلا گیا، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کہیں نظر نہ آئے تو سلیمان نے کہا انہیں تلاش کرو، غالباً انہوں نے کوئی خیمہ نہیں بھیجا تھا۔ تلاش کیا گیا تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے تھے۔ سلیمان کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ کو بلایا اور دریافت کیا: ”ابو حفص!

کیوں رور ہے تھے؟“ فرمایا: امیر المؤمنین! مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا، دیکھئے میں نے گھر سے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی، اس لئے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا، اسی طرح قیامت میں بھی جس نے جو چیز آگے بھیجی ہوگی وہی اُسے ملے گی۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۳ ملخصاً)

ہائے! حُسنِ عمل نہیں پلے حُشر میں میرا ہوگا کیا یارب
خوف آتا ہے نارِ دوزخ سے ہو کرم بہرِ مصطفیٰ یارب

(وسائلِ بخشش ص ۸۸)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

بارش سے عبرت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ ایک بار سلیمان بن عبدالملک کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ حج کے بعد طائف گئے تو راستہ میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہوئی، سلیمان نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”ابَوْحَفْص! کبھی ایسی بارش دیکھی؟“ فرمایا: ”هَذَا عِنْدَنْزُولِ رَحْمَتِهِ فَكَيْفَ لَوْ كَانَ عِنْدَنْزُولِ نِقْمَتِهِ“ یعنی ابھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کی بارش ہے، اگر اس کے غَضَب کی بارش ہو تو کیا حالت ہوگی؟“ (سیرت ابن جوزی ص ۵۲)

سے گر ٹو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی

ہائے! میں نارِ جہنم میں جلوں گا یارب! (وسائلِ بخشش ص ۹۱)

یہ صدقے سے بہتر ہے

ایک صحرا میں اسی قسم کا اور بھی واقعہ پیش آیا تو سلیمان نے گھبرا کر ایک لاکھ درہم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو صدقہ کرنے کے لئے دیئے کہ اُس کی بَرَکت سے بادلوں کی گرج اور بجلی کی کرکوک کی یہ آفت ٹل جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اُسے مشورہ دیا: اس سے بھی بہتر ایک کام ہے۔ سلیمان نے پوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: آپ نے بعض لوگوں کی جائیداد غَضَب کر رکھی ہے، وہ واپس دے دیجئے۔ یہ انفرادی کوشش رنگ لائی اور سلیمان نے اُن کے تمام مال، جائیداد واپس کر دیئے۔ (سیرت ابن جوزی ۵۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت سے ہمیں یہ دَرس ملا کہ جب کوئی مصیبت آن پڑھے تو اُس سے نجات پانے کے لئے دعا کرنے اور صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنا چاہئے کہ کہیں ہم نے کسی کی زمین، مال یا کسی کی جائیداد پر ظالمانہ قبضہ تو نہیں کر رکھا اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو سلب کردہ حُقوق فوراً ادا کر دینے چاہئیں، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مصیبت ٹلنے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں بھی نصیب ہوں گی۔

دُنیا کو دُنیا کھا رہی ہے

ایک مرتبہ دورانِ سفر مقام عُشْفَان کے قریب پہنچ کر سلیمان نے اپنے لاؤ لشکر اور قطار دَرَزَ قَطَارِ خیموں کو دیکھا تو سَرِ شاری میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ

رحمۃ اللہ العزیز سے پوچھا: کَیْفَ تَرَى مَا هَاهُنَا يَا عُمَرُ؟ یعنی آپ کو یہ سب دیکھ کر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جواب دیا: اَرَى دُنْيَا يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا تِ الْمَسْئُولُ عَنْهَا وَالْمَاخُوذُ بِمَا فِيهَا یعنی مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کو دنیا کھا رہی ہے، آپ سے اس کا سوال اور مواخذہ کیا جائے گا۔ (سیرت ابن جوزی ۵۲)

یہ تمہارے فریق ہیں

عَرَفَات میں قیام کے دوران سلیمان نے اجتماع گاہ کی طرف دیکھ کر کہا: کتنے زیادہ لوگ جمع ہیں! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اسے فَلَہِ آخِرَت دلاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے فریق ہیں (یعنی قیامت کے دن بارگاہ الہی میں آپ کے خلاف دعویٰ کریں گے)۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۹)

حکم شرعی کو فوقیت ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ میرے والد صاحب (یعنی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی بعض صاحبزادیوں کا عبد الملک کی وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ دلوایا جائے۔ سلیمان نے جواب دیا کہ عبد الملک نے ایک تحریر چھوڑی ہے کہ اُن کو حصہ نہ دیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کچھ دیر خاموش رہے، دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کی تو سلیمان سمجھا کہ شاید ان کو میری بات کا یقین نہیں آیا چنانچہ خادم کو کہا: ذرا عبد الملک کی کتاب لانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے کہا:

کیا تم نے کتابُ اللہ منگوائی ہے (یعنی جب شریعت نے میراث میں ان کا حصہ مقرر کیا ہے تو کوئی اپنی تحریر سے اسے کیسے ختم کر سکتا ہے؟) یہ سن کر سلیمان خاموش ہو کر رہ گیا اور اُس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۷)

عورتوں کو بھی میراث میں سے حصہ دیجئے

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! جس شریعت نے وراثت میں مردوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے اُسی شریعت نے عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے لہذا اور ثلے کی تقسیم کے وقت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حصہ دینا لازم ہے مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے میں رکاوٹ بنتی ہے بلکہ اگر کوئی اسلامی بہن اپنا حصہ شرعی لینے پر اصرار کرے تو اوّل تو اُسے حصہ دینے سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر حصہ لینا ہے تو ہم سے تعلق ختم کرنا ہوگا نیز حصہ طلب کرنے کو مَعْيُوب سمجھا جاتا ہے جو کہ دُرست نہیں ہے۔

جذامیوں کی جان بچائی

خليفة سلیمان بن عبد الملک ایک رات مکہ مکرمہ کے قریب سواری پر جا رہا تھا کہ اُونگھ آ گئی، اتنے میں جذامیوں کے شور مچانے اور گھنٹیاں بجانے کی آواز آئی گھبراہٹ اور بے چینی سے سلیمان کی آنکھ کھل گئی، انکی اس حرکت پر بڑی کوفت ہوئی اور اس نے جلال کے مارے حُکم دے دیا انہیں آگ سے جلا دیا جائے، جس شخص کو یہ حُکم دیا گیا تھا وہ بے حد پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے؟ اتنے میں اُس کی ملاقات

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ہوئی اور اُس نے سارا ماجرا سنا کر مدد کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: ”ذرا ٹھہرو! میں امیر المؤمنین سے ملتا ہوں۔“

پُچنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سلیمان کے پاس گئے، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں پھر آپ نے فرمایا: امیر المؤمنین! آپ نے کبھی ان مُبتلائے مصیبت (جذامی) لوگوں جیسا بھی کوئی دیکھا؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی عافیت میں رکھے، کاش آپ ان کو یہاں سے نکال دینے کا حُکم فرمادیتے۔“ سلیمان نے اعتراف کرتے ہوئے کہا:

”آپ نے ٹھیک فرمایا، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز واپس آئے اور اُس شخص سے فرمایا: امیر المؤمنین نے ان کو (جلانے کے بجائے) یہاں سے نکال دینے کا حُکم فرمادیا ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۶)

مُثلہ کرنے سے روکا

ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے چند لشکری رات بھر گانے بجانے میں مصروف رہے، صبح سلیمان نے انہیں بلوا کر ڈانٹا اور بطور سزا انہیں خُصی کرنے (یعنی نامرد بنانے) کا حُکم دے دیا مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: هَذَا مُثَلَّةٌ وَلَا تَحِلُّ یعنی یہ مُثلہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو سلیمان نے انہیں چھوڑ دیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۹)

مُثلہ سے منع فرماتے

حضرت سیدنا عمر ان بن حُصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسولُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم کو مُثلہ سے منع فرماتے تھے۔

(ابوداؤد، الحدیث ۲۶۶۷، ج ۳، ص ۷۲)

مُفَسِّرِ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِي أَحْمَدِ يَارْخَانَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ

فرماتے ہیں: مُثلہ کے لغوی معنی ہیں سِخْتِ سِزَا، اصطلاح میں مِیّتِ یَا مَقْتُولِ کے ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک، ذکر (یعنی آلہ تَنَاسُلِ) وغیرہ کا ٹٹے کو کہتے ہیں۔

(مراة المناجیح، ج ۵، ص ۲۶۷)

فیاضی کی حقیقت

ایک بار سلیمان بن عبدالملک مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً وَ تَعْظِماً آیا تو وہاں

بہت سماں تقسیم کیا پھر داد طلب نگاہوں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو دیکھتے ہوئے پوچھا: ابو حَفْص! آپ نے دیکھا ہم نے کیسی فیاضی کی!

فرمایا: میرے خیال میں تو آپ نے مالداروں کے مال میں اضافہ کر دیا اور فقیروں کو اسی طرح تنگدستی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول ملا کہ صدقہ

وخیرات پر پہلا حق تنگدست کا ہے نہ کہ مال دار کا، جس کا پیٹ پہلے ہی سے بھرا ہوا ہو اُس کے منہ میں نوالے لٹھونسنے کے بجائے بھوکے کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عقلِ سلیم عطا فرمائے، اٰمِیْنِ بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ

والہ وسلم -

خلیفہ کی توہین پر قتل کا حکم

ایک شخص نے بزسر عام خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کو برا بھلا کہا اور اُس کی سخت توہین کی۔ سلیمان نے اُس کے بارے میں مشورہ کیا کہ اسے کیا سزا دی جائے؟ حاضرین نے کہا: فوراً اُس کی گردن اڑادی جائے مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ خَامُوش رہے۔ سلیمان نے کہا: عمر! آپ نے کچھ نہیں فرمایا! جواب دیا: اگر آپ مجھ سے پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو سنئے کہ رسولُ اللہ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے علاوہ کسی کو سب و شتم کرنے والے کی خون ریزی جائز نہیں۔ یہ جواب سن کر سب لوگ اُٹھ گئے اور سلیمان بھی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا: اے عمر! اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تمہیں خوش رکھے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۲)

سلیمان بن عبدالملک کا اعتراف

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے شریعت کے عین مطابق دیئے گئے مشوروں کا ہی نتیجہ تھا کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کو آپ کی عظمتوں کا اعتراف تھا چنانچہ اس کا بیان ہے: ”حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَدِيرِ جب کبھی میرے پاس موجود نہ ہوں تو مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اُن سے زیادہ معاملہ فہم اور صحیح مشورہ دینے والا ہو۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۲)

جھوٹ سے نفرت

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ، خلیفہ سلیمان بن

عبدالملک کی رفاقت میں آب و ہوا کی تبدیلی کے لئے کسی پُر فضا مقام میں گئے، اتفاقاً وہاں ان کے اور خلیفہ سلیمان کے غلاموں کے درمیان کسی بات پر تکرار ہوگئی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے غلاموں نے خلیفہ سلیمان کے غلاموں کی پٹائی کر دی، انہوں نے اسکی شکایت خلیفہ سلیمان سے کی، سلیمان نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو بلایا اور شکایت کے لہجے میں کہا: ”آپ کے غلاموں نے میرے غلاموں کو مارا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”مجھے اس بات کا علم نہیں۔“ سلیمان بگڑ کر بولا: ”آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔“ فرمایا: ”جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ آدمی کو نقصان دیتا ہے، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۴)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو جھوٹ سے کس قدر نفرت تھی! اور جھوٹ سے نفرت ہونی بھی چاہئے مگر صد افسوس! آج کثرت سے جھوٹ بولنے کو کمال اور ترقی کی علامت جبکہ سچ کو بے وقوفی اور ترقی میں رُکاوٹ تصور کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو مَذْمُوم مقاصد کے لئے جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھئے! جھوٹ بولنے والا دنیا میں چاہے کتنی ہی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ لے، آخرت میں ناکامیاں اور رسوائیاں اُس کا استقبال کریں گی، لہذا! ہمیں چاہئے کہ اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں۔

جھوٹ کی مذمت میں تین فرامین مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(۱) اَلَا اِنَّ الْكُذْبَ يَسْوُدُّ الْوَجْهَ وَالنَّمِيْمَةَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لِعِنِي

”جھوٹ، انسان کو رُسوا کر دیتا ہے اور چُغلی عذابِ قبر کا سبب بنتی ہے۔“ (الترغیب

والترہیب کتاب الادب، الحدیث ۴۵۲۰، ج ۳، ص ۳۵۶) (۲) اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ

الْمَلِكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهٖ لِعِنِي جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اُس کی بد

بو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ (سنن الترمذی، ج ۳، ص ۳۹۲، الحدیث ۱۹۷۹) (۳) اِنَّ

الصِّدْقَ يَهْدِي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ

حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَاِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي

اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا لِعِنِي سچ بولنا نیکی کی طرف

اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے

صِدِّيق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنا فسق و فُجور کی طرف جبکہ فسق و فُجور دوزخ میں

لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کذاب لکھ دیا

جاتا ہے۔“ (مسلم، کتاب الادب، باب فتح الکذب، الحدیث ۲۶۰۷، ص ۱۴۰۵)

س میں جھوٹ نہ بُولوں کبھی گالی نہ نکالوں

اللَّهُ مَرَضٌ سَ تُوْغْنَاهُوْنَ كَ شِفَا دَے (وسائل بخشش ص ۱۰۳)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّد

حضرت خضر علیہ السلام سے شرفِ ملاقات

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک رات تنہا سوار ہو کر کہیں جانے کے لئے نکلے، آپ کے خادم مُز احم بھی آپ کے پیچھے ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آگے ذرا فاصلے پر تھے، مُز احم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جس نے اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، حالانکہ گھر سے آپ تنہا نکلے تھے۔ مُز احم کہتے ہیں: میں نے سوچا یہ کوئی رہبر ہوگا جسے راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا ہوگا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ آپ سے جا ملوں۔ میں آپ تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ تنہا چل رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ میں نے عرض کی: میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں سمجھا کہ وہ کوئی رہبر ہوگا، لیکن میں آپ تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ تنہا ہیں۔ فرمایا: مُز احم! کیا واقعی تم نے انہیں دیکھا ہے؟ عرض کی: جی ہاں، فرمایا: میرا گمان ہے تم نیک آدمی ہو، دراصل وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے اس امر (یعنی خلافت) سے پالا پڑے گا اور (حق تعالیٰ کی جانب سے) اس پر میری مدد کی جائے گی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۷)

حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ”ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت“ کے صفحہ 483 پر ہے: حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی ہیں، زندہ ہیں۔ (عمدۃ القاری، کتاب العلم، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ..... الخ،

ج ۲، ص ۸۳، ۸۵) فتاویٰ رضویہ شریف میں ہے: مَا لِكِ نَحْرٍ وَبِرٍّ أَوْ هَرَجَةٍ وَتَرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كِي ذَاتٍ هِيَ وَأُرْسُ كِي عَطَا سَعَهُ حُضُورِ سَيِّدِ عَالَمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حُضُورِ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْم وَسَلَّمَ) كِي نِيَابَتِ (بِعَيْنِي نَائِبٍ هُونِي كِي حَشِيَّتِ) سَعِ حِضْرٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي تَصْرُفَاتِ خَشْكِي وَدِرْيَادُونُولِ مِيں هِيں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۶ ص ۳۳۶)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ایمان افروز خواب

حضرت سیدنا رجا بن حیو ؓ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”اُردن“ کے رہنے والے تھے، اپنے دور کے بہت بڑے عابد، خوش اخلاق، دانا، حلیم اور باوقار تھے، خانہ انکی قدر کرتے تھے اور انہیں اپنا وزیر و مُشیر اور اپنے حکام اور اولاد کا نگران مقرر کیا کرتے تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے ساتھ انکے مراسم بہت گہرے تھے، اُسے ان پر بڑا اعتماد تھا اور اپنے راز ان سے کہہ دیتا تھا۔ جبکہ خاندانِ بنی مروان میں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو سلیمان کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل تھا اور اسے آپ سے خصوصی تعلق تھا۔ جب سلیمان نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو مدینہ منورہ زادما اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً کا گورنر بنایا تو حضرت سیدنا رجا بن حیو ؓ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے پاس بھیجا تا کہ وہ انکے طور و طریق اور سیرت و روش کی ٹھیک ٹھیک خبر لائیں۔ غالباً سلیمان کے دل میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کا ارادہ موجود تھا، وہ یہ معلوم کرنا

چاہتا تھا کہ آپ کہاں تک اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا رجا بن حیوۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انکی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی۔ چند دن آپ کے یہاں انکا قیام رہا۔ معمول یہ تھا کہ صبح نماز فجر کے بعد وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس چلے جاتے، دونوں کی نجی مجلس ہوتی، جب تک حضرت سیدنا رجا بن حیوۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود رہتے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک دن جب یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس گئے تو مخاطب تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تھے مگر ان کا ذہن غیر حاضر تھا۔ دراصل انہوں نے رات ایک خواب دیکھا تھا، اُسی کی سوچ میں لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان سے دریافت کیا: کیا بات ہے؟ آپ کا ذہن کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: دراصل میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، بس اُسی کے بارے میں سوچ سوچ کر تجبب کر رہا ہوں۔ کہا: ”اللہ عزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے بیان تو کیجئے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟“ انہوں نے کہا: میں نے آج رات دیکھا کہ گویا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، میں ابھی اُن کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دو فرشتے اُترے، انکے ساتھ ایک تخت تھا، میں نے ایسا خوب صورت تخت کبھی نہیں دیکھا، یہ تخت انہوں نے مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً میں لا کر رکھا اور جس

راستے سے آئے تھے اسی سے واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دوبارہ آئے، اس بار ان کے پاس ایسے سفید کپڑے تھے کہ میں نے ایسے بہترین کپڑے کبھی نہیں دیکھے، انکی مہک میرے مشامِ جاں کو معطر کر رہی تھی، میں ان دونوں کے قریب گیا اور پوچھا کہ یہ کپڑے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سُندُس و استبرق ہیں۔ پھر وہ اوپر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک پیپکر نُور بزرگ بھی تھے، حلیہ یہ تھا: آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت سرخ و سفید اور سُرگیں، زُلفیں نہایت سیاہ کانوں کی لُو تک، دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اچھا خاصا، جُسم سڈول اور شخصیت سراپا بہت و وقار کا مجسمہ دونوں فرشتوں نے نُورانی بزرگ کو اُس تخت پر جو سُندُس و استبرق کے فرش پر بچھا ہوا تھا لا کر بٹھا دیا، میں نے قریب جا کر دریافت کیا: ”یہ کون بزرگ ہیں؟“ فرشتوں نے بتایا: ”رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ“ یہ سن کر میں تو کانپ کانپ گیا اور ادب کے مارے اُلٹے پاؤں ہٹتے ہٹتے کچھ دُور جا کھڑا ہوا مگر وہاں سے یہ سارا منظر نظر آ رہا تھا اور گفتگو بھی سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران ایک اور بزرگ وہاں تشریف لے آئے سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان کی طرف متوجّہ ہوئے، اسلام میں اُن کے کارناموں کی تعریف فرمائی اور فرمایا: تم ابو بکر صدیق ہو، میرے رفیقِ غار ہو، مگر یہاں معاملہ کسی اور کے سپرد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور کھڑے رہے، کچھ دیر بعد آواز آئی: ان کو چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت کے ایک طرف زمین پر بیٹھ گئے۔

پھر ایک اور شخص تاجدارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے حاضر ہوئے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُن کی طرف توجُّہ فرمائی، ان کے اسلامی کارناموں کی تعریف فرمائی اور فرمایا: تم فاروق ہو، جس کے ذریعہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دین کو عزت بخشی مگر یہاں معاملہ کسی اور کے سپرد ہے۔ یہ بھی کچھ دیر کھڑے رہے، پھر آواز آئی: ان کو چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک ایک خلیفہ کو لایا جاتا رہا، یہاں تک کہ آپ کا نمبر آیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِیہ سنتے ہی کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ”ہاں! ابوالمقدم! ذرا جلدی بتائیے کہ میرے ساتھ کیا گزری؟“ انہوں نے کہا: آپ کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے بڑی دیر تک آپ کو کھڑو راکرم صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے کھڑا رکھا گیا بالآخر رہائی کا حکم ہوا اور آپ کو شیخینِ گریمیمین (یعنی حضرت ابوبکر و عمر) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب بٹھا دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِیہ کو اس خواب سے بڑی حیرت ہوئی اور حضرت سیدنا رجا بن حیوۃ رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا: اگر مجھے آپ کے وَرَع و تقویٰ، صِدْق و وفا اور دوستی و رفاقت پر اعتماد نہ ہوتا تو میں یہی کہتا کہ آپ کا خواب صحیح نہیں کیونکہ میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں کبھی اس امرِ خلافت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر آپ کا خواب اور آپ کی گفتگو سن کر مجھے خیال ہوتا ہے کہ خواہی خواہی مجھے اس اُمت کی خلافت میں مُبْتَلَا ہونا ہی پڑے گا۔ بخدا! اگر میں اس میں مُبْتَلَا ہوا تو

یہ دنیا کا شرف تو ہے ہی مگر میں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِس کے ذریعہ آخرت کا شرف حاصل کر لوں گا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۸ ملخصاً) اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كى اُن پر رَحْمَتِ هُو

اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔

امين بجاہِ النَّبِيِّ الْاَمِينِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

خليفه كيسي بنے؟

دابق کے مقام پر (جو فوج کی اجتماع گاہ تھی) خلیفہ سلیمان بن عبد الملک شدید بیمار ہو گیا۔ جب زندگی کی کوئی اُمید باقی نہ رہی تو اس نے اپنے کم سن بیٹے ایوب کے نام خلافت کی وصیت لکھ دی مگر حضرت سیدنا رجا بن حیو ؓ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے مشورہ دیا: یا امیر المؤمنین! یہ آپ نے کیا کیا؟ خلیفہ کو اُس کی قبر میں جو چیز محفوظ رکھے گی وہ یہ ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کو خلیفہ بنائے۔ یہ سن کر سلیمان نے کہا: میں اس بارے میں استخارہ کرتا ہوں کیونکہ ابھی میرا ایوب کو جانشین بنانے کا ارادہ چمکتے نہیں ہے۔ ایک یا دو دن بعد سلیمان نے وہ تحریر پھاڑ دی اور حضرت سیدنا رجا بن حیو ؓ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا: میرے بیٹے داؤد بن سلیمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ یہاں سے بہت دور قسطنطنیہ میں ہے اور یہ بھی پتا نہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں! کافی دیر سوچنے کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا: عمر بن عبدالعزیز (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

حضرت سیدنا نارجاء بن حیو ؓ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: اللہ عزَّوَجَلَّ کی قسم! میں انہیں عُمدہ اور بہترین مسلمان سمجھتا ہوں۔ سلیمان نے ان کی تائید کی اور کہا: واللہ! وہ یقیناً بہترین ہیں لیکن اگر عبدالملک کی اولاد کو چھوڑ کر میں انہیں خلیفہ بنا دوں تو فتنہ اُٹھ کھڑا ہوگا اور وہ لوگ انہیں چین سے حکومت نہیں کرنے دیں گے، ہاں! ایک صورت ہے کہ اگر میں عمر بن عبدالعزیز (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) کے بعد عبدالملک کی اولاد میں سے بھی کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تو یہ انہیں قبول ہوں گے۔ چنانچہ سلیمان بن عبدالملک نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اور یزید بن عبد الملک کو بالترتیب اپنا جانشین مقرر کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں سے یہ خلافت نامہ لکھا: اللہ عزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے! یہ خط اللہ عزَّوَجَلَّ کے بندے، امیر المؤمنین سلیمان کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز (رحمة اللہ تعالیٰ علیہ) کے لئے ہے۔ بے شک میں نے اپنے بعد ان کو خلافت کا متولیٰ بنایا اور اس کے بعد یزید بن عبدالملک کو، پس تم لوگ ان کی بات سنو اور اطاعت کرو اور اللہ عزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔“ یہ وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے ”کعب بن جابر“ نامی پولیس افسر کے حوالہ کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لے چنانچہ سلیمان بن عبدالملک کی زندگی ہی میں اس پر بیعت لے لی گئی۔ چونکہ سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا اس لئے مرنے پہلے حضرت سیدنا نارجاء رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کو دوبارہ بیعت کی تاکید کی۔ (سیرت ابن جوزی ۶۰، ۶۱)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلِي مُحَمَّد

دونوں میں کتنا فرق ہے؟

حضرت سیدنا رجا بن حیو ؓ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جب پہلی مرتبہ سلیمان کی زندگی میں ہی نئے خلیفہ کے لئے بیعت لے لی گئی اور لوگ چلے گئے تو عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) میرے پاس آ کر کہنے لگے: بے شک سلیمان میری بڑی عزت کرتا ہے، مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے اور لطف و کرم سے پیش آتا ہے، اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس وصیت نامے میں میرا نام نہ لکھ دیا ہو، اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ابھی اُس سے معذرت کر لوں۔ مگر میں نے جواب دیا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں آپ کو ایک حرف بھی نہیں بتانے والا۔“ تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جبکہ ہشام بن عبدالملک نے مجھ سے مل کر کہا: بے شک سلیمان کی نظر میں میرے لئے بڑا احترام اور محبت ہے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وصیت میرے لئے ہے کہ اگر ایسا ہے تو فہما (یعنی ٹھیک)، ورنہ میں اس سے ابھی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ کیسے بنایا جاسکتا ہے! میں آپ کا نام کسی سے ذکر نہیں کروں گا، مجھے ضرور بتائیے۔ تو میں نے انکار کیا اور کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں تمہیں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہشام ناامید ہو کر وہاں سے چل دیا اور ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہا تھا: ”کیا خلافت مجھ سے پھیر دی جائیگی اور کیا خلافت عبدالملک کی اولاد سے نکل جائے گی!“ (سیرت ابن جوزی ۶۱)

میرانا نام نہ لیجئے گا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصیتِ خلافت لکھے جانے سے قبل بھی قسم دے کر کہا تھا کہ اگر سلیمان بن عبدالملک ”ولی عہدی“ کے لئے میرانا نام لے تو آپ منع کر دیجئے گا اور اگر میرانا نام نہ لے تو آپ بھی نہ لیجئے گا۔ (سیرت ابن عبدالہکم، ص ۲۸)

خلافت کا اعلان

جب سلیمان بن عبدالملک کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیدنا رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اندیشہ ہوا کہ بنو امیہ آسانی سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خلافت قبول نہ کریں گے، اس لئے کچھ دیر کے لئے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ دابق کی جامع مسجد میں بنو امیہ کے افراد کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی۔ اس کے بعد سلیمان کی موت کی خبر دی گئی اور وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا جس میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خلافت کی وصیت درج تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا گیا مگر آپ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جب تلاش کیا گیا تو مسجد کے آخری کونے میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ملے۔ خلافت کے لئے نام نکلنے کے بعد آپ کی حالت غیر ہو رہی تھی حتیٰ کہ اُٹھنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ لوگ انہیں سہارا دے کر منبر کے قریب لائے اور اس پر بٹھا دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کافی دیر

تک خاموش بیٹھے رہے، بالآخر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ”اے لوگو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے پوشیدہ اور ظاہری طور پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے خلافت کا سوال نہیں کیا تھا۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۶۲، ۶۹ ملخصاً) یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۰ صفر المظفر ۹۹ھ کو جمعہ

المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۱۹)

احساس ذمہ داری کی وجہ سے رونے لگے

حضرت سیدنا حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو رونے لگے۔ جب میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: ”حماد! مجھے اس ذمہ داری سے بڑا خوف آتا ہے۔“ میں نے ان سے پوچھا: ”آپ کے دل میں مال و دولت کی کتنی محبت ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”بالکل نہیں۔“ تو میں نے عرض کی: ”پھر آپ خوف زدہ نہ ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی مدد فرمائے گا۔“ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۸۵)

سے مرا دل پاک ہو سرکار! دنیا کی محبت سے

مجھے ہو جائے نفرت کاش! آقا مال و دولت سے (وسائل بخشش ص ۲۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ کا طرز عمل ملاحظہ فرمایا کہ بغیر طلب کے خلافت کا اعلیٰ ترین منصب ملنے پر خوش ہونے کے بجائے احساس ذمہ داری کی وجہ سے کس قدر پریشان ہو گئے اور ایک ہم ہیں جو عہدہ و منصب کے حصول کے لئے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اپنی

خواہش پوری ہو جانے پر پھولے نہیں سماتے لیکن اگر ہماری تگ و دو کا من پسند نتیجہ نہ نکلے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ (معاذ اللہ عَزَّوَجَلَّ) حسد و بغض، چٹھلی و غیبت، تہمت اور عیب جوئی کا ایک سنگین سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو تسلی دینے والے کی مددنی سوچ بھی مرحبا کہ اگر حرصِ مال دل میں نہیں ہے تو ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ عافیت و سلامتی نصیب ہوگی کیونکہ حرصِ مال بہت سی تباہیوں کا سبب ہے جیسا کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لیبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”مَا ذُنْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِاَفْسَادِ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ یعنی دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حُبّ جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔“ (جامع الترمذی، کتاب الزہد، الحدیث: ۸۳، ۲۳، ج ۴، ص ۱۶۶) مفسرِ شہیر حکیمُ اُلمّت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ العنان اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: نہایت نفیس تشبیہ ہے مقصد یہ ہے کہ مومن کا دین گویا بکری ہے اور اس کی حرصِ مال، حرصِ عزت گویا دو بھوکے بھیڑیے ہیں۔ مگر یہ دونوں بھیڑیے مومن کے دین کو اس سے زیادہ برباد کرتے ہیں جیسے ظاہری بھوکے بھیڑیے بکریوں کو تباہ کرتے ہیں کہ انسان مال کی حرص میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اپنے عزیز اوقات کو مال حاصل کرنے میں ہی خرچ کرتا

ہے پھر عزت حاصل کرنے کے لیے ایسے جتن کرتا ہے جو بالکل خلافِ اسلام ہیں۔

(مراۃ المناجیح ج ۷ ص ۱۹)

کاش! ہمیں ایسا خوفِ خدا نصیب ہو جائے کہ جب جاہ سے جان چھوٹ

جائے اور حرص سے بھی کسی ”واہ“ کی خواہش ہو نہ کسی ”آہ“ کا غم، صرف اور صرف رضائے الہی عَزَّوَجَلَّ ہمارے پیشِ نظر رہے۔

۷ اپنی رضا کا دیدے مُردہ ۲

یا اللہ مری جھولی بھر دے (وسائلِ بخشش ص ۱۰۹)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

عِطْرِ وَالْكِطْرِ دَهْوِ وَالْ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ بہت خوش پوشاک اور

عُمدہ سے عُمدہ عِطْر استعمال کیا کرتے تھے مگر جب خلافت آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

کے سپرد کی گئی تو گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے، لوگ سمجھے کہ شاید خلافت ملنے کی

خوشی میں رو رہے ہیں، کچھ دیر بعد سر اٹھایا، آنکھیں ملیں اور دعا مانگی: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

عَقْلًا يَنْفَعُنِي وَاجْعَلْ مَا أَصِيرُ إِلَيْهِ أَهْمًا مَا يَزُولُ عَنِّي دَعْنِي يَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مجھے

عَقْلِ نافع عطا فرما اور جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اسے میری نظر میں اہم بنا دے اس

چیز کے مقابلے میں جو مجھ سے دُور ہونے والی ہے۔“ پھر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ گھر

گئے اور عِطْرِ وَالْكِطْرِ سے دھو ڈالا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۳)

۱: راضی ہونا ۲: خوش خبری

تمہارے پاس عذل اور نرمی آرہی ہے

جس دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مسندِ خلافت کو زینت بخشی، اس سے ایک رات پہلے کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے کہہ رہا ہے: ”لوگو! تمہارے پاس عذل اور نرمی آرہی ہے، اب مسلمانوں میں نیکیوں کا چرچا ہوگا۔“ خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا: ”وہ کون ہے؟“ آواز دینے والا آسمان سے زمین پر اتر اور اپنے ہاتھ سے لکھا ”عمر!!“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۱)

خلافت کی بشارت

حضرت سیدنا وہیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مقام ابراہیم کے قریب سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں ایک شخص کو باب بنی شیبہ سے اندر آتے ہوئے دیکھا جو کہہ رہا تھا: لوگو! تم پر اللہ عزوجل نے ایک والی مقرر کیا ہے۔ میں نے پوچھا: کون؟ اس نے اپنے ناخن کی طرف اشارہ کیا جس پر ”ع م ر“ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی بیعت کا واقعہ رونما ہو گیا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۷۱)

ہدایت یافتہ خلیفہ

ابو عنینس کا بیان ہے کہ میں خالد بن یزید بن معاویہ کے ساتھ بیٹ المقدس کی مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک نوجوان نے آکر خالد کو سلام کیا، خالد نے سلام کا جواب دیا اور مصافحہ کیا تو نوجوان نے پوچھا: هَلْ عَلَيْنَا مِنْ عَيْنٍ یعنی کیا ہم پر کوئی

نگہبان ہے؟ خالد کے بجائے میں نے جلدی سے کہا: ”ہاں! تم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایک فراست والا نگہبان ہے۔“ یہ سن کر اس نوجوان پر رقت طاری ہو گئی اور اُس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے خالد سے پوچھا: یہ کون تھا؟ کہا: کیا تم اُسے نہیں جانتے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے اور اگر تم زندہ رہے تو اُسے ہدایت یافتہ خلیفہ دیکھو گے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۵)

نصیحتِ نبوی

حضرت سیدنا امام مَحْرُوعی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی سب سے سب سے گنبد میں زیارت کی تو ارشاد ہوا: تم عنقریب میری اُمت کے معاملات کے والی بنو گے تو خون بہانے سے بچنا، خون بہانے سے بچنا، کیونکہ لوگوں میں تمہارا نام عمر بن عبدالعزیز اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ”جاہر“ ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۸۶)

ان دونوں کی طرح خلافت کرنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے رُخ روشن کی خواب میں زیارت کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلا کر ارشاد فرمایا: يَا عُمَرُ! إِذَا وَلَّيْتَ فَأَعْمَلْ فِي وِلَايَتِكَ نَحْوًا مِّنْ عَمَلِ هَذَيْنِ یعنی اے عمر! جب تمہیں خلیفہ بنایا جائے تو ویسے ہی کام کرنا جیسے ان دونوں نے اپنی خلافت کے دوران کئے تھے۔ میں نے عرض

کی: یہ دونوں حضرات کون ہیں؟ فرمایا: ابو بکر اور عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۸۴)

حجاج کی زبان پر ذکرِ خلافت

عنبسہ بن سعید کا بیان ہے کہ حجاج بن یوسف نے عُثُوْدِی کی حالت میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کا تذکرہ کیا تو میں نے حجاج کو خوش کرنے کے لئے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پرنکتہ چینی کی مگر حجاج اُسی کیفیت میں کہنے لگا: ”خاموش! ہم کہتے ہیں کہ وہ اس امرِ خلافت کے سربراہ بنیں گے اور عدل و انصاف کریں گے۔“ پھر میں وہاں سے چلا آیا، بیدار ہونے کے بعد حجاج نے مجھے بلا کر کہا کہ جو بات عُثُوْدِی کی حالت میں میرے منہ سے نکلی تھی اگر تم نے کسی سے کہی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۸)

سلیمان کے لئے خوشخبری

سلیمان بن عبد الملک کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی ایک شخص نے اُسے یہ خبر دے دی تھی کہ چند دن تک تمہیں خلافت ملے گی، پھر اسی طرح ہوا۔ جب یہ شخص دوبارہ خلیفہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے پوچھا: میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ اس نے کہا: میں نہیں جانتا۔ سلیمان نے کہا! تجھ پر افسوس ہے، کیا تمہیں میرا بیٹا ایوب نظر نہیں آتا! اس نے کہا: میں ایوب کو خلفاء کی فہرست میں نہیں پاتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ اپنا خلیفہ ایسے شخص کو بنائیں گے جو آپ کے بہت سے گناہوں کا کفارہ

ہو جائے گا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۱)

خلافت سے دستبردار ہونے کی پیشکش

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلافت کی عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے کڑا زان ترساں تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد میں بڑے سہ منبر پر پیش کش کی: ”اے لوگو! میرے کندھوں پر خلافت کا بار گراں رکھ دیا گیا ہے مگر میں اُسے انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا لہذا میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے اسے خود اُتارے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔“ جب حاضرین نے یہ سنا تو بے چین ہو گئے اور سب نے بیک زبان کہا: ”ہم نے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا، ہم آپ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے راضی ہیں، ہم سب آپ ہی کی خلافت پر متفق ہیں۔ آپ اللہ عزوجل کا نام لے کر اُمور خلافت سرانجام دیں، اللہ عزوجل اس میں بڑکت دے گا۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۶۵) اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔

امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

خلیفہ بننے کے بعد اصلاحی بیان

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے لوگوں کی یہ عقیدت دیکھی اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ لوگ بخوشی میری خلافت قبول

کرنے پر آمادہ ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کی اور حضورِ اکرم صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر دُرُود و سلام پڑھنے کے بعد لوگوں سے کچھ اس طرح مخاطب ہوئے: ”اے لوگو! میں تمہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے کی وصیّت کرتا ہوں، تم تقویٰ اختیار کرو اور اپنی آخرت کے لئے نیکیاں کرو۔ بے شک جو شخص آخرت کے لئے نیک اعمال کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اُس کی دُنیوی حاجات کو خود پورا فرمائے گا۔ اے لوگو! تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور موت سے پہلے اپنے لئے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات ختم کر دے گی۔ اے لوگو! تم اپنے آباؤ اجداد کے احوال میں غور و فکر کیا کرو وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لئے بہت سختی کا باعث ہوگی لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور بے شک یہ اُمت اپنے رب عَزَّوَجَلَّ، اُس کے نبی صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور اُس کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرے گی بلکہ ان کے درمیان عداوت و فساد تو دوزخ ہم و دینار کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں کسی ایک کو بھی ناحق کوئی چیز نہ دوں گا اور حق دار کو اُس کا حق ضرور دوں گا۔“ اس کے بعد فرمایا: ”اے لوگو! جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرے، تم پر اُس کی اطاعت واجب ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت ہرگز نہ کرو۔ جب

تک میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا اگر تم دیکھو کہ (معاذ اللہ عَزَّوَجَلَّ) میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت نہیں کر رہا تو اُس معاملے میں تم میری ہرگز اطاعت نہ کرنا۔“ (عیون الحکایات، ص ۸۳)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

عہدِ صدیقی و فاروقی کی یاد تازہ کر دی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ كُوْخَلِيفَه بَنِي كَعْبَد مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفاذ کی فکر دامن گیر رہتی جس کی وجہ سے اکثر چہرے پر پریشانی اور ملال کے آثار دکھائی دیتے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبدالمکمل رحمة اللہ تعالیٰ علیہا کو حکم دیا کہ اپنے زیورات بیٹ الممال میں جمع کرادو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفا شعار اور نیک بیوی نے تعمیل کی۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ نہ تھی تمام کام وہ خود کرتیں۔ الغرض آپ کی زندگی درویشی اور فقر و استغنا کا نمونہ بن گئی۔ آپ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی تمام تر کوششیں اس امر پر لگی ہوئی تھیں کہ ایک بار پھر عہدِ صدیقی و فاروقی کی یاد تازہ کر دیں۔ آپ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا، اُن کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں انہیں واپس کر دی گئیں۔ احیائے شریعت کے لیے کام کیا۔ بیٹ الممال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا۔ اس کی حفاظت کا نہایت مضبوط انتظام کیا، اس میں سے تنگے تحائف اور بے جا انعامات دینے کا

طریقہ موقوف کر دیا۔ ذمیوں سے حُسنِ سلوک کی روایت اختیار کی۔ اس کے علاوہ بھی معاشی اور سیاسی نظام میں کئی اصلاحات کیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا زمانہ خلافت اگرچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا لیکن عالمِ اسلام کے لیے تاریخی زمانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے مختلف حکمرانِ اسلام کے دیئے ہوئے نظامِ مذہب و اخلاق اور سیاست و حکومت میں طرح طرح کی آمیزشیں کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن سب خرابیوں سے حکومت و معاشرہ کو پاک کرنے کی کوششیں کیں، حکمرانوں کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی، امیرِ غریب کے امتیازات، جبر و استبداد کے نشانات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافتِ اسلامیہ کو خلافتِ راشدہ کی طرز پر قائم کر کے عہدِ صدیقی اور عہدِ فاروقی کو دنیا میں پھر واپس لے آئے تھے۔ تجدید و اصلاح کے اسی کارنامہ کی بدولت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ خلافتِ راشدہ میں شہما رکیا جاتا ہے۔

خلافتِ راشدہ کسے کہتے ہیں؟

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت میں ہے کہ امامِ اہلسنتِ اعلیٰ حضرت مجدِّ دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں سُوال کیا گیا کہ خلافت

راشدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے مضداق کون کون ہوئے، اور اب کون کون ہوں گے؟
 جواب میں ارشاد فرمایا: خلافتِ راشدہ وہ خلافت کہ منہاجِ نبوت (یعنی نبوی طریقے)
 پر ہو جیسے حضراتِ خلفائے اربعہ (یعنی چار خلفائے کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت
 سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) و امامِ حسن
 مجتبیٰ و امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی اور اب میرے خیال
 میں ایسی خلافتِ راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قائم کریں گے۔ وَالْغَيْبُ
 عِنْدَ اللَّهِ (یعنی: اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ت) (ملفوظات، ص ۱۶۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

مُحْرَسَانِي كَا خَوَاب

مُحْرَسَانِي میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اُس سے کہہ رہا
 ہے کہ جب بنو امیہ میں (پیشانی پر) نشان والا خلیفہ ہو تو تم فوراً جا کر اس کی بیعت کر
 لینا اس لئے کہ وہ ”امام عادل“ ہوگا۔ چنانچہ وہ بنو امیہ کے ہر خلیفہ کا حلیہ دریافت کرتا
 رہا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ ہوئے تو اُس نے
 پے در پے تین دن تک خواب دیکھا کہ اُس سے بیعت کے لئے کہا جا رہا ہے، اس پر
 وہ شخص ہاتھوں ہاتھ مُحْرَسَانِي سے روانہ ہو گیا اور دمشق پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
 بیعت کر لی۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۱)

خلیفہ بنانے والے کے بارے میں حُسنِ ظن

محمد بن علی بن شافع کہتے ہیں: میرا حُسنِ ظن ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سلیمان بن عبدالملک کو عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو خلیفہ بنانے کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ (سیرت ابن جوزی ۶۳)

لوگ بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے

جب سلیمان بن عبدالملک کو دُفن کیا جا چکا تو لوگ پر وا نہ وار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ سے بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ ہجوم کی وجہ سے آپ کے صاحبزادے کی قمیص کا گریبان پھٹ گیا۔

(سیرت ابن عبدالکحلم ص ۱۲۴)

بیعت کے الفاظ

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ان الفاظ پر بیعت لی:

تَطِيعُنِي مَا اطَعْتُ اللّٰهَ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ فَلَا طَاعَةَ لِيْ عَلَيْكَ يَعْنِيْ تَمِيرِيْ اُسْ
وَقْتُتْ تِكْ اِطَاعَتْ كُرُوْگے جَبْ تِكْ مِیْنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ كِيْ اِطَاعَتْ كُرُوْا رَاگَر مِیْنِ اِسْ
كِيْ نَا فَرْمَانِيْ كُرُوْ تُو تَمِیرِيْ اِطَاعَتْ لَا زِمْ نَہِیْنِ۔ (سیرت ابن جوزی ص ۶۷)

مجھے اس منصب کی چاہ نہیں تھی

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے چچا زاد بھائی اور

مرحوم خلیفہ کے بیٹے ہشام نے بیعت کے لئے اپنا ہاتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں دیا تو اُس کے منہ سے نکلا: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (یعنی ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔) آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: اَجَلُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (یعنی بے شک ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔) پھر فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں اس مقام و منصب کی خواہش نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ ایسی شے نہیں ہے جس کے ذریعے میں رب تعالیٰ کا قُرب پاسکوں۔ (تاریخ دمشق، ج ۴۵ ص ۱۵۹)

آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سلیمان بن عبدالملک کی تدفین کے بعد واپس ہوئے تو بہت رنجیدہ اور غمگین دکھائی دے رہے تھے، غلام نے سبب پوچھا تو فرمایا: آج اس دنیا میں کوئی رنجیدہ اور فکر مند ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی حقدار مجھ سے اپنا حق طلب کرے میں اُس کا حق اس تک پہنچا دوں۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۵)

شاہی سواری سے انکار

خلافت کا بارگراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جب سلیمان بن عبدالملک کی تدفین سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان سے واپس آنے لگے تو سواری کے لئے عمدہ نسل کے خچر اور تڑکی گھوڑے پیش کئے گئے، پوچھا: ”یہ کیا

ہے؟“ عَرَض کی گئی: ”یہ شاہی سواریاں ہیں جن پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، ان کا مَصْرَف یہ ہے کہ نیا خلیفہ ہی پہلی بار ان پر سوار ہوا کرتا ہے، چونکہ اب آپ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہی ہمارے خلیفہ ہیں لہذا ان میں سے کسی کو قبول فرمائیے۔“ مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ ان میں سے کسی پر سوار نہ ہوئے اور اپنے خادمِ خاص مَزاحم سے فرمایا: ”میرے لئے میرا نچر ہی کافی ہے، انہیں مسلمانوں کے بیٹے المال میں داخل کر دو۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۳)

مجھے اپنے جیسا ہی سمجھو

جب روانہ ہونے لگے تو ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر عَرَض کی: ”حضور! چلیے، میں آپ کے نچر کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اُسے بھی مَنع کر دیا اور فرمایا: ”میں بھی تمہاری ہی طرح ایک عام مسلمان ہوں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۶۵ ملتقطاً)

شاہی خیمے میں نہیں گئے

شاہی دَسْتُور تھا کہ مَسَدِ خِلافت سنبھالنے پر خلفاء کے لئے اعلیٰ قسم کے خیمے اور شامیا نے نَصَب کئے جاتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے لئے بھی نئے شاہی خیمے اور شامیا نے آراستہ کئے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“ عَرَض کی گئی: ”شاہی خیمے اور شامیا نے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، ان میں نئے خلیفہ کی سب سے پہلی نَشِست ہوتی ہے۔“

اپنے وفادار غلام سے فرمایا: ”مُرِّاحِم! ان کو مسلمانوں کے بیٹے المال میں شامل کر دو۔“
 پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نچر پر سوار ہو کر اُن عالیشان قالینوں تک پہنچے جو نئے
 خلیفہ کے اعزاز میں بچھائے گئے تھے اور اُن کو پاؤں سے ہٹاتے ہوئے نیچے کی چٹائی
 پر بیٹھ گئے۔ پھر ان قالینوں کو بھی مسلمانوں کے بیٹے المال میں جمع کروانے کا حکم
 دے دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۳) **اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرِ رَحْمَتِ هُوَ اور ان کے**
صَدَقَ ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
 صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ
تین فوری احکام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے قلم کا غد طلب کیا اور
 فوری طور پر تین احکام جاری کئے، گویا اُن کے نزدیک خلیفہ بن جانے کے بعد ان
 میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں تھی۔ پہلا حکم یہ تھا کہ مسلمہ بن عبد الملک کو قَسْطُنْطِیْنِ
 سے واپسی کی اجازت ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے
 اپنی زندگی میں انہیں قسطنطنیہ کے بڑی و بحری جہاد کے لیے بھیجا تھا، قریب تھا کہ شہر فتح
 ہو جائے مگر یہ دشمن کے دھوکے میں آ گئے، حریفوں نے ان کے کھانے پینے اور
 دوسری ضروریات کے سامان پر قبضہ کر کے شہر کا دروازہ بند کر لیا۔ سلیمان کو اس کی
 اطلاع پہنچی تو اسے اس فریب خور دگی (یعنی دھوکے میں آ جانے) کا بے حد رنج ہوا،

اور اُس نے قسم کھالی کہ جب تک میں زندہ ہوں انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مسلمہ اور اُن کی فوج کے لئے وہاں ٹھہرنا دُوبھر ہو گیا تھا، بھوک اور بد حالی میں جانوروں کو کھانے تک نوبت پہنچی، کوئی شخص اپنی سواری سے ادھر ادھر ہوتا تو لوگ اسے ذبح کر کے کھا جاتے، مگر سلیمان بار بار کی اپیل کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم تھا۔

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ اُن کی حالت سے پریشان تھے۔ چنانچہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور اس اَمْر کی گنجائش نظر نہ آئی کہ مسلمانوں کے معاملات ان کے سپرد ہوں اور وہ ان بے چاروں کے معاملہ میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی رَوا رکھیں۔ دوسرا حکم جو تحریر فرمایا وہ اُسامہ بن زید تنوخی کی برطرفی تھی، یہ مصر کے خراج کا تحصیلدار اور بڑا جابر و ظالم تھا، خلاف قانون لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتا، چوپاؤں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ میں گوشت کے ٹکڑے بھر کے بحری دَرندوں کے سامنے ڈال دیتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے حکم دیا کہ اُسے ہر علاقے کی جیل میں ایک سال رکھا جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے جائیں، صرف نماز کے وقت کھولا جائے اور پھر باندھ دیا جائے۔ تیسرا حکم یزید بن ابی مسلم کی افریقہ سے برطرفی کا تھا، یہ بڑا بے ڈھب حاکم تھا، بظاہر بڑے زُہد و عبادت کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر چھوٹے بڑے تمام شاہی فرامین کو نافذ کرنا ضروری سمجھتا تھا، خواہ وہ کتنے ہی ظالمانہ اور مخالفِ حق کیوں نہ ہوں۔ عین اس حالت میں جب کہ اس کے سامنے لوگوں کو سزائیں دی جاتیں وہ دُکّر

وتسبیح اور وظیفہ میں مشغول رہتا اور ساتھ کے ساتھ سزا کے بارے میں ہدایات بھی دیتا مثلاً یوں کہتا: ”اللہ اکبر اللہ اکبر! اے لڑکے! اس کو رسی سے ذرا ٹھیک سے باندھ“ وغیرہ۔ اس کی اسی بدترین حالت کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس کی معزولی کا حکم تحریر فرمایا۔ بہر حال یہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تینوں اُمور میں فوری فیصلہ ضروری سمجھا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۱)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

پہلے سائل کی مدد

پھر ایک شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے سامنے پہنچ کر کہنے لگا: ”یا امیر المؤمنین! میں شدید حاجت مند اور فاقوں کا مارا ہوا ہوں، اللہ عزَّ وَجَلَّ آپ سے میرے یوں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں پوچھے گا۔“ اتنا کہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے دُرِّ یَافِت فرمایا: تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اُس نے عرض کی: پانچ! میں، میری بیوی اور تین بچے۔ چُتَانِچُ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُس کے لئے دس دینار وظیفہ مقرر کر دیا اور ہاتھوں ہاتھ تین سو دینار بیٹ الممال سے اور 200 دینار اپنی جیبِ خاص سے بھی عطا فرمائے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۷۰ ملخصاً)

قَصْرِ خِلاَفَتِ مِیں قِیَامِ نَہِیں فرمایا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ سے پوچھا گیا: کیا آپ قَصْرِ خِلاَفَتِ مِیں قِیَامِ فرمائیں گے؟ تو فرمایا: نہیں! ابھی اس میں ابوالیوب (یعنی سلیمان بن عبدالملک) کے گھر والے ہیں، میرے لئے میرا خیمہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ قَصْرِ خِلاَفَتِ خالی ہونے تک حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ اپنے پہلے گھر میں ہی قِیَامِ پذیر رہے۔ (سیرت ابن جوزی ۶۲)

سابق خلیفہ کی مخصوص اشیاء بیٹھتے الممال میں جمع کروادیں

اُس دور میں یہ عام رواج تھا کہ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ملبوسات اور عطر وغیرہ میں سے جو چیزیں اُس کی استعمال شدہ ہوتیں وہ اس کے اہل و عیال کا حق سمجھی جاتیں اور نئے عطر اور لباس آنے والے خلیفہ کی نذر کر دیا جاتا۔ سلیمان بن عبدالملک کے انتقال کے بعد اس کے اہل خانہ نے سلیمان کی تیل اور خوشبو کی شیشیاں اور کپڑے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا: یہ چیزیں آپ کی ہیں اور وہ ہماری ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا ”یہ“ اور ”وہ“ کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے دستور بتایا مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ نے فرمایا: یہ ساری چیزیں نہ میری ہیں، نہ سلیمان کی اور نہ تمہاری، پھر آواز دی: مُزِ اِحْم! ان کو مسلمانوں کے بیٹھتے الممال میں پہنچاؤ۔ (سیرت ابن عبدالکلام ص ۳۴)

خوبرو کنیروں کی پیشکش

یہ صورت حال دیکھ کر سابق اُمراء و وزراء کو اپنی عیش و کوشیوں کی بقا کی فکر پڑ گئی، چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے: جو کچھ آج تم نے دیکھا ہے اس کے بعد ہمارے لئے عالیشان سوار یوں، خیموں، شامیانوں، زینت و آرائش اور فرش فروش کی توقع بے سود ہے، اب صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہیں کنیریں! یہ ان کی خدمت میں پیش کر کے دیکھو، ممکن ہے انہیں سے تمہاری مراد بر آئے، ورنہ تمہیں ان ”صاحب“ سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حسین و جمیل کنیروں کو لا کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں پیش کیا گیا مگر آپ ایک ایک سے دریافت کرتے: تم کون ہو؟ کس کی ہو؟ اور کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ ہر کنیر بتاتی کہ وہ اصل میں فلاں کی تھی اور اس طرح زبردستی پکڑ کر اسے یہاں لایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کے بارے میں حکم فرمایا کہ انہیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے، چنانچہ سواری دے کر انہیں ان کے اصل شہروں کی طرف واپس کر دیا گیا۔ جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قطع مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو ان کا حق دلائیں گے اور انصاف کا سلوک فرمائیں گے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۴)

اب تم سے دل چسپی نہیں رہی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے آزاد کردہ غلام سہل

بن صدقہ کا بیان ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت ملی تو گھر کے اندر سے رونے کی گھٹی گھٹی آوازیں سنی گئیں۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی کنیزوں سے فرمایا: مجھ پر ایسے کام کا بوجھ آن پڑا ہے جس نے تم سے میری دلچسپی ختم کر دی، اب تمہیں اختیار ہے کہ جسے آزادی کی خواہش ہو میں اُسے آزاد کر دیتا ہوں، اور جو میرے یہاں رہنا چاہے، خوب سوچ لے کہ اُسے اب مجھ سے کچھ نہ ملے گا۔“ اس لئے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نا اُمید ہو کر رو رہی ہیں۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۱ و سیرت ابن جوزی ص ۷۰)

اقتدار کے بار سے آشکبار

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا بیان ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مُصلے پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی، میں نے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: ”میری گردن پر امتِ سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، جب میں بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیالداروں، اَلْغَرَضُ تمام دنیا کے مُصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ باز پُرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے! بس یہ بھاری ذمہ داری اور فِکْر رُلا رہی ہے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۲۳۶)

اقتدار کے نشے میں مُست رہنے والے غور فرمائیں کہ فکرِ آخرت رکھنے والے حُکام دُنویٰ اقتدار کے مُعالے میں کس قدر فکر مند ہوتے ہیں، مگر یاد رہے کہ صرف حاکم سے ہی نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، چنانچہ

ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا

حُصُو رِپَاک، صاحبِ لُولاک، سِیَاحِ اَفْلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

(صحیح البخاری، کتاب الجمعة، الحدیث ۸۹۳، ج ۱، ص ۳۰۹)

نگرانوں اور ذمہ داران کے لئے فکر انگیز

فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(امیر اہل سنت مدظلہ العالی کے رسالے ”مردے کے صدے“ سے ماخوذ)

{1} مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ اِلَّا لَمْ

يَجِدَ رَاحَةَ الْجَنَّةِ یعنی جس شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی رعایا کا نگران بنایا پھر اس نے

ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔“

(بخاری، ج ۴، ص ۵۶، الحدیث ۱۵۰۷)

{2} {كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ يَعْنِي تَمَّ سَبْغُ نَمْرَانٍ هُوَ أَوْتَمُّ مَيْمِنٍ مِنْ هَرَّابٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ} ہر ایک سے اُس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۰۷)

{3} {إِيْمَا رَاعٍ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَغَشَّاهَا فَهُوَ فِي النَّارِ} یعنی جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔“ (مسند امام احمد بن حنبل ج ۷ ص ۲۸۲، الحدیث ۲۰۳۱)

{4} {الْبَيَاتِينَ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرِ قَطٍّ} یعنی انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک ساعت ایسی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش! دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔“ (مسند امام احمد بن حنبل ج ۹ ص ۵۱، الحدیث ۲۴۵۱۸)

{5} {مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوبًا حَتَّى يَفْكَهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ} یعنی جو شخص دس آدمیوں پر بھی نگران ہو قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔“

(اسنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۱۶۴، الحدیث ۲۰۲۱۵)

{6} {دَعَاءُ مِصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ} اللَّهُمَّ مَنْ

وَلِيٍّ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَفَرَّقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ لَعْنَةُ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا نگران ہے پس وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما اور اگر وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما۔“ (مسلم ص ۱۰۱۶، الحدیث ۱۸۲۸)

{7} مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَّرَهُمْ أَحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَّرَهُ لَعْنَةُ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے پس اگر وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا۔“

(ابوداؤد، ج ۳ ص ۱۸۹، الحدیث ۲۹۳۸)

{8} لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَسْ بِرَّحِمِ

نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔“ (بخاری، ج ۴ ص ۵۳۲، الحدیث ۷۶۷۳)

{9} إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةُ

بے شک تم عشقِ حاکمانی کی خواہش کرو گے لیکن قیامت کے دن وہ پشیمانی کا باعث ہوگی۔ اِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! کی قسم! میں اس امر (یعنی حاکمانی) پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتا جو اس کا سوال کرے یا

اس کی حرص رکھتا ہو۔ (بخاری، ج ۴ ص ۴۵۶، الحدیث ۷۱۳۸، ۷۱۳۹)

شیخ طریقت امیر اہل سنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں: ”نگران“ سے مراد صرف کسی مُلک یا شہر یا مذہبی و سماجی و سیاسی تنظیم کا ذمہ دار ہی نہیں۔ بلکہ عموماً ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے نگران ہوتا ہے، مثلاً مُرِ اِقْب (یعنی سپر وائزر) اپنے ماتحت مزدوروں کا، افسر اپنے کلرکوں کا، امیر قافلہ شُر کا قافلہ کا اور ذیلی مُشاوَرَت کا نگران اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان نگرانیوں سے فراغت مشکل ہے۔ پالفرض اگر کوئی تنظیمی ذمہ داری سے مُستعفی ہو بھی جائے تب بھی اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بال بچوں کا نگران ہے۔ اب وہ اگر چاہے کہ ان کی نگرانی سے گلو خلاصی ہو تو نہیں ہو سکتی کہ یہ تو اسے شادی سے پہلے سوچنا چاہئے تھا۔ بہر حال ہر نگران سخت امتحان سے دوچار ہے مگر ہاں جو انصاف کرے اُس کے دارے نیارے ہیں چنانچہ ارشادِ رحمت بُنیاد ہے، انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے ہیں۔ (نسائی، ص ۸۵۱، الحدیث ۵۳۸۹)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! مذکورہ بالا تحریر سے واضح ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، والدین اپنی اولاد کے، اُساتذہ اپنے شاگردوں کے، شوہر اپنی بیوی کا، علیٰ هذا القیاس۔ لہذا! ہمیں چاہئے کہ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا

کریں اور عدل و انصاف سے کام لے کر شریعت کے احکام کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔^۱

ہم نشینوں کے لئے شرائط

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے لوگوں سے فرمایا: جو شخص میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے اُسے پانچ باتوں کی پابندی کرنی ہوگی: (۱) عدل و انصاف کی جو صورتیں ہم سے اوجھل ہیں اُن کی طرف ہماری رہنمائی کرے (۲) حق و انصاف کے قیام میں ہماری مدد کرے (۳) جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتیں ان کی ضرورتیں ہمیں پہنچائے (۴) ہمارے پاس کسی کی غیبت نہ کرے (۵) ہماری اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے۔ جو شخص ان امور کا التزام نہیں کر سکتا اُسے ہماری صحبت و ہم نشینی کی اجازت نہیں۔ (سیرت ابن جوزی ۷۹)

حارسین (یعنی سیکورٹی گارڈز) سے بے نیازی

بجو امیہ کے سابق خلفاء کے پاس 300 دربان اور 300 سپاہی ذاتی حفاظت کے لئے رکھتے تھے، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ بنے تو آپ نے سپاہیوں اور دربانوں سے فرمایا: مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس قضا و قدر کے نگہبان موجود ہیں، اس کے باوجود

مدینہ

۱: احساس ذمہ داری کو سمجھنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 69 صفحات پر مشتمل کتاب ”احساس ذمہ داری“ کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔

اگر تم میں کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو اسے 10 دینار تنخواہ ملے گی اور اگر کوئی نہ رہنا چاہے یا یہ تنخواہ منظور نہ ہو تو وہ اپنے گھر چلا جائے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۰)

حاریس بنانے کے لئے نمازی کو چھٹا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے حاریس بن نکران (سیکوری انچارج) خالد بن ریان کو معزول کر دیا کیونکہ وہ سابق خلفاء کے کہنے پر خلاف شریعت سزائیں دیا کرتا تھا، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمرو بن مہاجر انصاری کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا: تم جانتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان سوائے اسلام کے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں نے تمہیں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے اور لوگوں سے چھپ کر نوافل پڑھتے دیکھا ہے، تم نماز بہت اچھی پڑھتے ہو، یہ تلواریس سنبھالو میں تمہیں اپنا حاریس (یعنی سیکوری گاڑ) مقرر کرتا ہوں۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۱۳۳ و سیرت ابن جوزی ص ۵۰)

شعراء کی دال نہ گلی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ سے پہلے کے خلفاء کی بزم میں سب سے زیادہ ہجوم شعراء کا ہوتا تھا، اسی بناء پر جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہوئے تو حسب معمول حَرَمِینِ طَبِیئِین اور عراق کے شعراء نے ان کے دربار کا رخ کیا اور بڑے بڑے شعراء مثلاً نُصِیب، جَریر، فَرَزْدَق، اَحْوص اور اَنْطَل وغیرہ آئے اور مہینوں قیام کیا لیکن یہاں تو مجلس ہی کا رنگ بدلا ہوا تھا، شعراء کی کوئی قدر دانی نہیں

کی جاتی تھی مگر قرآن و فقہاء اطراف سے بلائے جاتے تھے اور ان کو خواص میں داخل کیا جاتا تھا، مجبوراً بعض شعرا نے ایک فقیہ سے اعانت (یعنی مدد) طلب کی اور اپنی ناقدری کا اظہار ان اشعار میں کیا:

يَا أَيُّهَا الْقَارِي الْمُرْحِيُّ عَمَامَتَهُ هَذَا مَنَّاكَ إِنِّي قَدْ مَطَّيْتُ زَمَنِي

اے وہ قاری جس کا عمامہ لٹک رہا ہے یہ تیرا زمانہ ہے، میرا زمانہ گزر گیا

أَبْلَغُ خَلِيفَتَنَا إِن كُنْتَ لَأَقِيهَ إِنِّي لَدَى الْبَابِ كَالْمَصْفُودِ فَيَقْرَنِ

اگر ہمارے خلیفہ سے ملو تو اس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں دروازے پر بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں

(ابن جوزی ص ۱۹۶)

یہ شخص شعراء کو نہیں گدا گروں کو دیتا ہے

ایک روز اُس وقت کے مشہور شاعر جریر کو کسی طرح بارگاہِ خلافت میں اذنِ باریابی مل گیا۔ اُس نے ایک نظم پڑھی جس میں اہلِ مدینہ کے مصائب و آلام اور مشکلات کا ذکر تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان کے لیے غلہ اور نقد روپیہ بھیجنے کا حکم دیا اور جریر سے پوچھا: تم کس جماعت کے ہو، مہاجرین سے یا انصار سے یا اُن کے اَعزّٰو اقربا سے یا مجاہدین سے؟ اس نے کہا: میں اُن میں سے کسی سے نہیں ہوں۔ فرمایا: پھر مسلمانوں کے مال میں سے تمہارا کیا حق ہے؟ اس نے کہا: ”اگر آپ میرے حق کو نہ روکیں تو اللہ عَزَّوَجَدَّ نے اپنی کتاب میں میرا حق مقرر فرمایا ہے۔ میں ”ابنِ سبیل“ (مسافر) ہوں۔ دُور دراز سے سفر کر کے آپ کے

دروازے پر آ کر ٹھہرا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اچھا! تم میرے پاس آ ہی گئے ہو تو میں اپنی جیب سے تمہیں بیس درہم دیتا ہوں، اس حقیر رقم پر تم میری تعریف کرو یا مَدَّت؟ میری مَدْح کرو یا بَجُو (یعنی برائی)؟ بَجْریر نے اس رقم کو بھی غنیمت سمجھ کر لے لیا اور باہر آ گیا۔ دوسرے شعرا نے اسے بارگاہِ خلافت سے باہر نکلتے دیکھا تو بے تابی سے پوچھا: ”کیسا معاملہ رہا؟“ بَجْریر نے جواب دیا: ”اپنا راستہ ناپو، یہ شخص شعراء کو نہیں گدا گروں کو دیتا ہے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۷)

بہر حال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے خلفاء کی مجالس کا رنگ بالکل بدل دیا اور اپنی صحبت کے لیے صرف علماء و فقہاء کو منتخب کیا جس میں حضرت سیدنا میمون بن مہران، حضرت سیدنا رجا بن حیوۃ اور حضرت سیدنا ریاح بن عبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا شمار خواص میں تھا، انکے علاوہ بھی کئی علماء آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مَصَاحِبِین میں سے تھے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۰۸)

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ اُنْ پَر رَاحْمَتِ هُو اور ان كے صَدَقے ہمارى بے حساب

مَغْفِرَتِ هُو۔ اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

خليفة بننے کے بعد تین فقہاء کرام سے مَدَنی مشورہ

نُو دینی صاحبِ مَنْصَب و وَجَاهت کو قبولِ نصیحت سے عُمُو مًا باز رکھتی ہے لیکن

پَر وَر دگارِ عالم عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو ایک اثر

پذیرد عطا فرمایا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق خلافت ادا کرنے کے لئے علماء و مشائخ کی صحبت و نصیحت بہت کارآمد ثابت ہوگی، چنانچہ خلافت کا بارگراں اپنے کندھوں پر آنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے تین فقہائے کرام حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، حضرت سیدنا محمد بن کعب اور حضرت سیدنا رجا بن حیو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی خدمت میں عرض کی: ”مجھ پر یہ آزمائش آن پڑی ہے مجھے اپنے مشوروں سے نوازیئے۔“ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو نصیحت کی: اِنْ اَرَدْتَ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ فَصُمْ عَنِ الدُّنْيَا وَ لِيَكُنْ اِفْطَارُكَ مِنْهَا عَلٰى الْمَوْتِ یعنی اگر آپ اللہ عزوجل کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا سے روزہ رکھ لیجئے جسے موت ہی اظفار کروائے گی۔“ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اِنْ اَرَدْتَ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ فَلْيَكُنْ كَبِيْرَ الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَكَ اَبًا وَاَوْسَطَهُمْ عِنْدَكَ اَخًا وَاَصْغَرَهُمْ عِنْدَكَ وَاَكْرَمُ اَبَاكَ وَاَكْرَمُ اَخَاكَ وَتَحْنِنُ عَلٰى وَكِدِكَ یعنی اگر آپ عذاب الہی سے نجات چاہتے ہیں تو بڑی عمر کے مسلمانوں کو اپنے باپ کی جگہ، درمیانی عمر والوں کو بھائی کی جگہ اور چھوٹوں کو اولاد کی جگہ تصور کیجئے پھر اپنے والد کی توقیر، بھائیوں کا اکرام اور اولاد پر شفقت اختیار کیجئے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۶)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ
عَذَلْ كَسْ طَرَحْ كَرُوْ؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت محمد بن کعب

رحمة اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ”مجھے عدل و انصاف کے بارے میں بتائیے۔“ انہوں نے فرمایا: ”آپ چھوٹوں کے لئے باپ کی جگہ، بڑوں کے لئے بیٹے کی اور اپنے ہم عمروں کے لئے بھائی کی جگہ ہیں، لوگوں کو ان کی خطاؤں اور جسمانی طاقت کے مطابق سزا دیجئے، کسی کو اپنی ناراضی کی وجہ سے ایک بھی کوڑا نہ ماریئے کیونکہ اس وقت آپ ظالم ٹھہریں گے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۶)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! کیسی پیاری نصیحت ہے! اے کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ کسی مسلمان کو ہمارے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔

کامل مسلمان کون؟

سرکارِ مدینہ منورہ سردارِ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ** یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵ حدیث ۱۰)

نیک اور پرہیزگاروں کی صحبت

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید خلیفہ مقرر ہوئے تو مختلف لوگوں نے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی مگر آپ صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھتے، جب ایک پرانے دوست کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا: **تَرَکْنَاہُ کَمَا تَرَکْنَا الْخَزَّ وَالْمَوْشَىٰ** یعنی ہم نے اُسے

اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح ریشم اور نقش و نگار کو چھوڑ دیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۹۱)

مجھے خبردار کر دینا

حضرت سیدنا ابوحازم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ بنے تو فرمایا کہ میرے لئے دو نیک اور صالح مرد تلاش کرو۔ چنانچہ دو حضرات تشریف لے آئے تو ان سے التجا کی: آپ میرے ہر کام پر نگاہ رکھئے، جب مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو مجھے خبردار کر دیجئے گا اور رب تعالیٰ کی یاد دلا دیجئے گا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۳)

خود پر محاسب مقرر کیا

حضرت سیدنا عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھ سے فرمایا: اے عمر! جب تم مجھے راہِ حق سے ادھر ادھر ہوتے دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کر بھجور ڈالنا اور کہنا: مَاذَا تَصْنَعُ یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی اُن پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
 صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ
 زِیَادَہٗ مُعَاوِئِیْنِ نہ تھے

مختلف بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر

بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کی مثال اس ماہر کاریگر کی ہے جس کے پاس کاریگری کے آلات نہ ہوں مگر وہ بغیر اوزار کے نہایت عمدہ کام کرے۔ (یعنی ان کے پاس کام کو انجام دینے کے لئے زیادہ معاونین نہیں ہیں مگر پھر بھی اُن کی کارکردگیِ معالیٰ ہے) (حلیۃ الاولیاء، ج ۵، ص ۳۰۸ و سیرت ابن جوزی ۸۸)

مُعِين و مددگار

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے گھر کے تین افراد، آپ کے بھائی ”سہل“، صاحبزادے ”عبدالملک“ اور غلام ”مُزَاهِم“ اُمورِ خلافت میں آپ کے حُصُوصی مددگار تھے۔ یہ تینوں حضرات حق کے نفاذ میں آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ کے معاون تھے اور تائید و قوت کا سبب تھے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا: اللَّهُ تَعَالَى کا شکر ہے کہ اُس نے سہل، عبدالملک اور مُزَاهِم کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دی۔

(سیرت ابن عبدالعزیز ص ۴۵)

اہلِ حق کی قَدَر دانی

آپ کے ایک بہترین مُصَاحِب حضرت سیدنا عبیداللہ بن عبداللہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ تھے، جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے لیکن اُن کی محبت امیر المؤمنین کے دل میں جوش مارتی رہتی تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے: اگر حضرت سیدنا عبیداللہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ حیات ہوتے تو

میں ان سے رائے لئے بغیر کوئی سرکاری حکم جاری نہ کرتا، ایک مرتبہ فرمایا: ”کاش مجھے فلاں فلاں شے کے بدلے حضرت سیدنا عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مجلس نصیب ہو جائے۔“ (سیرت ابن جوزی، ص ۱۱۳) **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرِ رَحْمَتِ هُوَ اَوْر**
ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔

امین بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ عَلِي مُحَمَّد
نصیحت کرنے والے کا شکریہ ادا کیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے مسندِ خلافت سنبھالنے کے بعد ایک شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہا: آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے پر راضی رہئے اور اُس کے حکم کے سامنے جھکے رہئے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کی امید رکھئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ کی بھلائی اور مصائب کا بہترین عوض ہے، آپ کو جس چیز کا اندیشہ اپنے سے پہلے خلیفہ سلیمان کے بارے میں تھا اب اپنے بارے میں کیجئے۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اُسے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت فرمایا: تم نے مجھے یہ نصیحتیں کس لئے کیں؟ اس نے کہا: جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں! فرمایا: تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ شخص بولا: میں نے آپ کو مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاًو تعظیماً میں دیکھا ہے کہ آپ کی

چادر نیچے ڈھلکی اور زلفیں دراز ہوتی تھیں، آپ سے عطر کی خوشبو مہکا کرتی تھی، میں اُس وقت آپ کے انداز و اطوار دیکھ کر بہت حیران ہوتا اور سوچا کرتا تھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو زمین پر رہنے کی مہلت کیسے دے رہا ہے؟ اب جبکہ آپ اس مَنْصَب تک پہنچے تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ (سلیمان کی وفات کی) تعزیت بھی کروں اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ نے فرمایا: بھائی! اگر تم ہمارے پاس رہنا پسند کرو تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر جانا چاہو تو اجازت ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۲)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

معافی مانگی

خلافت سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادھا اللہ شَرَفًا وَ تَعْظِیْمًا میں کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، حضرت محمد بن کعب رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے دیکھا تو پُکار کر کہا: اے عمر! رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ کا فرمان عبرت نشان ہے: ”مَا جَاوَزَ الْكُعْبِیْنَ فَهُوَ فِی النَّارِ یعنی جو چادر ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوزخ میں جلے گی۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ نے غَضَبًا ک زگا ہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا: تم اپنی راہ لو۔ پھر جب آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خلیفہ بنے تو حضرت محمد بن کعب رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ جہاد کے

لئے تشریف لے گئے ہیں، آپ نے دُرُوب کے گورنر کو لکھا کہ اگر محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محاذ سے واپس آگئے ہوں تو انہیں زادِ سفر دے کر فوراً میرے پاس بھیج دیا جائے، ہاں! اگر وہ آنا پسند نہ فرمائیں تو زبردستی نہ کی جائے۔ جب حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محاذ سے واپس آئے تو گورنر نے ان سے امیر المؤمنین کے پاس جانے کی درخواست کی اور خط بھی دکھایا۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: زادِ راہ تو مجھے نہیں چاہئے، باقی رہا جانے کا مسئلہ! تو ان کا خط نہ بھی آتا تو مجھے جانا ہی تھا۔ جب محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کی حالت بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے پہلی بات یہ کہی: ابن کعب! جب مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں تم نے مجھے نصیحت کی تھی تو میں نے اُلٹ جواب دیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ کہنے کے بعد رونے لگے یہاں تک کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت متاثر ہوئے اور عادی: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقَالَكَ عَشْرَتِكَ یعنی امیر المؤمنین! اللہ عزوجل آپ کی بخشش فرمائے اور آپ کی لغزشیں معاف فرمائے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۰)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے دُنیا ہی میں معافی مانگنے میں کس قدر کوشش فرمائی،

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ہمیں بھی حقوق العباد کا خیال رکھنے اور جن جن کے حق سے تعلق ہو گئے ہوں اُن سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے اَسْوٰهُ حَسَنَہ کے ذریعے ہم غلاموں کو حقوق العباد کا خیال رکھنے کی جس حسین انداز میں تعلیم دی ہے اس کی ایک رِقت انگیز جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ پُچنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 64 صفحات پر مشتمل رسالے ”ظلم کا انجام“ کے صفحہ 22 پر ہے:

آقا صلی اللہ کی بے انتہا عاجزی

ہمارے جان سے بھی پیارے آقا مکئی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماعِ عام میں اعلان فرمایا: ”اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، ”اس دنیا میں بدلہ لے لے۔“ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا یہ میری شان نہیں۔ مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وُصول کر لے یا مجھے مُعاف کر دے۔ پھر فرمایا: اے لوگو! جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہئے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رُسوائی ہوگی اس لیے کہ دنیا کی رُسوائی آخرت کی رُسوائی سے بہت آسان ہے۔ (تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۳۸ ص ۲۳ سَمَلَخَصًا)

مُعافی مانگ لیجئے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! سب گھبرا کر اَللّٰهُمَّ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں رُجوع کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے اور ٹھہرئے! بندوں کی حق تلفی کے مُعاملے میں بارگاہِ الہی عزوجل میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں، بندوں کے جو جو حُقوقِ پامال کئے ہوں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے، مثلاً مالی حق ہے تو اُس کا مال لوٹانا ہوگا، دل دُکھایا ہے تو معاف کروانا ہوگا۔ آج تک جس جس کا مذاق اُڑایا، بُرے القاب سے پکارا، طعنہ زنی اور طنز بازی کی، دل آزار نقلیں اُتاریں، دل دُکھانے والے انداز میں آنکھیں دُکھائیں، گھورا، ڈرایا، گالی دی، غیبت کی اور اس کو پتا چل گیا۔ جھاڑا، مارا، ذلیل کیا، اَلْغَرَضُ کسی طرح بھی بے اجازتِ شرعی ایذا کا باعث بنے ان سب سے فرداً فرداً معاف کروالیجئے، اگر کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ کر باز رہے کہ مُعافی مانگنے سے اس کے سامنے میری ”پوزیشن ڈاؤن“ ہو جائے گی تو خُدارا غور فرمائیجئے! قیامت کے روز اگر یہی فرد آپ کی نیکیاں حاصل کر کے اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دیا اُس وقت کیا ہوگا! خدا کی قسم! صحیح معنوں میں آپ کی ”پوزیشن“ کی دھجیاں تو اُس وقت اڑیں گی اور آہ! کوئی دوست برادر یا عزیز ہمدردی کرنے والا بھی نہ ملے گا۔ جلدی کیجئے! جلدی کیجئے! اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے ماتحتوں کے پاؤں پکڑ کر اپنے اسلامی بھائیوں اور دوستوں سے گڑگڑا کر، ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں مُعافی مانگ کر آخرت کی عِزّت حاصل

کرنے کی سعی فرمالیجئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں: مَنْ تَوَاصَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ یعنی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کیلئے عاجزی کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ۶ ص ۲۹۷ حدیث ۸۲۲۹)

(ظلم کا انجام، ص ۵۰ تا ۵۲)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
مَنْصَبِ رِسَالَتٍ أَوْ مَنْصَبِ خِلَافَتٍ فِي فَرْقٍ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگو! رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہی کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب ہے، جو چیزیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زبان سے حلال ٹھہرا دیں وہ قیامت تک حلال رہیں گے اور جو حرام ٹھہرا دیں وہ قیامت تک حرام رہیں گی۔ خوب سمجھ لو! میں خود سے فیصلہ کرنے والا نہیں بلکہ اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فیصلوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر نافذ کرنے والا ہوں، میں کوئی نیا راستہ نہیں نکالوں گا بلکہ پہلوں کے راستے پر چلوں گا، سُنْ لَوْ! اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں، میں تم سے بہتر نہیں بلکہ تمہیں میں سے ایک فرد ہوں البتہ میری ذمہ داریاں تم سے زیادہ ہیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۶۹)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے ایک مرتبہ فرمایا: ”مُزَاحِم“ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مجھے ایک زبردست نصیحت کی تھی، ہو ایوں کہ میں نے ایک شخص کو قید کیا اور اس کی مقررہ سزا سے زیادہ مدت قید میں رکھنا چاہا تو مُزَاحِم نے مجھ سے اُس کی رہائی کی بات کی مگر میں نے کہا: میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کے بُزْم سے زیادہ سزا نہ دے لوں، تو مُزَاحِم نے کہا: ”میں آپ کو اُس رات سے ڈراتا ہوں جس کی صبح میں قیامت برپا ہوگی۔“ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اس نے یہ بات کہہ کر گویا میری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیئے۔“ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے حاضرین سے فرمایا: ذَکِّرُوا اَنْفُسَكُمْ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ فَاِنَّ الذِّكْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ یعنی اللّٰهُ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۶۶)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے عطا کردہ اس مَدَنی پھول پر عمل پیرا ہونے میں دونوں جہاں کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، سورۃ ال عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى
الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُعْلِقُونَ ﴿۱۰۴﴾ (پ ۴ سورۃ آل عمران: ۱۰۴) لوگ مراد کو پہنچے۔

بہترین آدمی کی خصوصیات

صاحبِ قرآنِ مُبین، جنابِ صادقِ و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ایک مرتبہ منبرِ اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟“ فرمایا: لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآنِ کریم کی تلاوت کرے، زیادہ مُتقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلہٴ رحمی (یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ) کرنے والا ہو۔

(مسند احمد، ج ۲۵، ص ۲۲۱، حدیث ۲۷۴۳۴)

عطا ہو ”نیکی کی دعوت“ کا خوب جذبہ کہ

دو دُھوم سنّتِ محبوب کی مچا یارت (وسائل بخشش ص ۹۷)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

سکیورٹی کے مسائل

چونکہ خوارج کے ناگہانی حملوں سے خلفاء کی زندگی غیر محفوظ ہو گئی تھی یہاں تک کہ خلفاء کی حفاظت کے لئے بہت سے حارسین رکھے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے بہت سے لوگوں نے کہا: آپ کھانا دیکھ بھال کر کھائیں، نماز پڑھیں تو ساتھ ساتھ پہرہ دار رکھیں کہ کوئی شخص حملہ نہ کر بیٹھے، طاعون میں جیسا کہ تمام خلفاء کا طریقہ تھا کہ باہر نکل جائیں۔ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ نے جواب دیا: بالآخر وہ بھی دُنیا سے چلے گئے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا: یا اَللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ اگر میں روزِ قیامت کے سو اور کسی دن سے ڈروں تو میرے خوف میں کمی نہ فرما۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۶)

آرام کا وقت نہ ملتا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اس قدر مصروف رہتے کہ کبھی کبھار تو آرام کے لئے بالکل وقت نہ ملتا۔ ایک دن ظہر کی نماز سے قبل بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو کچھ دیر قینولہ (یعنی آرام) کرنے کے لئے کمرے میں تشریف لے گئے۔ ابھی آپ لیٹے ہی تھے کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْخَالِقِ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے: ”یا امیر المؤمنین! آپ یہاں کیسے تشریف فرما ہیں؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”مجھے مسلسل بے آرامی کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، اس لئے کچھ دیر کے لئے آرام کی عرض سے آیا ہوں۔“ صاحبزادے نے عرض کی: ”حضور! لوگ آپ کے منتظر ہیں، مظلوم اپنی فریادیں لے کر حاضر ہیں اور آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”میں ساری رات نہیں سو سکا اب تھوڑی دیر آرام کر کے ظہر کے بعد لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔“ شہزادے نے بڑے ادب سے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنے نختِ جگر کا فکر آخرت سے

بھر پور یہ جملہ سنا تو شہزادے کو قریب بلایا، اُن کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے:

”تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی جو دین کے معاملہ میں میری مدد کرتی ہے۔“ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام کئے بغیر فوراً باہر تشریف لائے اور اعلان کروادیا کہ جس کا کسی پر کوئی حق ہے یا جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ آجائے میں اُسے اُس کا حق دلواؤں گا اور اس کے مسائل حل کروں گا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۶۷ ملخصاً)

اپنے غصے پر قابو پائیے

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمُ کسی بات پر سخت برہم ہوئے، آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبدالملک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَالِقِ بھی وہاں موجود تھے۔ جب امیر المؤمنین کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو عرض کی: آپ اس قدر غصہ ہوتے ہیں؟ فرمایا: تو کیا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ عرض کی: اگر میں غصہ کونہ پی سکوں تو میری توند سے کیا فائدہ!“ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۹۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رَحْمَتُہُمْ اللّٰهُ الْمُبِیْن کا ظُرف کتنا وسیع ہوتا تھا کہ اپنے سے چھوٹے کی بھی اصلاح قبول کر لیا کرتے تھے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ اگر کوئی کم عمر یا کم مرتبہ ہمیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے تو بُرا مان جاتے ہیں بلکہ اسے ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ اپنا سامنہ لے کر رہ جاتا ہے مثلاً جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اس شعبے میں آئے ہوئے، مجھے

سمجھاتے ہو؟ یہ منہ اور مسور کی دال، تم مجھے سمجھانے آئے ہو؟ بلکہ آج کل اگر کسی کی اصلاح کی کوئی بات کی جائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے ”میاں! تم اپنی کرو“ ایسا جواب نہایت ہی مذموم ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو بطور نصیحت کہے کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈر، تو بُرائی کرنے والا اس کا جواب دے ”تو اپنے آپ کو سنبھال“۔ (تَنْبِيْهُ الْمَغْتَرِبِيْنَ ص ۲۳۷)

ناصح! مت کر نصیحت دل مرا گھبرائے ہے

اُس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

حق داروں کو ان کا حق دلایا

خلفائے بنو امیہ کے دور میں رعایا کے مال و جائیداد پر بڑے پیمانے پر ظالمانہ قبضے ہو چکے تھے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بارِ خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت سیدنا میمون بن مہران، مکحول اور ابوقلاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جیسی بزرگزیدہ ہستیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشاروں و کنایوں میں اپنی رائے دی جسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے قبول نہیں کیا اور حضرت میمون بن مہران علیہ رحمۃ الحنان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ فرمانے لگے: اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بھی

طلب فرمائیجئے، وہ عققل و فہم میں ہم لوگوں سے کم نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الملک علیہ رحمۃ اللہ نے بلانے پر آئے تو ان سے پوچھا کہ لوگ اموالِ مَغْضُوبَہ (یعنی قبضہ کئے گئے مالوں) کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ عَزَّوَجَلَّ: اُن کے مال فوراً واپس کر دیجئے ورنہ آپ بھی غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کے مددگار و شریک کار ہوں گے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۲۶)

اموال و جائیدادیں واپس کرنے کا اعلان عام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اعلان عام کروا دیا کہ جن لوگوں کے مال و جائیداد پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے وہ اپنی شکایتیں پیش کریں۔ اسی طرح جو بھی اموال و جائیداد اور زمین وغیرہ شاہی خاندان کے پاس ناحق موجود تھی وہ سب کی سب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حق داروں کو واپس کرا دی اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس معاملے میں بڑے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا اور شاہی خاندان کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جس پر کسی دوسرے کا حق ثابت ہو رہا ہو۔

اولاد کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حوالے کرتا ہوں

یہ کام بہت خطرناک اور ناؤک تھا، خود آپ کے پاس بڑی موروٹی جاگیر تھی جس کا بہت بڑا حصہ آپ نے اس کے حق داروں کو لوٹا دیا اور اپنے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی جس پر کسی اور کا حق بنتا ہو۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر

آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فرمایا: **أَوْ كَلَّهُمُ إِلَيَّ اللَّهُ** یعنی میں ان کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کرتا ہوں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۳۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! کیسی مدنی سوچ تھی حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ كِي كِه اولاد كِي كِفَالْتِ پْر آخْرْت كُو تَرْجِيحِ دِي، جبكِه ہم ميں سِه ہر دوسرے شخْص كُو يِه فِكْر كھار يِه ہوتِي ہِے كِه ميرے دُنْيَا سِه جانے كِه بَعْدِ اولاد كا كِيَا بنے گا، كاش! ہم يِه بھي سوچتے كِه ہمارے مرنے كِه بَعْدِ ہمارا كِيَا بنے گا؟ يَا يِه سوچتے كِه اولاد كِه مرنے كِه بَعْدِ اُن كا كِيَا بنے گا؟ اے كاش! ہمارا يِه مَدَنِي ذِهْنِ بن جانے كِه جَوْرَزَّاقِ عَزَّوَجَلَّ، ہم ميں رِزْقِ دے رِہا ہِے وِہي ہماري اولاد كُو بھي رِزْقِ دِينِے والا ہِے تو ہم مال كمانے و جَانِيْدِا دِ بِنَانِے كِه نَا جَانَزَّ ذِرَالِغِ اِخْتِيَارِ كِر كِه جَهَنْمِ كا اِنْدِھن كِيوں بنیں؟ پھر اس بات كِي كِيَا ضَمَانْتِ ہِے كِه ہمارا اچھوڑا ہوا مال بچوں كِه يِه كام آئے گا؟ اس سلسلے ميں ذيل كِي حَدِيْثِ پاكِ پَر غور و فِكْر كِيجئے، چُٹانچے

بھروسے كا اِنعام

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سِرِّ وَرِ كُو نِینِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا، **”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِپْنِے اِن دُو بِنْدُوں كُو دُو بارہ زَنْدِگِي عَطَا فرمائے گا جنھیں اس نے دُنْيَا ميں كِشِرِ مال اور اولاد سِه نُو اَزَا تھَا، پھر ايك سِه اِرْشاد فرمائے گا: ”اے فُلاں بن فُلاں!“ وہ عَرَضِ كِرے گا: ”لَبِيْكَ يَا رَبُّ!“ اللہ**

عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”کیا میں نے تجھے مال اور کثیر اولاد عطا نہ فرمائی تھی؟“ وہ عرض کرے گا: ”کیوں نہیں! اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”تُو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟“ وہ عرض کرے گا: ”میں نے اُسے محتاجی کے خوف سے اپنے بچوں کے لئے رکھ چھوڑا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستاکم اور روتا زیادہ، کیونکہ جس چیز کا تجھے اپنے بچوں پر خوف تھا میں نے انہیں اُسی میں مبتلا کر دیا۔“ پھر دوسرے بندے سے فرمائے گا: ”اے فلاں بن فلاں!“ وہ عرض کرے گا: ”لَبَّيْكَ يَا رَبَّ عَزَّوَجَلَّ!“ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”کیا میں نے تجھے کثرت سے مال اور اولاد عطا نہیں فرمائی تھی؟“ وہ عرض کرے گا: ”یا رب عَزَّوَجَلَّ! کیوں نہیں۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”تُو نے میرے عطا کردہ مال کے ساتھ کیا کیا؟“ وہ عرض کرے گا: ”یا رب عَزَّوَجَلَّ! میں نے اسے تیری طاعت (یعنی عبادت) میں خرچ کیا اور موت کے بعد اپنے بچوں کے لئے تیری عطا پر بھروسہ کیا۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: ”اگر تو حقیقت جان لیتا تو روتا کم اور ہنستا زیادہ، تو نے جو بھروسہ کیا تھا میں نے تیری اولاد کے ساتھ

وہی معاملہ کیا۔“ (المعجم الاوسط، باب العين، رقم ۴۳۸۳، ج ۳، ص ۲۱۷)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

انگوٹھی کا نگینہ بھی واپس کر دیا

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے زمیں اور

جائیدادیں اُن کے حقداروں کو واپس کرنا شروع کیں تو فرمایا: مجھے اپنے آپ سے

ابتداء کرنی چاہئے۔ پھر اپنی ساری زمینوں اور مال و دولت پر غور کرنا شروع کیا، جو بھی چیز مُشْتَبَہ دکھائی دیتی واپس کرتے چلے جاتے یا بیٹ المال کے حوالے کر دیتے، اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کے نگینے کی طرف گئی تو فرمایا:

”یہ مجھے ولید نے دیا تھا۔“ اور اس کو بھی بیٹ المال میں جمع کروادیا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۳۲)

خیبر کی جاگیر

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید نے اپنی تمام جاگیروں کی دستاویزات چاک کر دی تھیں، البتہ ”خیبر“ اور ”سُوَیْدَاء“ کی دو جاگیریں ابھی باقی تھیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خیبر کی جاگیر کے بارے میں تحقیقات کی کہ میرے والد کو یہ کیسے ملی؟ انہیں بتایا گیا کہ دراصل فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے یہ اراضی اپنی ضروریات کے لیے مخصوص فرمائی تھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس کو مسلمانوں کے لئے ”فے“ بنا کر چھوڑ گئے، ہوتی ہوتی یہ مَرِوان کے پاس پہنچی، مَرِوان نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کو عطا کی اور اُن سے آپ کو ملی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید نے اس کی دستاویز بھی چاک کر ڈالی اور فرمایا: میں اس کو اُسی حالت میں چھوڑتا ہوں جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے (یعنی مالِ فے کے طور پر)۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۳۰)

اپنی دولت راہِ خدا میں خرچ کر دی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پاس کوئی ایسی زمین نہیں رہنے دی جس پر کسی کا مطالبہ بنتا ہو، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زمینیں، غلام، کنیریں، لباس، عطر اور دیگر سامان بیچ ڈالا، جس کی قیمت 23 ہزار دینار ملی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ساری رقم راہِ خدا عَزَّوَجَلَّ میں خرچ کر دی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۴)

خلیفہ کا یومیہ وظیفہ

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گھریلو اخراجات کے لئے دو روزہم روزانہ وظیفہ ملا کرتا تھا چاہے غلہ سستا ہو یا مہنگا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۴)

اپنے کھانے کی رقم سرکاری مَطَّح (یعنی باورچی خانے) میں جمع کرواتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا مگر آپ یونہی بیٹھے رہے، چنانچہ وہاں پر موجود لوگوں نے بھی نہ کھایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ عرض کی: اس لئے کہ آپ نہیں کھا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذاتی رقم سے دو روزہم منگوائے اور کھانے کی قیمت سرکاری مَطَّح (یعنی باورچی خانے) میں جمع کروائی اور کھانا شروع کیا، اب حاضرین نے بھی کھانا کھالیا۔ اس کے بعد سے آپ روزانہ دو روزہم اپنے کھانے کے جمع کرواتے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۱)

بیٹ المال سے کبھی ناحق مال نہیں لیا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مرتے دم تک کبھی بیٹ المال سے ناحق کوئی شے نہیں لی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۶)

گورنروں کی بیش قیمت تنخواہ اور حضرت عمر کی تنگ دستی

حضرت ابن زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔“ فرمایا: ”کہئے۔“ عرض کی: ”میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے ایک ایک گورنر کو دو یا تین سو دینار بلکہ اس سے بھی زائد تنخواہ دیتے ہیں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت کی: ”میرا مقصد یہ ہے کہ انہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے میں آسانی رہے اور وہ فکرِ معاش سے آزاد ہو کر کام کریں۔“ عرض کی: ”امیر المؤمنین! پھر تو آپ اس کے بدرجہ اولیٰ المستحق ہیں کیونکہ آپ ان سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں، آپ بھی ان کے برابر وظیفہ لیجئے تاکہ آپ کے گھر والے بھی معاشی طور پر خوشحال ہو سکیں۔“ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم نے یہ مشورہ یقیناً میری خیر خواہی میں دیا ہے۔“ پھر پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”اس کی پرورش سرکاری مال سے ہوئی ہے، جو کھا چکا وہی کافی ہے، اب میں دوبارہ کبھی سرکاری مال سے اس کی ضیافت نہیں کروں گا۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۲)

ذاتی منافع بھی بیٹے المال میں جمع کروادیا

ایک بار گھر میں ضروریاتِ معاش کے لیے کچھ نہ تھا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے غلام مزارم سخت پریشان ہوئے کہ کیا انتظام کیا جائے؟ مجبوراً ایک شخص سے پانچ دینار قرض لئے۔ جب یمن کی جائیداد کا منافع آیا تو وہ نہایت خوش ہوئے کہ اب قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر گھر میں گئے مگر تھوڑی ہی دیر بعد حیرانی کی حالت میں سر پر ہاتھ رکھے باہر نکلے اور کہنے لگے: اللہ عزوجل امیر المؤمنین کو اجر دے، اللہ عزوجل امیر المؤمنین کو اجر دے، جنہوں نے اپنی ذاتی رقم بھی بیٹے المال میں جمع کروادی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۴)

اللہ عزوجل کسی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو

امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

آمدنی کم ہوگئی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے صاحبزادے حضرت عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر سے دریافت کیا گیا: ”آپ کے والد کی آمدنی کتنی تھی؟“ انہوں نے جواب دیا: ”خلافت سے قبل چالیس ہزار دینار تھی لیکن انتقال کے وقت ”400 دینار“ رہ گئی تھی اور اگر کچھ دن مزید زندہ رہتے تو شاید اس سے بھی کم ہو جاتی۔“ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۸۷)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد

العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلافت کے اعلیٰ ترین مناصب پر پہنچے تو ان کی آمدنی پہلے سے کم ہو گئی مگر آج مناصب و عہدے کو اپنی آمدنی بڑھانے کا آسان ذریعہ تصور کیا جاتا ہے اور عذاباتِ آخرت کو بھول کر زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے عجیب و غریب طریقے اپنائے جاتے ہیں حالانکہ ادھر انسان کی آنکھیں بند ہوں گیں ادھر مال کا ساتھ ختم! کتنی پریشان کن بات ہے کہ انسان دنیا سے پھوٹی گوڑی تک بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتا مگر حساب اُسے سارے مال کا دینا پڑے گا حالانکہ وہ مال اس کے وارث استعمال کرتے ہیں، کسی بزرگ کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ اس نے بہت مال جمع کر لیا ہے تو انہوں نے دریافت فرمایا: کیا اس کو خرچ کرنے کے لئے ایام بھی جمع کر لئے ہیں؟“ (منہاج القاصدین) یقیناً یہ بے وفادانہ پہلے کسی کی ہوئی نہ اب ہو گی، اس دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے ہم کتنا ہی دوڑیں یہ پیٹ بھرنے والا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”اگر انسان کو سونے کی دوادیاں مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔“ (بخاری، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۲۲۹، رقم: ۶۳۳۶) اکثر لوگ اپنا وقت اور صلاحیتیں محض دنیا کمانے میں صرف کرتے ہیں حالانکہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ محنت سے جوڑنا، مشقت سے سنبھالنا اور خسران سے چھوڑنا۔

پیچھے کیا چھوڑا؟

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: ”جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: مَا قَدَّمَ یعنی اس نے آگے کیا بھیجا؟ اور لوگ پوچھتے ہیں: مَا خَلَّفَ یعنی اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟“

(شعب الایمان، الحدیث ۱۰۲۷۵، ج ۷، ص ۳۲۸)

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: ”یعنی مرتے وقت اُس کے وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہا ہے؟ اور جو ملائکہ (یعنی فرشتے) اس کی قبضِ رُوح وغیرہ کے لیے آتے ہیں وہ اُس کے اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں۔“ (مرآة المناجیح، ج ۷، ص ۴۸)

نہ دے جاہ و شمت نہ دولت کی کثرت

گدائے مدینہ بنا یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۰)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مال قبول نہ فرماتے

عمر بن اسد کہتے ہیں کہ لوگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس بہت سا مال لے کر آتے مگر آپ لینے سے انکار فرمادیتے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عام لوگوں سے بے نیاز تھے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۸)

زمین سے ملنے والا نفع راہِ خدا میں خرچ کر دیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القَدِیر نے ایک مرتبہ فرمایا:

”میں نے ہر چیز مسلمانوں کے بیٹ المال میں داخل کر دی ہے، البتہ ”چشمہ سُویدا“ میرا اپنا ہے، وہاں میری کچھ چٹنیکل (یعنی ویران و بے آباد) زمین تھی جس کی ایک بالشت میں بھی کسی مسلمان کا حق نہیں تھا، پھر جو وظیفہ مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے اس رقم سے میں نے وہ زمین کاشت کرائی ہے۔“ جب اس زمین کا غلہ آیا جس کی مالیت 200 دینار اور ایک بوری ”صیہانی“ اور ”عجوه“ کھجور تھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: لاؤ! یہ عجوه کھجور ان حضرات (یعنی حاضرین مجلس) کے سامنے پیش کرو، یہ بڑی فزحت افزا اور صحت بخش ہے۔“ جب گھر کی عورتوں نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مال آیا ہے تو انہوں نے ایک کم سن صاحبزادے کو بھیجا کہ اُسے اس مال میں سے کچھ عنایت فرمایا جائے۔ مدنی مٹا آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

”اسے مٹھی بھر کھجوریں دے دو۔“ کھجوریں لے کر بچہ تو خوشی خوشی چلا گیا، مگر جب عورتوں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اُس کے ہاتھ میں صرف کھجوریں ہیں تو اس سے کہا: ”جاؤ! یہ کھجوریں اُنہی کے سامنے ڈال دو۔“ مدنی مٹا آیا اور کھجوریں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ڈال دیں اور دیناروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القَدِیر نے ولید بن ہشام سے فرمایا: ولید! اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ ولید نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے طویل دُعا

کی، جس میں یہ بھی تھا: ”اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ بَعْضُ إِلَى هَذَا الْغُلَامِ هَذَا الدَّهَبَ كَمَا حَبَّبْتَهَا إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَعْنِي يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! اے آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے! اے غیب اور ظاہر کو جاننے والے مولیٰ عَزَّ وَجَلَّ! یہ مال اس بچے کے لیے اُسی طرح مَبْغُوض (یعنی ناپسند) بنا دے جس طرح فلاں شخص کے لئے اس کو محبوب بنایا ہے۔“ دُعا سے فارغ ہو کر فرمایا: ”ولید! اب اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔“ مدنی مئے کا ہاتھ کا پٹنے لگا اور اس نے ایک دینار کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کی: ”امیر المؤمنین! لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگئی۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے فرمایا: ان دو سو دینار کی زکوٰۃ نکالو۔ جو شخص یہ مال لے کر آیا تھا اس نے عرض کی: امیر المؤمنین! اس باغ کا عشر ادا کیا جا چکا ہے۔ مگر آپ نے زکوٰۃ الگ کرنے پر اصرار فرمایا تو زکوٰۃ کے پانچ دینار الگ کر دیئے گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”کوئی ایسا شخص بتاؤ جو آنکھوں سے معذور ہو اور اُس کے پاس کہیں آنے جانے کے لئے کوئی خادم بھی نہ ہو۔“ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے خود ہی فرمایا: ”ہاں! مجھے یاد آیا، وہ فلاں بوڑھا جو آنکھوں سے معذور ہے، وہ بے چارہ برسات کی اندھیری رات میں ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے پاس کوئی خادم نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں وہاں لے جائے، اس رقم سے ایک خادم کی قیمت نکال لو، خادم درمیانی عمر کا ہو، اتنا بڑا نہ ہو کہ اسے ڈانٹا

کرے نہ اتنا کم عمر ہو کہ بوڑھے کی خدمت سے عاجز ہو۔‘ چنانچہ اس رقم سے پینتیس (35) دینار اُس کے لئے نکال لئے گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے اس شخص کو بلایا جو آپ کے گھریلو اخراجات کا مٹو لگی (یعنی دیکھ بھال کرنے والا) تھا۔ اس سے فرمایا: یہ بقیہ دینار لے لو اور میرا وظیفہ ملنے تک ہمارے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۱)

کیا بات ہے اِیثار کی!

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی ضروریات و سہولیات پر ایک نابینا مسلمان کی ضرورت کو ترجیح دی اور اس کی خدمت کے لئے غلام خرید کر مہیا کر دیا، ہمیں بھی چاہئے کہ وقتاً فوقتاً اِیثار کرنے کی سعی کرتے رہا کریں، سلطانِ دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ بخشش نشان ہے: اَیْمَا اِمْرِئٍ اِشْتَهَى شَهْوَتَهُ فَرَدَّ وَاَثَرَ عَلٰی نَفْسِهِ غُفْرًا لِّہ یعنی جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر (دوسروں کو) اپنے اوپر ترجیح دے، تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے بخش دیتا ہے۔ (اتحاف السادة السعیدین ج ۹ ص ۷۷۹)

اِیثار کی مَدَنی بہار

ایک اسلامی بہن کے ساتھ پیش آنے والی ایک مَدَنی بہار مختصر اعراضِ خدمت ہے: بمبئی کے ایک علاقے میں تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک،

دعوتِ اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع (پیر شریف ۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۸ھ بمطابق 12.3.2007) کے اختتام پر ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے پاس کسی نئی اسلامی بہن نے اپنی چٹیل کی گمشدگی کی شکایت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اُسے اپنی چٹیل کی پیش کش کی وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تقریباً سات ماہ ہوئے تھے اُس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ ”کیا دعوتِ اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی!“ باصرار اپنی چٹیلیں پیش کر کے اُس نئی اسلامی بہن کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پابز ہنہ (یعنی ننگے پاؤں) گھر چلی گئی۔ رات جب سوئی تو اُس کی قسمت انگریزی لیکر جاگ اُٹھی! کیا دیکھتی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہیں نیز ایک مُعَمَّر (م. عَم. مَر) مبلغِ دعوتِ اسلامی سر پر سبز سبز عمامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں۔ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے کہنے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: چٹیل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ”کیا دعوتِ اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی!“ ہمیں بہت پسند آئے۔ (علاوہ ازیں بھی حوصلہ افزائی فرمائی) (ماخوذ از ہذا سر اسرار بھکاری، ص ۲۸)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّد

30 ہزار درہم بیٹ المال میں جمع کروادیئے

ایک مرتبہ بحرین سے 30 ہزار درہم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں اخراجات کے لئے بھیجے گئے، جب آپ کو اطلاع ہوئی تو اپنے خادم خاص مُراجم سے فرمایا: اس مال کو بیٹ المال میں جمع کروادو۔

(تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۲۲۱ ملخصاً)

خلیفہ کی اہلیہ کے زیورات

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے فرمایا: ”تمہیں اپنے ان زیورات کا حال معلوم ہے کہ تمہارے والد نے یہ کس طرح حاصل کئے اور پھر کس طرح تمہیں دیئے؟ اگر تم اجازت دو تو میں انہیں ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر بیٹ المال کے آخری گوشے میں رکھ دوں، اگر اس سے پہلے بیٹ المال کا سارا مال خُرُج ہو جائے تو اسے بھی خُرُج کر ڈالوں گا اور اگر اسے خُرُج کرنے سے پہلے ہی میرا انتقال ہو جائے تو تمہیں یہ مل ہی جائیں گے۔“ (یعنی بعد کا خلیفہ تمہیں واپس کر ہی دے گا۔) زوجہ نے سعادت مندی سے کہا: ”جیسی آپ کی رائے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔“ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیورات بیٹ المال میں رکھوا دیئے، یہ زیورات ابھی بیٹ المال ہی میں موجود تھے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا وصال ہو گیا بعد میں حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک

رحمة اللہ تعالیٰ علیہا کے بھائی یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوئے تو یہ زیورات انہیں واپس کرنا چاہے مگر انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی زندگی میں زیورات سے دستبردار ہو جاؤں اور انکی وفات کے بعد واپس لے لوں۔“
چنانچہ خلیفہ نے یہ زیورات گھر کی دوسری عورتوں میں تقسیم کر دیئے۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۳)

اس حکایت میں شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لئے دس عظیم بھی پوشیدہ ہے کہ ناز و نعم سے پلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے شوہر کے حکم پر آئیں بائیں شائیں کئے بغیر اپنے زیورات بیٹ المال میں جمع کروائیئے اور پھر واپس کرنے پر بھی دوبارہ قبول نہیں کئے۔

سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دو

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہے: اگر شوہر اپنی عورت کو یہ

حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجالانا چاہئے۔ (مسند امام احمد ج ۹ ص ۳۵۳ حدیث ۲۴۵۲۵)

مفسرِ شہیرِ حکیمِ الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الختان اس

حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: یہ فرمانِ مبارک مُبَالَغَةِ کے طور پر ہے، سیاہ و سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے بلکہ دُور دُور ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر خاوند

(شریعت کے دائرے میں رہ کر) مشکل سے مشکل کام کا بھی حَلْم دے تب بھی بیوی اُسے کرے، کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے۔
(مراۃ ج ۵ ص ۱۰۶)

عورت پر شوہر کا حق

شوہر کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”عورت پر مرد کا حق خاص اُمورِ مُتَعَلِّقَہ زَوْجِیَّت میں اَللّٰهُ رَسُوْلٌ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد تمام حُقُوْقِ حَتّٰی کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے ان اُمور میں اس کے احکام کی اطاعت اور اُس کے ناموس کی نگہداشت (یعنی اس کی حفاظت) عورت پر فرض اَہْم ہے۔ نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں: اگر میں کسی کو غیر خدا کے سجدہ کا حَلْم دیتا تو عورت کو حَلْم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۴ ص ۳۸۰)

(ماخوذ از پردے کے بارے میں سوال جواب ص ۱۱۶)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد
گھر والوں کے خُرچ میں کمی

امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْعَزِیْز نے اپنے اہل و عیال کے خُرچ میں کمی کی تو انہوں نے آپ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے تنگی کی شکایت کی، آپ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا:

میرے پاس اس قدر مال نہیں ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ دے سکوں، اب رہا بیٹے المال تو اس پر تمہارا اُتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۰)

اہلیہ کا وظیفہ

حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے اپنے لئے الگ سے سرکاری وظیفہ مقرر کرنے کی درخواست کی تو فرمایا: نہیں! تمہارے لئے میرا ذاتی مال ہی کافی ہے۔ عرض کی: تو پھر آپ پہلے خلفاء سے خود وظیفہ کیوں لیتے تھے؟ فرمایا: وہ مجھے بغیر محنت کے ملنے والا انعام تھا اور اس کا وبال دینے والوں پر ہے، اب جبکہ میں خود خلیفہ ہوں تو یہ کام نہیں کروں گا کہ کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۸۷)

اُن کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت تباہ نہیں کروں گا

ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ان کے گھر والوں کی معاشی حالت کے حوالے سے گفتگو کی تو فرمایا: میں نے انہیں مالِ غنیمت سے دوسروں کی طرح اُن کو بھی حصہ دیا ہے۔ عرض کی گئی: اتنی سی رقم میں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ کپڑے کہاں سے خریدیں گے، گھر آئے مہمانوں کی میزبانی کیونکر کر سکیں گے؟ تو اِرشاد فرمایا: میں اُن کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۸۲)

احمق کون؟

حضرت سیدنا میمون بن مہر ان علیہ رحمۃُ الحنان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃُ اللہ العزیز نے اپنے رفقاء سے پوچھا: اَخْبِرُونِي مَنْ اَحْمَقُ النَّاسِ یعنی یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے زیادہ احمق کون ہے؟ کہنے لگے: رَجُلٌ بَاءَ اٰخِرَتِهِ بُدْنِيَاهُ یعنی وہ شخص جس نے اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ دی۔ فرمایا: اَلَا اَنْبِئُكُمْ بِاَحْمَقٍ مِنْهُ یعنی کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بڑھ کر احمق ہے! عرض کی: بلی یعنی کیوں نہیں۔ فرمایا: رَجُلٌ بَاءَ اٰخِرَتِهِ بُدْنِيَا غَيْرِهِ یعنی وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالی۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۷۶)

بُر اسودا

دافع رنج و ملال، صاحب جو دوؤ ال صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ”اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بُدْنِيَا غَيْرِهِ یعنی لوگوں میں سب سے بُرا اور بدتر ٹھکانا اس شخص کا ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔“ (العجم الکبیر ج ۸ ص ۱۲۳، الحدیث ۷۵۵۹)

اپنے گھر والوں کو حرام کما کر کھلانے والوں کو سنبھل جانا چاہئے کہ میدانِ محشر میں کہ جہاں ایک ایک نیکی کی سخت حاجت ہوگی، یہی ”اپنے“ اس سے کیا سلوک کریں گے؟ چنانچہ

قیامت کے دن اہل و عیال کا دعویٰ

مَرْوِی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، مگر یہ سب (یعنی بیوی، بچے قیامت میں) اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: ”اے ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ! ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی اُمور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔“ چنانچہ اس سے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ ”بندے کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس سے اس کے عیال کی خبر گیری اور خدمت کے بارے میں سوال ہوگا اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا؟ اور کہاں خرچ کیا؟ حتیٰ کہ اُس کے تمام اعمال اُن مطالبات میں خرچ ہو جائیں گے اور اس کے لئے کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اس وقت فرشتے آواز دیں گے: ”یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے اہل و عیال لے گئے اور وہ اپنے اعمال کے ساتھ مَرْوِی ہے۔“

(قوت القلوب، باب ذکر التزویج الخ، ج ۲ ص ۴۷۸، ۴۷۹)

ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں ملے گناہوں کے امراض سے شفا یارب

رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم کریں نہ رُخ مرے پاؤں گناہ کا یارب

(وسائلِ بخشش، ص ۹۶)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بچوں کی امی پر انفرادی کوشش

ایک دن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی زوجہ محترمہ نے ان سے عرض کی: مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا: ”تو سنئے! جب میں نے دیکھا کہ اس اُمت کے ہر سرخ و سفید کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے تو مجھے فوراً دُور دراز کے شہروں اور زمین کے اطراف و اکناف میں رہنے والے بھوک کے مارے ہوئے فقیروں، بے سہارا مسافروں، ستم رسیدہ لوگوں اور اس قسم کے دوسرے افراد کا خیال آیا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ سے میری رعایا کے بارے میں بازپرس فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان تمام لوگوں کے حق میں میرے خلاف بیان دینگے۔ یہ سوچ کر میرے دل پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں میرا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا اور میں اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے کھُور کسی قسم کی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھے خود پر ترس آتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کو میں جتنا یاد کرتا ہوں، میرا احساس اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔“ پھر آپ نے اپنے بچوں کی امی سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اب آپ کی مرضی ہے اس سے نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔“

(تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۱۹۸ ملخصاً)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ

العزیز وہی ہستی ہیں کہ جس دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منصبِ خلافت پر فائز ہوئے اسی دن سے تن دہی سے رعایا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ذات اور ذہن کو مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے وقف کر رکھا تھا، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آخرت میں گرفت کا کس قدر احساس تھا، اللہ عزوجل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ **اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاٰمِیْن** صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہ تعالیٰ علی محمد

سونے کے انداز کی اصلاح

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی بیٹی یا زوجہ چت سوئی ہوئی تھیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا۔ اپنی بیٹیوں کو فرمایا کرتے کہ شیطان تمہارے سامنے ہوتا ہے جب تم چت لیٹو گی تو وہ تم میں بُری خواہش رکھے گا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۷-۲۹۸)

”کاش! جنت البقیع ملے“ کے پندرہ حُرُوف کی

نسبت سے سونے، جاگنے کے 15 مَدَنی پھول

{1} سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی مُوزی کیڑا وغیرہ نہ ہو تو

نکل جائے {2} سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: **اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اُمُوْتُ وَاَحْيَا**

ترجمہ: اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتتا ہوں (یعنی سوتا اور جاگتا

ہوں) (بخاری ج ۴ ص ۱۹۶ حدیث ۶۳۲۵) {3} عُضْر کے بعد نہ سوئیں عَقْل زائل ہونے کا

خوف ہے۔ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: ”جو شخص عُضْر کے بعد سوئے اور اس کی عَقْل

جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو کلامت کرے۔“ (مسند ابی یعلیٰ حدیث ۴۸۹۷ ج ۴ ص ۲۷۸) {4} دوپہر

کو قیلولہ (یعنی کچھ دیر لیٹنا) مستحب ہے۔ (عالمگیری ج ۵ ص ۳۷۶) صَدْرُ الشَّرِيعَةِ، بَدْرُ

الطَّرِيقَةِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے

ہیں: غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شبِ بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں

پڑھتے ذکر الہی کرتے ہیں یا کُتُبِ بنی یا مطالعے میں مشغول رہتے ہیں کہ شبِ بیداری

میں جو تکان ہوئی قیلولے سے دفع ہو جائے گی۔ (بہارِ شریعت حصہ ۱۶ ص ۷۹ مکتبۃ المدینہ)

{5} دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔

(عالمگیری ج ۵ ص ۳۷۶) {6} سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے اور {7}

کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار (یعنی گال) کے نیچے رکھ کر قبلہ رُوسوئے پھر

اس کے بعد بائیں کروٹ پر (ایضاً) {8} سوتے وقت قَبْر میں سونے کو یاد کرے کہ

وہاں تنہا سونا ہوگا سو اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا {9} سوتے وقت یادِ خدا میں

مشغول ہو، تہلیل و تسبیح و تحمید پڑھے ﴿یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کا ورد کرتا

رہے ﴿ یہاں تک کہ سو جائے، کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے اور جس

حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اُسی پر اٹھے گا (ایضاً) {10} جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“. (بخاری ج ۴ ص ۱۹۶ حدیث ۶۳۲۵) ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے {11} اُسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری و تقویٰ کرے گا کسی کو ستائے گا نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۷۶ {12} جب لڑکے اور لڑکی کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سُلانا چاہیے بلکہ اس عُمر کا لڑکا اتنے بڑے (یعنی اپنی عمر کے) لڑکوں یا (اپنے سے بڑے) مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے (ذِمْمَخْتار، رَدَّالْمُحْتَار ج ۹ ص ۲۲۹) {13} میاں بیوی جب ایک چار پائی پر سونیں تو دس برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سُلائیں، لڑکا جب حدِ شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حُکم میں ہے (ذِمْمَخْتار ج ۹ ص ۲۳۰) {14} نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے {15} رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کیجئے تو بڑی سعادت ہے۔ سَيِّدُ الْمُبَلَّغِينَ، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”فروضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔“ (صَحِيح مُسْلِم، ص ۵۹۱ حدیث ۱۱۶۳) طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کیلئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کُتب بہارِ شریعت حصہ 16 (312 صفحات) نیز 120 صفحات کی کتاب ”سنتیں اور آداب“ ہدیہ حاصل کیجئے اور پڑھئے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقانِ رسول

کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔

سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو
صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(ماخوذ از ”101 مدنی پھول“، ص ۳۰)

پہننے کے لئے کپڑے نہ تھے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ اپنے بچوں سے اگرچہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، لیکن اُس محبت کا اظہار کبھی دُنوی زب و زینت اور عیش و عشرت کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، ایک بار انہوں نے اپنی بیٹی امینہ کو نہایت پیار سے آواز دے کر بلایا لیکن وہ نہ آئی۔ جب بعد میں اُس سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کی: میرے پاس ستر ڈھانپنے کے لئے کپڑا نہ تھا۔ امیر المؤمنین نے مزارحم کو حکم دیا کہ فرش پر بچھی ہوئی چادر کو پھاڑ کر اس کے لیے ایک قمیض تیار کروادو۔ حُسن اتفاق سے لڑکی کی پھوپھی اُمّ البنین نہایت دولت مند تھیں، ایک آدمی ان کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے ایک تھان کپڑا بھیج دیا اور کہا عمر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے کچھ نہ مانگو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۱۵)

موٹے کپڑے

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کے صاحبزادے عبداللہ آئے اور کپڑے مانگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو خیار بن رباح

بصری کے پاس بھیج دیا کہ ہمارے کپڑے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تو خیار نے چند موٹے کپڑے نکال کر سامنے رکھ دیئے اور کہا کہ جس قدر ضرورت ہو لے لو، صاحبزادے نے کہا: یہ میری اور میرے خاندان کی پوشش (یعنی لباس) نہیں ہے۔ خیار نے کہا: امیر المؤمنین کے یہی کپڑے ہیں جو میرے پاس ہیں۔ یہ سن کر عبد اللہ واپس ہو لئے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے واقعہ بیان کیا تو فرمایا: ”وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، ہمارے پاس تو یہی کپڑے ہیں۔“ اب صاحبزادے نے مایوس ہو کر پلٹنا چاہا تو پیش کش کی کہ اگر لینا چاہو تو میں تمہیں 100 درہم قرض دلواسکتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سو درہم دلوادئیئے، جب وظیفہ تقسیم ہوا تو ان کے وظیفے سے وہ رقم کاٹ لی۔ (سیرت ابن جوزی، ص ۳۱۲)

ہزار بھوکوں کا پیٹ بھردو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی اولاد میں اگر کوئی بیش قیمت چیز کا استعمال کرتا تو اس کو بھی منع کرتے۔ ایک بار ان کے صاحبزادے نے انگوٹھی بنوائی اور اس کے لیے ہزار درہم کا گنیزہ خریدا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا تو لکھا کہ اس انگوٹھی کو فروخت کر ڈالو اور اس رقم سے ہزار بھوکوں کا پیٹ بھردو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۳۱۲)

بیٹ المال سونکین جمع کرنے کے لئے نہیں ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے ایک صاحبزادے

نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا مہر بیٹہ المال سے ادا فرمادیتے۔ یہ صاحبزادے پہلے سے شادی شدہ تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر بے حد ناراض ہوئے اور اسے لکھا: ”تم نے اپنے خط میں مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں تمہارے لیے مسلمانوں کے بیٹہ المال کی رقم خرچ کر کے سوکنیں جمع کر دوں؟ (یعنی تمہاری دوسری شادی کر دوں) حالانکہ مہاجرین کی اولاد میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جنہیں اپنی عفت و عِصْمَت کی حفاظت کے لیے ایک بیوی بھی مُیَسَّر نہیں، خبردار! آئندہ ایسی بات مجھے نہ لکھنا۔“ بعد ازاں آپ نے اسی صاحبزادے کو ایک خط اور لکھا جس میں فرمایا: ”تمہارے پاس جو ہمارا تانا اور گھریلو سامان ہے اگر چاہو تو اُسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔“

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۶)

شہزادیوں کی عید

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں: ”بابا جان! کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟“ فرمایا: ”یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں دھولو، گل پہن لینا!“، ”نہیں! بابا جان! آپ ہمیں نئے کپڑے بنوادیتے“، ”بچوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”میری بچیو! عید کا دن اللہ رب العزت عزوجل کی عبادت کرنے، اُس کا شکر

بجالانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں!“، ”باباجان! آپ کا فرمانا بیشک دُرست ہے لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طے دے دیں گی کہ تم امیر المؤمنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پُرانے کپڑے پہن رکھے ہیں!“ یہ کہتے ہوئے بچپوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچپوں کی باتیں سُن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خازن (وزیر مالیات) کو بُلا کر فرمایا: ”مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔“ خازن نے عرض کی، ”حُضوَر! کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”جَزَاكَ اللهُ تُو نے بیشک عُمَدہ اور صحیح بات کہی۔“ خازن چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپوں سے فرمایا، ”پیاری بیٹیو! اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قُتر بان کر دو۔ (مَعَدَنِ اخلاق حصہ اوّل ص ۲۵۷ تا ۲۵۸)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اُن پر رَحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب

مَغفِرَت ہو۔ اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

شَیْخ طَرِیْقَت امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے

بعد لکھتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے؟ گزشتہ دونوں حکایات

سے ہمیں یہی دَرس ملا کہ اُجلے کپڑے پہن لینے کا نام ہی عید نہیں۔ اس کے

بغیر بھی عید منائی جاسکتی ہے۔ اللہ اُکبر عَزَّوَجَلَّ! امیر المؤمنین حضرت سَیِّدنا

عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر غریب و مسکین خلیفہ تھے اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی رقم جمع نہ کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خازن بھی کس قدر دیانتدار تھے اور انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس حکایت سے ہم سب کو بھی عمرت حاصل کرنی چاہیے اور پیشگی تنخواہ یا اجرت لینے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ہم جتنی مدت کی پیشگی تنخواہ لے رہے ہیں آیا اتنی مدت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں اور اگر زندہ رہ بھی گئے تو کام کاج کے قابل بھی رہیں گے یا نہیں! ظاہر ہے انسان حادثہ یا بیماری کے سبب ناکارہ بھی تو ہو سکتا ہے۔

(فیضان سنت، ج ۱، ص ۱۳۰۵)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مَسُوْر كِی دَال اور پیاز سے پیٹ بھرا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا

معمول تھا کہ عشا کی نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لئے اپنی صاحبزادیوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ حسب معمول ایک رات اُن کے یہاں گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آہٹ پاتے ہی انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لئے اور اندر کی طرف لپکیں۔ آپ نے خادمہ سے اُس کا سبب دریافت کیا، اس نے بتایا کہ ان کے پاس شام کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مجبوراً انہوں نے، مسُوْر کی دال اور پیاز سے پیٹ

بھرا ہے، ان کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کو انکے منہ کی بوجھوس ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز رو پڑے اور صاحبزادیوں سے فرمایا: ”تمہیں اس سے کیا نفع ہوگا کہ تم رنگا رنگ کے کھانے کھاؤ اور فرشتے تمہارے باپ کو پکڑ کر دوزخ میں لے جائیں!“ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آگئے اور صاحبزادیوں کی روتے روتے چیخیں نکل گئیں۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۹)

ع جلا دے نہ مجھ کو کہیں نارِ دوزخ

کرم بہر شاہِ اُممِ یالہی (وسائل بخشش ص ۸۳)

اس حکایت سے ان نادانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی فرمائشیں اور ضرورتیں پوری کرنے کے لئے مالِ حرام کا وبال اپنے سر لے لیتے ہیں، ایسوں کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سراسر خسارے کا سودا ہے، چنانچہ

اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا بد نصیب

ہمارے پیارے آقا، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مؤمن کو اپنا دین بچانے کے لئے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا تو اس وقت روزی اللہ عزوجل کی ناراضی ہی سے حاصل کی جائے گی پھر جب ایسا زمانہ آجائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے والدین نہ

ہوئے تو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ کیسے؟“ فرمایا: ”وہ اُسے مال کی کمی کا طعنہ دیں گے تو آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا۔“ (تو گویا انہیں کے ہاتھوں ہلاک ہوا)

(الترغیب والترہیب، کتاب الادب، باب فی العزلة لمن لایامن... الخ رقم ۱۶، ج ۳، ص ۳۶۲)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ذمی کو اس کی زمین واپس دلوانی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِ کے پاس ایک ذمی کا فر آیا اور کہنے لگا: ”میں تمّص سے آیا ہوں اور آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔“ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے پوچھا: ”تم کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟“ کہنے لگا: ”عباس بن ولید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔“ عباس بن ولید بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان سے پوچھا: ”عباس! تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“ عباس بن ولید کہنے لگے: ”حضور! یہ زمین مجھے میرے والد امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے دی تھی، اُن کی لکھی ہوئی دستاویز میرے پاس موجود ہے۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِ نے ذمی سے فرمایا: ”اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عباس کے پاس تو زمین کی ملکیت کی دستاویز ولید بن عبد الملک کی طرف سے موجود ہے جس کے مطابق یہ زمین عباس کی ملکیت

میں ہے۔“ ذمی کہنے لگا: ”یا امیر المؤمنین! میں آپ سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: ”ولید بن عبد الملک کی کتاب (یعنی دستاویز) کے بجائے کتاب اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا، عباس! تم یہ زمین اس ذمی کو واپس کر دو۔“ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ زمین سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے لے کر اُس ذمی کو لوادی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۶)

سات زمینوں کا ہار

دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والے، لوگوں کی طرف سے ٹھیکے پر ملی ہوئی زرعی زمینیں دبا لینے والے کسان، وڈیرے اور خائن زمیندار سنبھل جائیں کہ اگرچہ دنیا میں رشوت اور تعلقات کے بل بوتے پر وہ سزا سے بچنے میں کامیاب ہو بھی جائیں مگر آخرت میں سخت ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا جیسا کہ سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ”مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ“ یعنی جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز سات زمینوں کا طوق (یعنی ہار) پہنایا جائے گا۔ (مسلم، الحدیث ۱۶۱۰ ج ۳ ص ۵۶) چنانچہ ایسوں کو گھبرا کر جھٹ پٹ تو بہ کر لینی چاہئے اور جن جن کے حقوق دبائے ہیں وہ فوراً ادا کر دینے چاہئیں۔

دُعا قبول نہ ہوئی

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کہتے ہیں: بنی اسرائیل سات برس قحط میں مبتلا رہے یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو کھانے لگے، پہاڑوں میں نکل جاتے اور عاجزی و تضرع کے ساتھ دعا مانگتے اور روتے مگر رحمتِ الہی عَزَّوَجَلَّ اُن کے حال پر اصلاً توجہ نہ فرماتی یہاں تک کہ ان کے پیغمبر عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ پر وحی ہوئی: ”اگر تم میری طرف اس قدر چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمان کو لگ جائیں اور تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے گونگی ہو جائیں جب بھی میں تم میں سے کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ کروں اور کسی رونے والے پر رحم نہ فرماؤں، جب تک مظلوموں کو ان کے حُقُوق واپس نہ کر دیں۔“ پس بنی اسرائیل نے مظلوموں کو ان کے حق واپس کئے، اسی دن مینہ برسنا۔ (احیاء العلوم، ج ۱، ص ۴۰۷)

احساسِ ذمہ داری نے رُلا دیا

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بہت روئے جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: لَوْ اَنَّ سَخْلَةَ هَلَكْتُ عَلٰی شَاطِئِ الْفُرَاتِ لِاِخْتِاَبِهَا عُمَرَ لَعِنِي فِرَاتُ كَعَنَارِے اِيك بَكْرِي كَابِجَهٗ بِي مَرِغِيَا تُو عَمْرَسَ مَوَاخِذَهٗ هُوَكَا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۶)

مظلوم کی مدد

آذربائجان سے ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ

العزیز کے پاس آیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولا: ”یا امیر المؤمنین! اپنے سامنے میرے اس طرح کھڑے ہونے سے اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ربُّ العزّت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، آپ کے فریقوں کی کثرت بھی آپ کو چھیننے نہیں دے گی، جس دن عملِ محکم کے علاوہ کوئی چارہ اور گناہوں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بہت روئے پھر فرمایا: تمہارا بھلا ہوا ذرا پھر سے کہنا۔ اس نے دوبارہ یہی بات کہی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر رونے لگے، لمبی لمبی آہیں بھرنے لگے۔ تھوڑا فاقہ ہوا تو دریافت فرمایا: مَا حَاجَتُكَ یعنی تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے بتایا: آذر باعجان کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا اور بلا وجہ میرے بارہ ہزار درہم بیٹ المال میں ڈال دیئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اسی وقت آذر باعجان کے عامل کو یہ خط لکھنے کا حکم دیا کہ اسکا مال اسے لوٹا دیا جائے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۷۶)

غلام آزاد کر دیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس ایک غلام تھا۔ وہ غلام ایک نچر کے ذریعہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غلام سے حال احوال دریافت کیا تو شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگا: النَّاسُ كُلُّهُمْ بِخَيْرٍ غَيْرِي وَغَيْرِكَ یعنی میرے اور آپ کے سوا باقی سب لوگ خیریت سے ہیں۔ فرمایا: فَادْهَبْ فَانْتَ حُرٌّ یعنی جاؤ تم آزاد ہو۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۶)

اپنے علاقوں میں واپس چلے جاؤ

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے خلیفہ بننے کی خبر عام ہوئی تو دُور و نزدیک سے لوگ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے، آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ نے ان سب کو جمع کر کے فرمایا: اے لوگو! اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاؤ کیونکہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو میں تمہیں بھول جاتا ہوں اور جب تم اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہو مجھے خوب یاد رہتے ہو، دیکھو! میں نے کچھ لوگوں کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے، میرا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ وہ تم میں سے بہترین ہیں، ہاں! یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں، اگر کوئی حاکم تم پر ظلم ڈھاتا ہے تو اسے میری طرف سے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے (یعنی اس کا محاسبہ ہوگا)۔

(سیرت ابن عبدالحکم ۴۰ و سیرت ابن جوزی ۸۹)

بَدُوؤں کو زمین واپس دلائی

غَضَب شدہ جائیدادیں اور مقبوضہ زمینیں واپس کرنے کا سلسلہ تادم مزگ قائم رہا۔ حُقوق کی واپسی کے لیے کسی قِطعی شہادت یا حُجّت کی ضرورت نہ تھی، بلکہ جو شخص دعویٰ کرتا تھا معمولی سے معمولی شُبُوت پر اس کا مال واپس مل جاتا تھا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۶) ایک بار بَدُوؤں (یعنی دیہاتیوں) نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک قِطْعہ زمین آباد کیا تھا جس کو عبدُ الملک نے اپنی اولاد کو دے دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صَلَّى اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

فرمایا ہے: ”الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، مَنْ أَحَىٰ أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، یعنی زمین خدا عَزَّوَجَلَّ کی زمین ہے، اور بندے خدا عَزَّوَجَلَّ کے بندے ہیں جس نے بخر زمین کو آباد کیا وہ اس کا مُسْتَحَقُّ ہے۔“ یہ کہہ کر زمین بُدُوں کو واپس دلادی۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۲۵)

اپنے حکومتی کارندوں کو بھی اسی کی تاکید کی

ان ذاتی کوششوں کے ساتھ ساتھ اُمراء و عُمَمال (حکومتی ذمہ داران) کو بھی ہدایتیں بھیجتے رہتے تھے کہ وہ بھی اسی مُسْتَعِدِّی (یعنی تیز رفتاری) کے ساتھ اموالِ مَغْضُوبہ اُن کے مالکان کو واپس دلائیں۔ چنانچہ ابوزناد کا بیان ہے: ہمیں عراق میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے لکھا: ”ہم اہل حُقُوق کو حُقُوق واپس دلا دیں۔“ جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تو عراق کا بیٹ المال بالکل خالی ہو گیا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو شام سے روپیہ بھیجنا پڑا۔“ (سیرت ابن عبدالحم، ص ۱۰۷) عبدالرحمن بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی کوئی تحریر ایسی نہیں آئی جس میں اموالِ مَغْضُوبہ کی واپسی، اِحیائے سنت، اِمَانَتِ بَدْعَت (یعنی بدعت کے خاتمے) وغیرہ کی ہدایت درج نہ ہو (سیرت ابن جوزی، ص ۱۰۰)، بلکہ ایک بار تو یہ بھی لکھ کر بھیجا کہ رجسٹروں کا جائزہ لیں اور قدیم عُمَمال (یعنی حکومتی عہدیداروں) نے کسی مسلمان یا ذمی پر ظلم کیا ہو تو اس کا مال واپس کر دیں اور اگر وہ خود زندہ نہ ہوں تو اس کے ورثا کو دے

دیں۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۴)

ٹال مٹول کرنے والے حُکام سے ناراضی

جو ذمہ دارانِ حکومت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے اِس حُکْم میں لُیْتِ وَ لَعَلَّ (یعنی ٹال مٹول) کرتے تھے، اُن سے بہت ناراض ہوتے تھے، ”عُرْوَةُ“ یمن کے عامل تھے ایک بار انہوں نے اِس معاملہ میں بہت قِیْلَ وَقَالَ (یعنی بحث و تکرار) کی تو ان کو لکھا کہ میں تمہیں لکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اموالِ مَغْضُوْبہ واپس کر دو اور تم اس کے متعلق مجھ سے سوال جواب کرتے ہو! حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان کتنا لمبا سفر ہے؟ اور موت کے آنے کا کچھ پتا نہیں، اگر میں تمہیں لکھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی غُصْب شُدہ بکری واپس کر دو تو تم پوچھتے ہو کہ وہ بھوری ہو یا سیاہ؟ جلد از جلد مسلمانوں کا مال واپس کر دو اور مجھ سے اِس معاملہ میں غیر ضروری خط و کتابت نہ کرو۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۶)

ادائے حقوق میں احتیاط

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے عُمَال کے نام ایک خط میں لکھا: میں نے پہلے تمہیں لکھا تھا کہ ”مقبوضہ“ اموال اُن کے مالکوں کو واپس کر دیئے جائیں مگر بعد میں لکھا تھا کہ ابھی روک لئے جائیں اور تیسری بار لکھا تھا کہ واپس کر دیئے جائیں، دُرُ اَصْلِ بَاتِ یہ تھی کہ بعض لوگوں کی طرف سے خیانتوں اور جھوٹی شہادتوں کی اِطْلَاع مجھے ملی تھی، اِسی وجہ سے میں نے واپس کئے گئے بعض

اُموال اپنی تحویل میں لے لئے تھے کہ جب تک دعویٰ داروں کی طرف سے قابلِ اعتماد شہادت فراہم نہیں کی جاتی انہیں اُموال واپس نہ دیئے جائیں، لیکن بعد میں یہ رائے بنی کہ اپنی تحویل میں رکھنے کے بجائے اُن کے مالکوں کو لوٹا دینا بہتر ہے۔

(سیرت ابن عبدالکلام ص ۷۷)

تمہارا کوئی حق نہیں مارا گیا

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے سامنے بے حد عمدہ عنبر لاکر رکھی گئی اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا: اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آپ کی دہائی ہے یا امیر المؤمنین! فرمایا: کیا بات ہے؟ عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! میرا عنبر!“ دریافت فرمایا: اس عنبر کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا: میں نے یہ عنبر سلیمان بن عبدالملک کو سات ہزار درہم میں فروخت کیا تھا حالانکہ اس کی قیمت اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا: کیا انہوں نے تجھے ڈرا یا دھمکایا تھا؟ عرض کی: نہیں، فرمایا: کیا تجھے مجبور کیا تھا؟ کہا: نہیں، فرمایا: کیا تجھ سے غصب کیا تھا؟ کہا: نہیں، فرمایا: تو پھر؟ اس کے منہ سے نکلا: میرا عنبر۔ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جاؤ! تمہارا کوئی حق نہیں مارا گیا، کیونکہ میں بھی یہی پسند کرتا ہوں کہ کوئی چیز خریدوں تو سستی خریدوں (اور سلیمان بن عبدالملک نے یہی کیا تھا)۔ (سیرت ابن جوزی ص ۹۹)

سائل سے ہمدردی

ایک سائل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت

میں حاضر ہوا اور آپ کے مقرر کردہ گورنر کی شکایت کی کہ وہ میری زمین واپس نہیں دلواتا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اس کے حلنے نے ہمیں دھوکہ دیا کہ ہم نے اسے نیک سمجھ کر گورنر بنا دیا، میں نے اُسے لکھا بھی تھا کہ جو شخص اپنے حق پر گواہی پیش کر دے اُس کی چیز فوراً اُس کے حوالے کر دیا کرو، مگر اُس نے میری تاکید نظر انداز کر دی اور تمہیں خواہ مخواہ یہاں آنے کی زحمت دی۔ پھر آپ نے گورنر کے نام تحریری حکم لکھا کہ اس شخص کی زمین اسے دلوائی جائے۔ اس کے بعد سائل سے دریافت فرمایا: میرے پاس آنے میں تمہارا کتنا خرچ ہوا؟ عرض کی: **یا امیر المؤمنین!** آپ مجھ سے سفر کا خرچ پوچھتے ہیں، میری جو زمین آپ نے واپس دلوائی ہے اس کی قیمت ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: وہ تو تمہارا حق تھا جو تمہیں مل گیا یہ بتاؤ کہ سفر پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟ عرض کی: جی! معلوم نہیں۔ فرمایا: کچھ اندازہ تو ہوگا؟ عرض کی: ”یہی کوئی 60 درہم۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ اس کا خرچ بیٹ المال سے ادا کیا جائے، جب وہ جانے لگا تو اسے آواز دے کر بلایا اور فرمایا: **خُذْ هَذِهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ مِنْ مَالِي فُكِّلْ بِهَا لِحْمًا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ** یعنی لو! یہ پانچ درہم میرے ذاتی مال سے ہیں، گھر جانے تک ان کا گوشت لے کر کھاتے رہنا۔

(سیرت ابن عبدالکلام ص ۱۲۵)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَسَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ وَأَنْ يَكْفُرَ هُوَ

مَغْفِرَتِ هُوَ - اَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاُمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

حکومتی ذمہ دار پر انفرادی کوشش

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القَدِیر نے ایک گورنر کو لکھا: تم سے پہلے کے گورنر فِسْق و فُجْر اور ظَلَم و عُدْوَان کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے تم سے ہو سکے تو عَدْل و انصاف اور احسان و اصلاح میں وہی مقام پیدا کرو۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۲)

پروٹوکول ختم کر دیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے پہلے خلیفہ منتخب ہونے والے کے خاندان کو شاہی اہمیت مل جاتی تھی، خلیفہ کی طرف سے ان کو خاص وظائف ملتے تھے، وہ ہر جگہ نمایاں حیثیت میں نظر آتے تھے، خود خلیفہ جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ نقیب و علمبردار چلا کرتے تھے، کسی جنازے میں شریک ہوتا تو اس کے لئے خاص طور پر چادر بچھائی جاتی لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے خلیفہ بنتے ہی تمام نشیب و فراز مٹا دیئے اور ”محمود وایاز“ کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ خاندان شاہی کو عام مسلمانوں پر جو امتیاز حاصل ہو گیا تھا اُس کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القَدِیر نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ دربار عام میں کسی کو کسی پر اس لیے ترجیح نہ دو کہ وہ خاندانِ خلافت سے تعلق رکھتا ہے، یہ

لوگ میرے نزدیک تمام مسلمانوں کے برابر ہیں۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۳) خود اپنے لئے لکھا کہ مذہبی اجتماعات میں خاص میرے لئے دعائے کی جائے بلکہ عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لئے دعا کی جائے اگر میں اُن میں سے ہوں گا تو اس دعا میں حصّہ دار بن جاؤں گا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۵)

سب کے لئے کی جانے والی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے

وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے کہ جو سب کے لیے کی جائے کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی مقبول ہوئی تو اُمید ہے کہ سب کے لیے مقبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کے اوّل اور آخر دُرُودِ پاک پڑھا جاتا ہے کیونکہ دُرُودِ شریف یقیناً مقبول ہوتا ہے، تو رحمتِ الہی عَزَّوَجَلَّ سے اُمید تو یہ ہے کہ وہ دو دُرُودوں کے درمیان کی جانے والی دعا کو نہ چھوڑے گا بلکہ اوّل آخر پڑھے جانے والے دُرُودِ شریف کی بَرَکت سے اسے بھی مقبول فرما ہی لے گا۔ (تفسیر کبیر، ج ۱، ص ۲۱۹)

پڑوسی خُلد میں یا رَبِّ بنا دے اپنے پیارے کا

تیبی ہے آرزو میری تیبی دِل سے دعا نکلے (وسائل بخشش ص ۲۶۲)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

سب کے برابر بیٹھے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے برادرِ نسبتی (یعنی زوجہ

محترمہ کے بھائی) حضرت مُسَلَّمَةُ بن عبد الملک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ کسی مقدمے میں بحیثیت

فریق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں آئے تو درباری فرش پر آپ کے سامنے بیٹھ گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ان حالات میں یہاں نہ بیٹھئے اگر یہ گوارا نہ ہو تو کسی کو اپنا وکیل مقرر کر لیجئے ورنہ سب کے برابر بیٹھئے۔

(سیرت ابن جوزی ۹۱ ملخصاً)

علماء کرام کو اپنے قریب کر لیا

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیدر خلیفہ مقرر ہوئے تو مختلف ”شخصیات“ نے آپ کے پاس آنا جانا شروع کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں بھی وہی توجہ ملتی ہے جو عام لوگوں کو تو وہ پیچھے ہٹ گئیں، پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیدر نے اپنی پسندیدہ شخصیات یعنی علماء کرام کو اپنے قریب کر لیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۹۱) تاریخ دمشق میں ہے: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَّامٌ يَسْتَشِيرُهُمْ فِيمَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ يَعْنِي: حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چند مصاحب تھے جن سے وہ رعایا کے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔

(تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۱۷۰)

کم رفتار سواری پر بیٹھنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے ایک گورنر کو لکھا: تم اسی سواری پر بیٹھنا جس کی رفتار لشکر کی دیگر سواریوں سے کم ہو۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۳۷)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس فرمانِ نصیحت نشان کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مرتبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی اچھی چیزیں اپنے لئے خاص نہ کر لینا، اس سے اُن اسلامی بھائیوں کو خود پر ایک سو بارہ مرتبہ غور کر لینا چاہئے جنہیں کسی شُعبہ یا مکتب (دفتر) میں فوقیت حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی، قیمتی اور معیاری اشیاء اپنے لئے خاص کر لیتے ہیں اور بچا کچھا سامان ماتحت اسلامی بھائیوں کو پیش کر دیتے ہیں۔

خاندان والوں سے میل جول کم کر دیا

خلیفہ بننے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاندان والوں سے میل جول کم کر دیا تو ان میں بعض لوگوں نے کہا: ”آپ متکبر ہو گئے ہیں۔“ فرمایا: میں پہلے محض ایک نوجوان تھا، خاندان کے لوگ بلا روک ٹوک میرے پاس آتے جاتے تھے لیکن خلیفہ بننے کے بعد میرے سامنے دور استے تھے کہ یا تو میں پہلے کی طرح ان کے ساتھ زیادہ میل جول رکھوں اور حق کی مخالفت پر ان کو سزا دوں، یا ان سے ملنا جلنا کم کر دوں تاکہ انہیں میرے بل بوتے پر حق کی مخالفت کی جرأت ہی نہ ہو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، ورنہ **تَكْبَرُ** تو صرف خَدَاعَ وَجَلَّ كَا حَق ہے، میں اس کے متعلق اس سے کیونکر جنگ کر سکتا ہوں! (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۴ ملخصاً)

بیس ہزار دینار دینے سے انکار

خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے عنبہ بن سعید کو بیس ہزار دینار دینے کا حکم

دیا تھا، یہ حکم نامہ دفتری کارروائی کے آخری مرحلہ میں تھا اور اس رقم کا صرف وصول کرنا باقی تھا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ عنبنہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے گہرے دوست تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہوئے تو وہ اس رقم کی وصولی کے سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پر بنو امیہ کے کئی لوگ بھی جمع ہیں اور وہ اپنے اپنے معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے عنبنہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں امیر المؤمنین سے بات چیت کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عنبنہ سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے عنبنہ سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین کے پاس جائیں تو ان کی خدمت میں ہمارا تذکرہ بھی کریں اور واپس آ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ عنبنہ اندر گئے اور عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! خلیفہ سلیمان نے مجھے کچھ رقم عطا کرنے کا حکم فرمایا تھا، اس کی دفتری کارروائی مکمل ہو چکی تھی اور صرف قبضہ باقی تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، میری رائے میں اب آپ کو اس کی تکمیل بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے کیونکہ میرا آپ کا تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جو میرا اور سلیمان کا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے پوچھا: ”کتنی رقم ہے؟“ عرض کی: ”بیس ہزار دینار!“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا: ”بیس ہزار دینار! اتنی رقم تو مسلمانوں کے چار ہزار گھروں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی آدمی کو دے ڈالوں؟ واللہ! میں یہ نہیں کر سکتا۔“ عنبنہ کہتے ہیں میں نے یہ سن کر ناراضی سے وہ دستاویز پھینک دی۔

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: یہ تمہارے پاس ہی رہے تو تمہارا کیا نقصان ہے، ممکن ہے میرے بعد کوئی ایسا خلیفہ آئے جو اس مال کے معاملے میں مجھ سے زیادہ جری (یعنی جرأت کرنے والا) ہو اور تمہیں یہ رقم دلوادے۔ میں نے انکی رائے کو مفید سمجھتے ہوئے وہ دستاویز اٹھالی اور عرض کی: امیر المؤمنین! ”جبل درس“ کا کیا ہوا؟ درحقیقت جبل درس حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی ہی جاگیر تھی مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے عنبرہ کی چوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا: تم نے خوب یاد دلایا۔ پھر خادم کو ایک ٹوکری لانے کا کہا۔ کھجور کے تنکوں کی بنی ہوئی ٹوکری لائی گئی، اس میں جاگیروں کے کاغذات تھے آپ نے خادم کو پڑھنے کا حکم دیا، وہ ایک ایک کو پڑھتا جاتا اور آپ اسے چاک کرتے جاتے، یہاں تک کہ اس ٹوکری کے تمام کاغذات پھاڑ ڈالے۔

عنبرہ کہتے ہیں: میں باہر نکلا تو بنو امیہ کے لوگ دروازے پر موجود تھے۔ میں نے سارا قصہ اُن کو سنایا تو وہ مایوس ہو کر بولے: اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ انکے پاس واپس جائیے اور ہماری سفارش کیجئے یا یہ درخواست کیجئے کہ ہمیں دوسرے علاقوں میں جانے کی اجازت دے دیں۔ میں واپس ہوا اور عرض کی: **یا امیر المؤمنین!** آپ کی قوم کے لوگ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اُن کی درخواست ہے کہ آپ انکے وہ وظائف و عطیات جاری کر دیں جو آپ سے پہلے ان کو ملا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: ”**واللہ!** یہ مال میری ملکیت نہیں، نہ میں یہ عطیات ان کو دے سکتا ہوں۔“ میں نے

عرض کی: پھر ان کی درخواست ہے کہ آپ انہیں دوسرے علاقوں میں چلے جانے کی اجازت دیں۔“ آپ نے فرمایا: ”وہ جہاں جانا چاہیں انہیں اس کی اجازت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”مجھے بھی؟“ فرمایا: ہاں تمہیں بھی اجازت ہے، مگر میرا مشورہ ہے کہ تم یہیں ٹھہرو، تم اچھے خاصے مالدار آدمی ہو، میں سلیمان کا ترکہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز خرید کر نفع کما لو اور اس طرح جو رقم تمہیں نہیں مل سکی اس کا بدل ہی مل جائے۔“ عینسہ کہتے ہیں: میں ان کی رائے کو بابرکت سمجھتے ہوئے وہیں رُک گیا۔ جب سلیمان کا ترکہ فروخت ہوا تو میں نے وہ ایک لاکھ میں خرید لیا اور عراق لے جا کر دو لاکھ کا فروخت کر دیا، یوں مجھے ایک لاکھ درہم کا نفع ہوا۔ بیس ہزار کی دستاویز بھی میں نے محفوظ رکھی، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا وصال ہوا اور یزید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو میں نے سلیمان کی تحریر لا کر ان کو دکھائی تو انہوں نے اس رقم کی ادائیگی کے احکامات جاری کر دیئے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۱)

پھوپھی صاحبہ کا وظیفہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خلافت کے بعد آپ کی پھوپھی صاحبہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس آئیں اور کہا: ”میں امیر المؤمنین سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔“ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے کہا: ”ذرا تشریف رکھئے وہ ابھی مصروف ہیں۔“ وہ بیٹھ گئیں، تھوڑی دیر بعد غلام گھر سے چراغ لے کر گیا تو حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے کہا: اب امیر المؤمنین فارغ ہیں آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، ان کا معمول

یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو سرکاری شمع جلاتے ہیں اور اپنا ذاتی کام کرنا ہوتا تو گھر سے چراغ منگوا لیتے ہیں۔ پھوپھی صاحبہ امیر المؤمنین کے پاس گئیں، وہاں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کا کھانا تناؤ ل فرما رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چند روٹیاں، کچھ نمک اور ذرا سائیتون! بس یہ تھا امیر المؤمنین کا کھانا۔ پھوپھی صاحبہ نے کہا: ”امیر المؤمنین! میں تو اپنی ضرورت کے لئے آئی تھی مگر تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اپنی ضرورت سے پہلے مجھے تمہارے مسائل پر کچھ کہنا چاہیے۔“ امیر المؤمنین نے کہا: ”فرمائیے پھوپھی جان!“ پھوپھی صاحبہ نے کہا: ”ذرا اس سے نرم کھانا کھایا کرو۔“ جواب دیا: ”پھوپھی جان! یقیناً میں ایسا ہی کرتا مگر کیا کروں کہ اس کی گنجائش ہی نہیں۔“ اس کے بعد پھوپھی صاحبہ نے کہا: ”تمہارے چچا عبد الملک مجھے اتنا اتنا وظیفہ دیا کرتے تھے، انکے بعد تمہارے تایا زاد بھائی ولید اور سلیمان آئے تو انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا، اب تم آئے تو میرا وظیفہ ہی بند کر دیا!“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے: ”پھوپھی جان! میرے چچا عبد الملک، چچا زاد بھائی ولید اور سلیمان آپ کو مسلمانوں کا مال دیا کرتے تھے، اب یہ مال میرا تو ہے نہیں کہ میں آپ کو دیا کروں! آپ چاہیں تو ذاتی مال سے دے سکتا ہوں۔“ وہ پوچھنے لگیں: وہ کون سا؟ جواب دیا: وہی جو مجھے دو سو دینار سالانہ وظیفہ ملتا ہے۔ پھوپھی صاحبہ نے کہا: میں تمہارے وظیفے کا کیا کروں گی؟ کہا: ”پھوپھی جان! میرے پاس تو یہی کچھ ہے اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔“ یہ سن کر پھوپھی صاحبہ واپس چلی گئیں۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۳)

حکمِ الٰہی کا پاس

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی پھوپھی جان اُم عمر بنت مروان نے کسی موقع پر آپ سے کہا: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ عزوجل کا فیصلہ ہے مگر تم نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے محروم کر دیا جو دوسرے خلفاء دیا کرتے تھے! آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا: يَا عَمَّةُ تَلُولَا ذَلِكَ الْحُكْمُ لَكُنْتُ اَوْصَلَهُمْ لَكَ یعنی پھوپھی جان! اگر ”اللہ عزوجل کا فیصلہ“ نہ ہوتا تو میں آپ کو دوسروں سے زیادہ دیتا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۴)

آئندہ ایک درہم بھی نہیں دوں گا

ایک مرتبہ عبسہ بن سعید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے ہاں سے نکلے تو دروازے پر خاندان بنو اُمیہ کے لوگ جمع تھے، جن میں یزید بن عبدالملک بھی تھے جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے بعد ولی عہد تھے۔ ان لوگوں نے عبسہ سے شکایت کی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ہمیں صرف دس دینار بھیجے ہیں، ہمیں ان کی رنجش کا اندیشہ ہے ورنہ ہم انہیں بید رقم واپس کر دیتے۔ ولی عہد یزید بن عبدالملک نے کہا: انہیں بتا دیجئے کہ میں بھی اس رقم پر راضی نہیں، شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں انکے بعد خلیفہ نہیں ہوں گا۔

یہ سن کر عبسہ دوبارہ اندر گئے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے بات کی کہ آپ کے خاندان کے لوگ دروازے پر بیٹھے ہیں، انہیں آپ

سے شکوہ ہے کہ آپ نے ان کو صرف دس دس دینار پر ٹر خا دیا ہے، ولی عہد یزید بن عبدالملک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شاید عمر کا خیال ہوگا کہ ان کے بعد میں خلیفہ بننے والا نہیں ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: ان سے میرا سلام کہو، سلام کے بعد انہیں میری طرف سے بتاؤ کہ ”اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے گذشتہ رات جاگ کر اور اللہ عَزَّوَجَدَّ سے اس بات کی معافی مانگتے ہوئے گزاری ہے کہ میں نے دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر تمہیں فی کس دس دینار کیوں دے ڈالے؟ وَاللّٰهُ الْعَظِيْمُ! آئندہ میں تمہیں ایک درہم بھی نہیں دوں گا! الایہ کہ دیگر مسلمانوں کو بھی ملے۔“ اور یزید بن عبدالملک سے کہنا: ”میں تمہیں اس اللہ عَزَّوَجَدَّ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اگر تم میری بیعت توڑ ڈالو اور مسلمان مجھے خلافت سے معزول کر دیں پھر تم معاملات خلافت سنبھال لو تو کیا تم مجھ سے اتنا کم تر معاملہ کر سکتے ہو جتنا میں نے (خلیفہ ہوتے ہوئے) خود اپنے آپ سے کر رکھا ہے؟ جب کاروبار خلافت تمہارے سپرد ہوگا تو جو تمہارے جی میں آئے کر لینا۔“ عمنبہ باہر نکلے تو ان سے یہ سارا قصہ بیان کیا اور کہا: بھائیو! جس کی زمین ہے وہ جا کر اپنی زمین کی دیکھ بھال کرے (یعنی یہاں کچھ نہیں ملے گا)۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۴۱)

دُکائیں واپس دلوائیں

چند مسلمانوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی

عدالت میں دعویٰ کیا کہ تمّص میں انکی چند دکانوں پر ولید بن عبد الملک کے بیٹے ”رَوَح“ نے ناجائز قبضہ جمارکھا ہے۔ آپ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے ”رَوَح“ سے فرمایا: ”ان کی دکانیں واپس کر دو۔“ رَوَح بولا: یہ میرے پاس سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کی تحریر موجود ہے۔ مگر آپ نے فرمایا: ”جب دکانیں ان کی ہیں اور اس پر شہادت بھی موجود ہے تو ولید کی تحریر کیا معنی رکھتی ہے؟“ اس فیصلہ کے بعد دونوں فریق اٹھ کر چلے گئے۔ باہر جا کر رَوَح نے مدّعی (یعنی دعویٰ کرنے والے) کو دھمکایا، اس نے واپس آ کر شکایت کی: **یا امیر المؤمنین!** وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمة اللہ العزیز نے کعب بن حامد جو آپ کا پولیس افسر تھا، سے فرمایا: رَوَح کے پاس جاؤ، اگر دکانیں ان کے حوالے کر دے تو بہتر ورنہ اس کا سر کاٹ لاؤ۔“ رَوَح کے حامیوں نے خلیفہ کا یہ فرمان سنا تو فوراً اُسے خبر کر دی۔ جب ”کعب بن حامد“ پولیس افسر نے ایک بالشت تلوار نیام سے باہر نکال کر ”رَوَح“ سے کہا ان کی دکانیں فوراً ان کے حوالے کر دو ورنہ.....!!! اس نے کہا: ”بہت اچھا!“ اور دکانوں کا قبضہ چھوڑ دیا۔ (سیرت ابن عبدالکلم ص ۵۴)

جواب نہ بن پڑا

جب خاندان بنو امیہ نے خود کو تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک سطح پر شانہ بشانہ کھڑے دیکھا تو انہیں سخت ذلت محسوس ہوئی کیونکہ پرانے تفوق و امتیاز نے ان کے لئے اس مساوات کو خواب فراموش بنا دیا تھا، پھر ذاتی جائیداد کا ہاتھ سے نکل جانا

بھی اشتعال کا ممکنہ سبب تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے طرزِ عمل سے عوام کو یقین ہو چلا تھا کہ پہلے کے خلفائے بنو امیہ نے جو روش اختیار کی تھی وہ شرعاً درست نہیں تھی، اس لئے خاندان کو اپنے پورے سلسلہ کا دامن و اذکار نظر آتا تھا چنانچہ خاندان کے کئی افراد نے مختلف طریقوں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا تو ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مروانی خاندان کو جمع کر کے کہا: اے بنو مروان! تمہیں بہت سی جائیدادیں، عزتیں اور دولتیں ملی تھیں، میرے خیال میں اُمت کا نصف یا تہائی مال تمہارے قبضے میں آ گیا تھا، ایسا کیونکر ممکن ہوا؟ یہ سن کر سب پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی، جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ وضاحت طلب کی تو سب یک زبان ہو کر کہنے لگے: ”جب تک ہمارا سر ہمارے دھڑ سے الگ نہ ہو جائے ہم نہ تو اپنے آباؤ اجداد کو بُرا بھلا کہہ سکتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو محتاج بنا سکتے ہیں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۳۶) یہ کہہ کر وہاں سے چل دیئے۔

”سمجھانے“ کی ایک اور کوشش

خاندان کے افراد نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو ”سمجھانے“ کی ایک اور کوشش کی، چنانچہ ہشام بن عبدالملک کو اپنا وکیل بنا کر چند لوگوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا۔ ہشام نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ کر کہا: ”یا امیر المؤمنین! میں آپ کی خدمت میں آپ کے

سارے خاندان کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اپنی زیر حکومت چیزوں کے بارے میں اپنے طریقہ پر عمل کیجئے لیکن اُن کے پرانے حقوق کو باقی رہنے دیجئے۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: اگر تمہارے سامنے 2 دستاویز پیش کی جائیں اور جن میں سے ایک حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری خلیفہ عبدالملک کی لکھی ہوئی ہو تو تم کس پر عمل کرو گے؟ ہشام نے کہا: ظاہر ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر مُقَدَّم ہے، اُسی پر عمل کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: تو پھر سُنو! میں کتاب اللہ کو سب پر مُقَدَّم پاتا ہوں اور ہر چیز کو اسی کے مطابق چلانے کی کوشش کروں گا۔ اس پر وہاں پر موجود خالد بن عمر نے کہا: پھر بھی جو چیزیں آپ کے زیر فرمان ہیں اُن پر عدل و انصاف سے حکومت کیجئے لیکن گذشتہ خلفا کی اچھی یا بُری چیزوں کو اپنے حال پر رہنے دیجئے اور یہ آپ کے لئے کافی ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: اگر کسی شخص کے چند چھوٹے بڑے بچے ہوں اور وہ انتقال کر جائے پھر بڑے بیٹے چھوٹوں کی دولت پر قبضہ کر لیں اور چھوٹے بچے تمہارے پاس دادرسی کے لئے آئیں تو تم کیا کرو گے؟ خالد نے کہا: میں انہیں ان کا حق دلاؤں گا۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ نے فرمایا: میرے نزدیک بہت سے خلفا اور ان کے قریبی لوگوں نے لوگوں کا مال و جائیدادزبردستی ہتھیا لیا اور جب میں خلیفہ بنا تو لوگوں نے مجھ سے دادرسی چاہی تو میرے لئے اس کے سوا

کوئی چار نہیں تھا کہ میں کمزوروں کو اُن کا حق دلاؤں۔ یہ سن کر خالد بن عمر کے منہ سے بے اختیار یہ دعائیہ کلمات نکلے: وَقَفَّكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی امیر المؤمنین! اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آپ کو اس کی توفیق دے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۳۱)

میں قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں

اسی طرح کسی اور موقع پر خاندان کے لوگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے دروازے پر جمع ہوئے اور اُن کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبدُ الملک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ سے کہا: ”یا تو ہمیں باریابی کی اجازت دلو، یا خود ہمارا پیغام امیر المؤمنین تک پہنچاؤ۔“ انہوں نے پیغام پہنچانے پر حامی بھری تو سب نے کہا: ان سے پہلے جو خلفا تھے وہ ہم کو عطیہ دیتے تھے اور ہمارے مراتب کا لحاظ رکھتے تھے، لیکن تمہارے باپ نے ہم کو بالکل محروم کر دیا۔“ انہوں نے جا کر یہ پیغام سنایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: ”جا کر کہہ دو کہ میرا باپ کہتا ہے: إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی اگر میں اپنے خدا عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کروں تو قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“

(سیرت ابن جوزی ص ۱۳۹)

گنہگار طلبگارِ عفو و رحمت ہے

عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یارب (وسائل بخشش ص ۹۷)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

پھوپھی صاحبہ کی سفارش

اُن سب نے ایک تدبیر یہ بھی کی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ العَزِیْزِ کی پھوپھی صاحبہ کو بھیجا۔ وہ آئیں اور کہا: تمہارے قرابت دار شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ان سے روٹی چھین لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ العَزِیْزِ نے جواب دیا: میں نے ان کا کوئی حق نہیں روکا۔ وہ بولیں: ”سب لوگ اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ کسی دن تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دیں!“ حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ العَزِیْزِ نے فرمایا: ”ان کی بغاوت کے دن سے زیادہ قیامت کے دن کا خوف ہے۔“ اس کے بعد ایک اشرفی، گوشت کا ایک ٹکڑا اور ایک انگیٹھی منگوائی اور اشرفی کو آگ میں ڈال دیا، جب وہ خوب سُرخ ہو گئی تو اسکو اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے وہ بھن گیا، اب پھوپھی صاحبہ کی طرف رُخ کر کے کہا: ”اُمّی عَمَّةٌ! اَمَّا تَاوِیْنِ لِاِبْنِ اَحِيْكَ مِنْ مِّثْلِ هٰذَا لَعِنِیْ پھوپھی جان! اپنے بھتیجے کے لئے اس قسم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتیں؟“

(سیرت ابن جوزی ص ۱۳۸)

مجھے نارِ دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے
 ہو مجھ ناٹواں پر کرم یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۲)
 صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

خلافت سے بے نیازی

جب خاندان کے کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز پر اسی حوالے سے کچھ زیادہ ہی برہمی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی سب باتوں کو نہایت غور سے سنا اور پھر دھمکی آمیز لہجے میں فرمایا: ”اگر آئندہ پھر تم نے اس قسم کی باتیں کیں تو سن لو! میں نہ صرف تمہارا شہر چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا بلکہ خلافت کا معاملہ شوریٰ پر چھوڑ دوں گا، میں اس کے اہل کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔“ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۵)

عمر بن ولید کا خط اور اس کا جواب

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے عدل و انصاف پر مبنی ان فیصلوں کی خبر ولید بن عبد الملک کے بیٹے ”عمر“ کو پہنچی تو اُس نے اس عا دلانہ طرز عمل کو نہایت ناپسندیدگی سے دیکھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ایک مکتوب بھیجا جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت زیادہ سخت الفاظ سے مخاطب کیا۔ چنانچہ اس نے لکھا: ”اے عمر بن عبدالعزیز! تم نے اپنے سے پہلے تمام خلفا پر عیب لگایا ہے اور تم حد سے تجاوز کر گئے ہو، تم نے بغض و عناد کی وجہ سے اپنے پیش روؤں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے خلاف چل رہے ہو، تم نے قریش اور ان کی اولاد کی میراث کو جبراً بیت المال میں داخل کر کے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے اور قطع رحمی سے کام لیا ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز! اللہ عز و جل سے ڈرو اور اس بات

کا خیال کرو کہ تم ظلم و زیادتی سے کام لے رہے ہو، اے عمر بن عبدالعزیز! ابھی تمہارے پاؤں صحیح طور پر تختِ خلافت پر سجے بھی نہیں اور تم نے ایسے سخت فیصلے کرنا شروع کر دیئے ہیں۔ یاد رکھو! تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نگاہ میں ہو جو بہت جبار و قہار ہے۔“

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو اُس کا یہ خط ملا تو اگرچہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ سرایا حَلُم تھے تاہم اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتی بلکہ اُسی کے انداز میں عدل و انصاف اور جرأتِ ایمانی سے بھرپور جوابی خط روانہ کیا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے عمر بن ولید کو۔ تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور سلام ہو تمام رسولوں پر۔ اَمَّا بَعْدُ! اے عمر بن ولید! مجھے تمہاری طرف سے جو مکتوب ملا ہے اُس کا جواب اُسی انداز میں لکھ رہا ہوں۔ اے عمر بن ولید! تو ذرا اپنے آپ کو پہچان کہ کس کی اولاد ہے؟ تو ایک ایسی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جسے ذبیان بن دیان نے خریدا تھا اور اُس کی قیمت بیت المال سے ادا کی تھی پھر اس نے وہ لونڈی تیرے والد کو تحفہً دے دی تھی۔ اور اب تو اتنا شدید و سخت بن رہا ہے اور تو گمان کر رہا ہے کہ میں نے حدود اللہ نافذ کر کے ظلم کیا ہے۔ یاد رکھ! وہ زمین اور جاندا جو تمہارے خاندان والوں کے پاس ناحق تھی وہ میں نے ان کے حق داروں کو دے کر ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ظالم تو وہ شخص ہے جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کا لحاظ نہ رکھا اور جس نے ایسے لوگوں کو گورنر اور بلند حکومتی

عہدے دیئے جو صرف اپنے اہل خانہ اور اپنی اولاد کا بھلا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی مشکلات اور ان کے حقوق سے انہیں کوئی غرض نہ تھی اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے۔ اے عمر بن ولید! تجھ پر اور تیرے باپ پر بہت زیادہ افسوس ہے، بروز قیامت تم دونوں سے حق مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس دن لوگ تم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور مجھ سے زیادہ ظالم تو حجاج بن یوسف تھا جس نے ناحق خون بہایا اور مال حرام پر قبضہ کیا اور مجھ سے زیادہ ظالم و نافرمان تو وہ شخص تھا جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدُود قائم کرنے کے لئے قرہ بن شریک جیسے شخص کو مضر کا گورنر مقرر کیا حالانکہ وہ زرا جاہل تھا، اس نے شراب کو عام کیا اور آلاتِ لہو و لعب کو خوب پروان چڑھایا۔ اے عمر بن ولید! تمہیں مہلت ہے کہ جن جن کا حق تم پر ہے جلد ان کو واپس کر دو ورنہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے پاس جو بھی ایسا مال ہے کہ اس میں کسی غیر کا حق شامل ہے تو میں اسے حق داروں میں تقسیم کر دوں گا اور اگر تم غور و فکر کرو تو تمہارے اموال میں بہت سارے لوگوں کا حق شامل ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو دوسروں کے حق واپس کر دو۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَالسَّلَامُ اللّٰهِ عَلٰی الظَّالِمِيْنَ یعنی ہم پر سلامتی ہو اور ظالموں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے سلامتی نہ ہو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۳۳)

خاندان کی عزت کا پاس

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ اگرچہ بعض حکومتی

معاملات میں اپنے خاندان کے طریقہ کار کو پسند نہ فرماتے تھے۔ تاہم ان کو اپنے

خاندان کی عزت و حرمت کا کچھ کم پاس نہ تھا۔ ایک بار خوارِ ج نے اُن سے دورانِ مناظرہ کہا کہ جب تک آپ اپنے خاندان سے تَبْرُی (یعنی پزاری کا اظہار) اور اُن پر لعنت و ملامت نہ کریں گے ہم آپ کی اطاعت قبول نہ کریں گے۔ دریافت فرمایا: کیا تم نے فِرْعَوْن پر لعنت کی ہے؟ اُن سب نے کہا: نہیں۔ فرمایا: جب تم نے فِرْعَوْن جیسے کافر سے چِشْمِ پوشی کی تو میں اپنے خاندان سے کیوں نہ چِشْمِ پوشی کروں حالانکہ اس میں بُرے بھلے، نیک و بد ہر قسم کے لوگ تھے۔ (سیرت ابن جوزی، ص ۹۵)

بیت المال پر کس کا حق ہے؟

ایک موقع پر عبسہ بن سعید نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے کچھ مال دینے کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جو مال تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اگر وہ حلال کا ہے تو تمہیں وہی کافی ہے اور اگر حرام کا ہے تو اس پر مزید حرام کا اضافہ نہ کرو۔ پھر پوچھا: اچھا یہ بتاؤ! کیا تم محتاج ہو؟ عرض کی: ”نہیں۔“ کیا تمہارے ذمے قرض ہے؟ جواب اس مرتبہ بھی نفی میں تھا۔ فرمایا: پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں مسلمانوں کا مال بلا ضرورت تمہیں دے ڈالوں اور حقداروں کو یونہی چھوڑ دوں! ہاں! اگر تم مقرض ہوتے تو میں تمہارا قرضہ ادا کر سکتا تھا، اگر محتاج ہوتے تو بقدر کفایت تمہیں دے سکتا تھا، لہذا جو مال تمہارے پاس موجود ہے اُسی کو خرچ کرو، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ یہ مال کہاں سے جمع کیا ہے اور اپنی خیر مناؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اُس ذات (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کے سامنے پیش ہونا

پڑے جس کے ہاں تمہارا کوئی معاہدہ ہے نہ کسی حیلے بہانے کی گنجائش!

(سیرت ابن عبدالعزیز ص ۱۳۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے کیسی خیر خواہانہ نصیحت فرمائی، ہمیں بھی چاہئے کہ ہاتھوں ہاتھ اپنے مال و اسباب پر غور و فکر کریں کہ خدا نخواستہ کہیں اس میں حرام تو شامل نہیں، اگر ہو تو ہاتھوں ہاتھ اُس سے جان چھڑالیں۔

مالِ حرام کے شرعی احکام

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر

مشتمل رسالے ”پُر اسرار بھکاری“ کے صفحہ 27 پر ہے: حرام مال کی دو صورتیں ہیں:

(۱) ایک وہ حرام مال جو چوری، رشوت، غصب اور انہیں جیسے دیگر ذرائع سے

ملا ہو اس کو حاصل کرنے والا اس کا اصلاً یعنی بالکل مالک ہی نہیں بنتا اور اس مال

کے لئے شرعاً فرض ہے کہ جس کا ہے اُسی کو لوٹا دیا جائے وہ نہ رہا ہو تو وارثوں کو دے

اور ان کا بھی پتانہ چلے تو بلائیتِ ثواب فقیر پر خیرات کر دے (۲) دوسرا وہ حرام مال

جس میں قبضہ کر لینے سے ملکِ خبیث حاصل ہو جاتی ہے اور یہ وہ مال ہے جو کسی

عقیدِ فاسد کے ذریعہ حاصل ہوا ہو جیسے سود یا داڑھی مونڈنے یا خشخشی کرنے کی

اُجرت وغیرہ۔ اس کا بھی وہی حکم ہے مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کے ورثا ہی

کو لوٹانا فرض نہیں اولاً فقیر کو بھی بلائیتِ ثواب خیرات میں دے سکتا ہے۔ البتہ افضل

نبی ہے کہ مالک یاؤ رثا کو لوٹا دے۔ (ماخوذ از: فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۵۵۱، ۵۵۲ وغیرہ)

کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی
قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی

(پراسرار بھکاری، ص ۲۷)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

قُسْطَنْطِيْنِيَّةِ كِے مسلمان قیدیوں کو رقم بھیجی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے قُسْطَنْطِيْنِيَّةِ كِے

مسلمان قیدیوں کے نام خط لکھا: ”أَمَّا بَعْدُ: تم اپنے آپ کو قیدی تصور کرتے ہو؟ مَعَاذَ

اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! تم قیدی نہیں، بلکہ راہِ خدائِ عَزَّوَجَلَّ میں محسوس (یعنی روکے گئے)

ہو اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں اپنی رعایا میں کوئی چیز تقسیم کرتا ہوں تو تمہارے گھر

والوں کو اچھا اور زیادہ حصہ پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لئے پانچ پانچ دینار بھیج رہا ہوں

اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ زیادہ بھیجنے کی صورت میں رومی اُس کو روک لیں گے اور تم تک

نہیں پہنچنے دے گا تو اس سے زیادہ بھیجتا، اور میں فلاں صاحب کو تمہارے پاس بھیج

رہا ہوں وہ رومیوں کو منہ مانگا معاوضہ دے کر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، مرد، عورت،

آزاد اور غلام سب کو رہا کرانے گا، والسلام۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۰)

بجل کا خوف

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ فرماتے ہیں کہ میں نے

جس کسی کو بھی کچھ دیا اُسے بہت تھوڑا سمجھا کیونکہ مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا آتی ہے کہ میں اُس سے اپنے اسلامی بھائیوں کے لئے جنت کا سوال کروں اور دنیا کے معاملے میں ان پر بخل کروں یہاں تک کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہو: لَوْ كَانَتْ الْجَنَّةُ بَيْدِكَ كُنْتَ بِهَا أَبْخَلَ اِگر جنت تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تم اس میں بھی بخل کرتے؟ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۷)

کنیز واپس کر دی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس ایک کنیز تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت پسند تھی، خلیفہ بننے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زوجہ سے کہا بھی تھا: ”یہ کنیز مجھے بہہ کر دو۔“ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ اُس کنیز کو تیار کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی: ”میں یہ کنیز بخوشی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتی ہوں کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش ہوئے۔ جب وہ تنہائی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب آئی تو اُس کا حسن و جمال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت بھایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُس سے قُرْبَتِ اِختیار کرنا چاہی

مگر ایک دم رُک گئے اور اس کنیز سے کہا: ”بیٹھ جاؤ، اور پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور فاطمہ کے پاس تم کہاں سے آئیں؟“ وہ کہنے لگی: میں ”کوفہ“ کے گورنر کی غلامی میں تھی اور وہ گورنر حجاج بن یوسف کا بہت مقروض تھا، اُس نے مجھے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ ان دنوں میرا لڑکپن تھا، پھر عبد الملک نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو تحفے میں دے دیا اور یوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ گئی۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا: ”اُس گورنر کا کیا ہوا؟“ کہنے لگی: ”وہ فوت ہو چکا ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: ”کیا اُس کی کوئی اولاد ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”جی ہاں! اس کا ایک لڑکا ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استغشاس فرمایا: ”اس کا کیا حال ہے؟“ کہنے لگی: ”اس کا حال بہت برا ہے، بہت زیادہ مُفلسی کی زندگی گزار رہا ہے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُسی وقت کوفہ کے موجودہ گورنر ”عبدالحمید“ کو خط لکھا کہ فلاں شخص کو فوراً میرے پاس بھیج دو، فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: ”تجھ پر کتنا قرض ہے؟“ تو اُس نے جتنا بتایا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا ادا کر دیا۔ پھر فرمایا: ”یہ کنیز بھی تمہاری ہے، اسے لے جاؤ۔“ یہ کہتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کنیز اس کے حوالے کر دی۔

اس نے کہا: ”امیر المؤمنین! یہ کنیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی رکھ لیجئے۔“
 آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں۔“ اس نے پیش
 کش کی: ”اسے مجھ سے خرید لیں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خریدنے سے بھی
 انکار کر دیا اور فرمایا: ”جاؤ، اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔“ یہ سن کر وہ کنیز کہنے
 لگی: ”یا امیر المؤمنین! آپ تو مجھے بہت چاہتے تھے، اب وہ چاہت کہاں گئی؟“
 آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”وہ محبت و چاہت اپنی جگہ برقرار ہے بلکہ اب تو اور
 زیادہ بڑھ گئی ہے۔“ پھر ان دونوں کو روانہ کر دیا۔ (عیون الحکایات، ص ۵۴)

خارجیوں نے آپ سے جنگ نہیں کی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی سیرت و کردار سے
 آپ کے دشمن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ خارجی گروہ جو ہمیشہ خلفاء کے
 مقابلے میں علمِ بغاوت بلند کرتا رہتا تھا، وہ لوگ پہلے پہل حضرت سیدنا عمر بن
 عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو آپ رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ کی سیرت اور طرز حکومت کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ
 ایسے عظیم شخص سے جنگ کرنا اور اُسے قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، لہذا وہ اپنے اس
 مذموم فعل سے باز رہے اور یہ اعتراف کیا کہ یہ مرد مجاہد واقعی خلافت کے لائق ہے۔
 چنانچہ جب تک اللہ عزوجل نے چاہا آپ نہایت عدل و انصاف سے امورِ خلافت

انجام دیتے رہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۶۷)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرِحْمَتِ هُوَ أَوْ أَنْ كَىٰ صَدَقَ هِمَارِي مَغْفِرَتِ هُوَ

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

بُزُرْكَانِ دِينِ كَىٰ بَارِكَاهُونَ سَيِّ رَجُوعِ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر اگرچہ خود بھی تقویٰ

و پرہیزگاری کے عظیم مرتبے پر فائز تھے مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقتاً فوقتاً دیگر بُزُرْكَانِ دینِ رَحْمَتِہُمُ اللہُ الْمُبِین سے بھی نصیحت و عبرت کے مدنی پھول حاصل کیا کرتے تھے، ایسی ہی 14 حکایات و روایات اور مکتوبات ملاحظہ کیجئے:

(۱) موت کو اپنے سر ہانے رکھئے

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے حضرت شیخ

ابوحازم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو انہوں نے فرمایا:

اِصْطَبِحْ ثُمَّ اجْعَلِ الْمَوْتَ عِنْدَ رَأْسِكَ ثُمَّ انْظُرْ مَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةُ فَخُذْ فِيهِ الْآنَ وَمَا تُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِيكَ تِلْكَ السَّاعَةُ فَدَعِ الْآنَ يَعْنِي

زمین پر لیٹ جائیے اور موت کو اپنے سر کے پاس سمجھئے، پھر غور کیجئے کہ اُس گھڑی آپ کو کونسی چیز محبوب ہوگی؟ پس اس چیز کو فوراً اختیار کر لیجئے اور اُس وقت جس شے کو آپ ناپسند کریں اُسے

ہاتھوں ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۵۹)

(۲) کسی سے امداد کی توقع نہ رکھئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں بذریعہ مکتوب درخواست کی کہ ”مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جو میرے تمام کاموں میں مددگار ثابت ہو۔“ آپ نے اس کے جواب میں لکھا: ”اگر اللہ عزوجل آپ کا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی امداد کی توقع نہ رکھئے، اُس دن کو بہت نزدیک تھوڑے کیجئے جس دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔“ (تذکرۃ الاولیاء، ج ۱، ص ۳۹)

(۳) یہ نصیحت کافی ہے

حضرت سیدنا ابوقلا بہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس گئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابوقلا بہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے اب تک کوئی خلیفہ باقی نہیں رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے کہا کہ مجھے اور نصیحت کیجئے۔ انہوں نے کہا: اب پہلا خلیفہ جو انتقال کرے گا وہ آپ ہوں گے۔ کہا: اور بھی نصیحت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابوقلا بہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر حق تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کچھ خوف نہیں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہے، تو پھر آپ کس کی پناہ ڈھونڈیں گے یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرمانے لگے: بس یہ

نصیحت مجھے کافی ہے۔

(التبر المسبوك فی نصیحة المملوك، باب ان یشاق ان رویة العلماء، ج ۱، ص ۵)

(۴) بُری خلافت کے گواہ ہوں

حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو خط لکھا: ”نبی پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ

وسلم سے اس حال میں ملنے سے ڈریئے کہ آپ اُن کی رسالت کی گواہی دیں اور وہ

اپنی اُمت میں آپ کی بُری خلافت کے گواہ ہوں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۵۹)

(۵) شرفا کو ذمہ داریاں دیجئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا حسن

بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو بذریعہ مکتوب درخواست کی کہ مجھے ایسے لوگوں کی نشاندہی

فرمائیے جن سے میں حکمِ الہی نافذ کرنے میں مدد لے سکوں تو انہوں نے جواب میں

لکھا: اہل دین آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور رہے اہل دنیا تو ان کو آپ

خود قریب نہیں کرنا چاہیں گے لیکن آپ شرفا کو ذمہ داریاں دیجئے کیونکہ وہ اپنی شرافت

کو حیانت سے داغدار نہیں کریں گے۔ (احیاء العلوم، ج ۱، ص ۹۹)

(۶) مختصر ترین نصیحت

حضرت سیدنا ابوسعید علیہ رحمۃ اللہ المجید نے لکھا: یا امیر المؤمنین! لمبی

زندگی کی انتہا اُس فنا تک ہے جو معلوم ہے لہذا آپ اس فنا سے وہ حصہ لیجئے جو باقی

رہنے والا نہیں، اپنی اس بقاء کے لئے جس نے فنا نہیں ہونا، والسلام۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے خط پڑھا تو رو پڑے، فرمایا: ابو سعید علیہ رحمۃ اللہ المجید نے انتہائی مختصر نصیحت کی ہے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۵۱)

(۷) مطلبی کی صحبت سے بچئے

حضرت سیدنا محمد بن کعب علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے کہا: ”ایسے شخص کو ہرگز اپنا مصاحب نہ بنائیے جو اپنی حاجت کے پورے ہونے تک آپ کے آگے پیچھے ہو، جب اُس کا مطلب نکل جائے تو اس کی آپ سے محبت بھی ختم ہو جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنا مصاحب بنائیے جو بھلائی میں بلند مرتبہ والے اور حق کے معاملہ میں صبر والے ہوں، یہی لوگ نفس کے خلاف آپ کے مددگار ہوں گے اور انکی حمایت و مدد آپ کے لئے کافی ہوگی۔“

(سیرت ابن جوزی ص ۱۷)

(۸) کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی

حضرت زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ملاقات کے لئے آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے بھی اُمورِ خلافت کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے پوچھا: یا امیر المؤمنین! اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس کے خلاف ایک شخص نے دعویٰ دائر

کر رکھا ہو؟ فرمایا: ایسا شخص بُری حالت میں ہے۔ پوچھا: اگر دو ہوں تو؟ فرمایا: یہ اس سے بھی بُری حالت ہے۔ پوچھا: اگر تین ہوں تو؟ فرمایا: اس کے لئے تو زندگی کا لطف ہی باقی نہ رہے گا۔ حضرت زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تو پھر سنئے **یا امیر المؤمنین!** امت محمدی کا ہر شخص قیامت کے دن آپ کا فریق ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اتنا روئے کہ حضرت زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں نے ان سے یہ بات نہ کہی ہوتی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۶۴)

(۹) بے ہوش ہو کر گر گئے

حضرت سیدنا نایزید رقاشی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: **”یا امیر المؤمنین!!** یاد رکھئے کہ آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں جو مرجائیں گے۔ (یعنی آپ سے پہلے گزرنے والے خلفاء کو موت نے آیا تھا۔) “یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز رونے لگے اور عرض کرنے لگے: ”کچھ اور بھی فرمائیے۔“ تو آپ نے کہا: **”یا امیر المؤمنین! حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آپ تک آپ کے سارے آباؤ اجداد فوت ہو چکے ہیں۔“** یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور عرض کی: ”مزید کچھ بتائیے۔“ حضرت سیدنا نایزید رقاشی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے فرمایا: ”آپ کے اور جنت و دوزخ

کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے۔ (یعنی دوزخ میں ڈالا جائے گا یا جنت میں داخل کیا جائے گا۔)

یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

(احیاء العلوم، کتاب الخوف والرجاء ج ۴، ص ۲۲۹)

(۱۰) آنسوؤں سے چولہا بجھ گیا

ایک بزرگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ملاقات

کے لئے تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے سامنے آگ کا چولہا رکھا تھا، آپ نے

اُن سے کہا: ”مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔“ انہوں نے فرمایا: **امیر المؤمنین!** آپ کو

کسی کے جنت میں داخل ہو جانے سے کیا فائدہ؟ جب کہ آپ خود جہنم میں جا رہے

ہوں، اور کسی کے جہنم میں داخل ہونے سے آپ کا کیا نقصان؟ جب آپ خود جنت

میں جا رہے ہوں۔“ یہ سن کر حضرت عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا روئے کہ سامنے رکھا

آگ کا چولہا آپ کے آنسوؤں سے بجھ گیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۶۴)

(۱۱) نصیحتوں بھرا مکتوب

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت

سیدنا سالم بن عبدالرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح

تھا: **السَّلَامُ عَلَیْكُمْ! اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد عمر بن عبدالعزیز عرض کرتا ہے:**

”میرے مشورے کے بغیر ہی اُمورِ خلافت میرے سپرد کر دیئے گئے ہیں حالانکہ میں

نے کبھی بھی خلافت کی خواہش نہ کی تھی، اللہ ربُّ العزّت کے حکم سے مجھے خلافت کی

ذمہ داری ملی ہے، لہذا میں اُمورِ خلافت کے تمام مسائل میں اُسی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے اچھے اعمال اور مخلوق پر شفقت و نرمی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہی ذات میری مدد کرنے والی ہے، (اے میرے بھائی) جب آپ کے پاس میری یہ تحریر پہنچے تو مجھے **امیر المؤمنین** حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اُن کے فیصلوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ اپنے دورِ خلافت میں کیسا رویہ اختیار کیا؟ میں اُمورِ خلافت میں ان کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، **اللہ عَزَّوَجَلَّ** میری مدد فرمائے گا۔

وَالسَّلَامُ: عمر بن عبدالعزیز

جب یہ مکتوب حضرت سیدنا سالم بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچا تو انہوں نے اس کے جواب میں کچھ یوں لکھا: ”اے عمر بن عبدالعزیز (عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَدِير) آپ پر سلامتی ہو، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر دُرُود و سلام کے بعد میں کہتا ہوں: ”اللہ رب العزت قادرِ مُطَّلَق ہے، اس کی عظمت و بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی غیر کے شریک ہونے سے مُنَزَّہ و مُبَرَّأ ہے، جب اس نے چاہا دنیا کو پیدا فرمایا اور جب تک چاہے گا باقی رکھے گا، اس نے دنیا کی ابتدا و انتہا کے درمیان بہت قلیل مدت رکھی جو حقیقتاً دن کے کچھ حصے کے برابر بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور اس میں موجود تمام مخلوقات کی فنا کا فیصلہ بھی فرمادیا اور یہ سب چیزیں فانی ہیں، صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

ذات ہی کو بقاء ہے، اس کے سوا باقی سب چیزیں فانی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهٗ
الْحُكْمُ وَآيَةٌ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: ہر چیز فانی ہے سوا اس

کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی

طرف پھر جاؤ گے۔

(پ ۲۰، القصص: ۸۸)

(اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ!) بے شک دنیا والے دنیا کی کسی چیز پر

قادر نہیں، وہ خود مختار نہیں، جب انہیں حکم الہی ہوگا وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے اور یہ

بے وفاداریاں کو چھوڑ دے گی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے (لوگوں کی رہنمائی کے لئے) قرآن کریم

اور دیگر آسمانی کُتُب نازل فرمائیں، انبیاء و رُسُل علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث فرمائے،

اپنی کتاب میں جزاء و سزا بیان فرمائی، سمجھانے کے لئے مثالیں بیان فرمائیں اور

اپنے دین کی وضاحت قرآن کریم میں فرمادی، حرام و حلال اشیاء کا بیان اسی کتاب

میں فرمادیا اور عبرت آموز واقعات اس میں بیان فرمائے۔ اے عمر بن عبدالعزیز

(رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)! کیا آپ سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا کہ آپ ہر ایک انسان

کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ آپ کو تو خلافت دی گئی ہے، اس لئے بے شک

آپ کے لئے بھی اتنا ہی کھانا اور لباس کافی ہے جتنا ایک عام انسان کے لئے کافی

ہوتا ہے بے شک آپ کو یہ ذمہ داری اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ملی ہے۔

اگر آپ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو نقصان و بربادی سے بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچئے، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک جو لوگ آپ سے پہلے گزرے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، جو تر قیاتی کام کرنے تھے کئے، جن چیزوں کو ختم کرنا تھا ختم کیا، اور ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ اصل طریقہ یہی ہے جو میں نے اختیار کیا ہے، ان میں سے بعض لوگوں نے قابل گرفت لوگوں سے بھی نہایت نرمی سے کام لیا اور ان کی سرکشی کے باوجود انہیں بے جا ڈھیل دی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں پر آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ اگر آپ بھی کسی قابل گرفت شخص سے نرمی کا برتاؤ کریں گے تو اس کا انجام دیکھیں گے اور اگر آپ نے کسی مجرم سے کسی دینی معاملہ میں نرمی کا برتاؤ کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر بھی آزمائش کے دروازے کھول دے گا، اگر آپ کسی کو گورنر بننے کے قابل نہ سمجھیں تو بے دھڑک اس کو عہدے سے معزول کر دیجئے اور اس بات سے نہ ڈریئے کہ اب کون گورنر و حاکم بنے گا؟ اللہ ربُّ العالمین آپ کے لئے ان نااہل گورنروں اور حاکموں سے بھی اچھے مددگار لوگ عطا فرما دے گا۔ آپ مخلوق کی پرواہ مت کیجئے اور اپنی نیت کو خالص رکھئے، ہر انسان کی مدد اس کی نیت کے مطابق کی جاتی ہے، جس کی نیت کامل ہے تو اس کو اجر بھی کامل ہی ملے گا اور جس کی نیت میں فُتور ہوگا اس کو صلہ بھی ایسا ہی دیا

جائے گا۔ اے عمر بن عبدالعزیز! اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت کوئی آپ کے خلاف ظلم کا دعویٰ دار نہ ہو اور جو لوگ آپ سے پہلے گزر گئے وہ آپ پر رشک کریں کہ دیکھو! اس کے تبعین کو اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کی رعایا اس سے خوش ہے تو آپ ایسے اعمال کیجئے کہ اس دن یہ مقام حاصل ہو جائے اور بے شک اللہ عزوجل ہی کی طرف سے نیکی کرنے کی قوت دی جاتی ہے اور برائی سے بھی وہی ذات بچانے والی ہے۔ اور جو لوگ موت اور اس کی ہولناکیوں سے خوف کھاتے تھے مرنے کے بعد ان کی وہ آنکھیں ان کے چہروں پر بہہ گئیں جو دنیوی لذتوں سے سیر ہی نہ ہوتی تھیں، ان کے پیٹ پھٹ گئے اور وہ تمام چیزیں بھی ضائع ہو گئیں جو وہ کھایا کرتے تھے، ان کی وہ گردنیں جو نرم و نازک تکیوں پر آرام کرنے کی عادی تھیں آج قبر کی مٹی میں بوسیدہ حالت میں پڑی ہیں۔ جب وہ دنیا میں تھے تو لوگ ان سے خوش ہوتے اور ان کی خدمت کرتے لیکن آج یہی لوگ موت کے بعد ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے جسم گل سرد گئے، اگر ان لوگوں کو اور ان کی دنیوی غذاؤں کو آج کسی مسکین کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کی بدبو سے اذیت محسوس کرے، اب اگر ان کے تعفن زدہ جسموں پر ڈھیر ساری خوشبو ملی جائے تب بھی ان کی بدبو ختم نہ ہو۔ ہاں! اللہ عزوجل جسے چاہے اپنی رحمتِ خاصہ سے حصہ عطا فرمائے اور اسے دائمی نعمتیں عطا فرمائے، بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے عمر بن عبدالعزیز!

آپ کے ساتھ واقعی ایک بہت بڑا معاملہ درپیش ہے، آپ کبھی بھی جزیہ اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے ایسے عامل مقرر نہ کیجئے گا جو بہت زیادہ سختی کریں اور لوگوں سے بہت زیادہ تڑش گوتی سے پیش آئیں اور بے جا ان کا خون بہائیں۔ اے عمر! اس طرح مال جمع کرنے سے بچئے، ایسی خون ریزی سے ہمیشہ کوسوں دور بھاگئے، اور اگر آپ کو کسی گورنر کے بارے میں یہ خبر ملے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور پھر بھی آپ نے اسے گورنری کے عہدے سے معزول نہ کیا تو یاد رکھئے! آپ کو جہنم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور ذلت و رسوائی آپ کے گلے کا ہار ہوگی، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ ان تمام ظلم و زیادتی والے اُمور سے اجتناب کرتے رہے تو دلی سکون حاصل ہوگا اور آپ مطمئن رہیں گے (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ)۔

اے عمر بن عبدالعزیز! آپ نے لکھا کہ میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فیصلوں کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کروں تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے مطابق فیصلے کئے، جیسی ان کی رعایا تھی اب ایسی نہیں، ان کے فیصلے اس دور کے اعتبار سے تھے، آپ اپنے دور کے اعتبار سے فیصلے کیجئے، اور اپنے دور کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے معاملات کیجئے، اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ آپ کو بھی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ

عنه جیسی مدد و نصرت عطا فرمائے گا اور جنت میں ان کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اے عمر بن عبدالعزیز! آپ یہ آیت مبارکہ پیش نظر رکھئے:

وَمَا أُمِرُّدُّ أَنْ أُوخَلِّقُكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَيْتُمْ عَنْهُ ۗ إِنَّ أُمِرُّدُّ إِلَّا إِلَىٰ صُلَاحٍ مَّا اسْتَطَعْتَ ۗ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگیں، میں تو جہاں تک بے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف

سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی

طرف رجوع کرتا ہوں۔

اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دارین کی سعادت میں عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وَالسَّلَامُ: سالم بن عبد اللہ

(عیون الحکایات ص ۷۹ ملخصاً)

(۱۲) تقدیر پر صبر کیجئے

حضرت سیدنا عبید اللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا

عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو مکتوب میں لکھا: ”اَسْ خَدَائِي بَزْرِكِ وَبَرْتَرِكِ

نام سے شروع جس نے سورتیں نازل فرمائیں اور تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے

ہیں، اَمَّا بَعْدُ! اے عمر! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈریئے بے شک خوفِ خدا فائدہ دیتا ہے اور

آنے والی تقدیر پر صبر کیجئے اور اس پر راضی رہئے اگرچہ تقدیر آپ کے پاس کسی ایسی چیز کو لائے جو آپ کو پسند نہ ہو، اور انسان کی ہر وہ عیش والی زندگی جس پر وہ خوش ہوتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب سارے عیش ختم ہو جائیں گے، والسلام۔“

(حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۱۶)

(۱۳) خالد بن صفوان کی ناصحانہ تقریر

خالد بن صفوان حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس آئے اور عرض کی: امیر المؤمنین! آپ اپنی مدح و ثنا کو پسند فرمائیں گے؟ فرمایا: نہیں، عرض کی: تو پھر وعظ و نصیحت کو پسند فرمائیں گے؟ فرمایا: ہاں! خالد نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا: اما بعد: اللہ عزوجل نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اسے نہ تو ان کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ ان کی مخصیصیت سے اسے کوئی اندیشہ ہے۔ انسانوں کے مراتب اور ان کی رائے مختلف ہے اور عَرَب سب سے بدتر مرتبہ میں تھے، بُت پرستی، پتھر تراشی اور اونٹوں کی گلہ بانی ان کا پیشہ تھا، جب اللہ عزوجل نے ارادہ فرمایا کہ ان میں اپنا رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) بھیجے اور ان میں اپنی رحمت عام کرے تو انہیں میں سے ایک رسول محترم کو بھیجا، جن کے لئے تمہاری مشقت ناقابل برداشت ہے جو تمہاری خیر خواہی کے خریص ہیں اور جو اہل ایمان کے لئے نہایت شفیق و مہربان ہیں۔“ یہ عظیم الشان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تھے۔ مگر ان تمام اوصاف و خصائص کے باوجود لوگوں نے آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو جسمانی اذیتیں پہنچائیں، آپ پر طرح طرح کی آوازیں گسیں اور آپ کو وطن چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے واضح دلیل موجود تھی، آپ حُکْمِ الہی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، نہ اس کی اجازت کے بغیر نکلتے تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ ملائکہ کے ذریعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی مدد کرتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو غیب کی خبریں دیتا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ضمانت دی تھی کہ آخر کار کامیابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے قدم چومے گی اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو جہاد کا حکم ہوا تو بحسن و خوبی حُکْمِ الہی کی تعمیل کی۔ بہر حال آپ کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ، اظہارِ حق، دشمنوں سے جہاد اور احکامِ خداوندی کی تعمیل میں گزری یہاں تک کہ اسی روش پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافتِ نبوت سے سرفراز ہوئے تو عرب کے چند قبائل نے کہا ہم نماز پڑھا کریں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، مگر حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں وہ تمام فرائض بجالانے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے، آپ نے مُرْتَدِّین کے مقابلہ کے لئے تلوارِ نیام سے نکالی، جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل باطل پر غالب آئے، ان کی عزت و عُزْر کو خاک میں ملا دیا اور زمین ان کے خون سے سیراب کر ڈالی تا آنکہ وہ جس

دروازے سے نکلے تھے انہیں دوبارہ اسی میں داخل کر دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حاصل ہونے والے ”مالِ فے“ سے معمولی سی چیزیں قبول کیں، یعنی ایک دودھ دینے والی اونٹنی جس کا دودھ پیا کرتے تھے، ایک اونٹ جس پر پانی ڈھویا جاتا تھا اور جشنِ لونڈی جو آپ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ بارِ خلافت ان کے حلق کا کاٹھا اور کندھے کا بوجھ ہے، چنانچہ آپ نے یہ بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیا اور نبی پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی سنت پر (چلتے ہوئے) اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارِ خلافت سنبھالا، شہر آباد کئے، سختی و نرمی کو باہم ملایا، نہایت مستعدی و خوش اُسٹوبی سے اس کو نبھایا اور ہر کام کے لئے موزوں ترین افراد مقرر کئے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے جو فیروز کہلاتا تھا اور جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ وہ لوگوں سے پتہ کر کے بتائیں کہ ان کا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے باواز بند الحمد للہ کہی کہ وہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے قرضوں پر غور کیا تو ان کی ادائیگی کا بار اپنی اولاد کے ذمہ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جائیداد فروخت کر کے اسے بیٹے المال میں داخل کر دیا۔ یہ سلسلہ خلافت چلتا رہا یہاں تک کہ آپ دنیا کے سامنے

ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے آپ کو جنم دیا، سلطنت کی آغوش میں پلے، اُسی کے پستانوں سے دودھ پیا اور ممکن ذرائع سے سلطنت کے متلاشی رہے یہاں تک کہ جب وہ اپنے تمام خطرات کے ساتھ آپ تک پہنچی تو آپ نے اسے نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا، آپ نے معمولی توشہ کے علاوہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کو وہیں ڈال دیا جہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ڈالا تھا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بے حد شکر ہے کہ آپ کے ذریعے ہمارے گناہوں کو اس نے زائل اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دیا اور آپ کی بدولت ہمیں راست گو اور راست باز بنا دیا۔ بس آپ اپنی اس روش پر چلتے رہیے اور ادھر ادھر اِتِّفَاتِ نہ کیجئے کیونکہ حق پر ہوتے ہوئے کوئی چیز ذلیل نہیں ہو سکتی اور نہ باطل پر ہوتے ہوئے کوئی چیز معزز ہوگی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۱)

(۱۴) دھوکے باز دُلہن

حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو یہ نصیحت آموز خط لکھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
 اَمَّا بَعْدُ يَا امیرَ الْمُؤْمِنِینِ! یاد رکھئے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کو بچھاڑنا بے حد ضروری ہے، جو اسے شکست دیتا ہے یہ اس کی تعظیم کرتی ہے اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ دُنیا وہ میٹھا زہر ہے جسے لوگ بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں زادِ راہ یہ ہے کہ دنیوی آسائشوں کو ترک کر دیا جائے، دنیا میں تنگدستی غناء ہے، جو یہاں فقر و فاقہ کا شکار ہے

درحقیقت وہی غنی ہے۔ **یا امیر المؤمنین!** دنیا میں اس مریض کی طرح رہئے جو اپنے مرض کے علاج کی خاطر دواؤں کی کڑواہٹ اور تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ اس کا زخم اور مرض مزید نہ بڑھے، اس تھوڑی تکلیف کو برداشت کر لیجئے **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بے شک عظمت اور فضیلت کے لائق وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، انکساری و تواضع سے چلتے ہیں، انکارِ رزقِ حلال و طیب ہوتا ہے، ہمیشہ حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ خشکی میں بھی ایسے خوفزدہ رہتے ہیں جیسے سمندر میں مسافر اور خوشحالی میں ایسے دعائیں کرتے ہیں جیسے مصائب و آلام میں دعا کی جاتی ہے۔ اگر موت کا وقت متعین نہ ہوتا تو **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** سے ملاقات کے شوق، ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے اجسام میں لحد بھر بھی نہ ٹھہرتیں، خالقِ لہم **يَزْكُ** کی عظمت اور ہیبت ان کے دلوں میں راسخ ہے اور مخلوق ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی (یعنی وہ فقط رضائے الہی **عَزَّوَجَلَّ** کے طلب گار ہوتے ہیں)۔ **یا امیر المؤمنین!** یاد رکھئے کہ غور و فکر کرنا نیکیوں اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں پر ندامت برائیوں کو چھوڑنے میں مدد کرتی ہے، دنیاوی ساز و سامان کتنا وافر کیوں نہ ہو باقی رہنے والا نہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس تکلیف کا برداشت کرنا جس کے بعد ہمیشہ کا آرام ملے اُس راحت سے بہتر ہے جس کے بعد طویل غم و اَلَم، تکالیف اور ندامت و ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس بے وفا، شکست خورہ اور ظالم دنیا سے آخرت کی

زندگی کئی درجے بہتر ہے۔ یہ دُنیا بڑی دھوکے باز ہے، لوگوں کے سامنے خوب بن سنور کر آتی ہے اور تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، لوگ اس کی جھوٹی اداؤں کی وجہ سے ہلاکت میں جا پڑتے ہیں، یہ اس دھوکے باز دلہن کی طرح ہے جو خوب سچی سجائی ہو، اس کا بناوٹی حسن و جمال آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے، مگر جب اس کا شوہر اس کے قریب جائے تو وہ اسے ظالمانہ طریقے سے قتل کر ڈالے۔ **یا امیر المؤمنین!** عبرت پکڑنے والے بہت کم ہیں، اب تو حال یہ ہے کہ دُنیا کی محبتِ عشق کے درجے تک جا پہنچی ہے، دُنیا اور اس کا عاشق دونوں ہی ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں، دُنیا کو پانے والا سمجھتا ہے کہ میری کامیابیوں کی معراج ہوگئی اور اپنے مقصدِ حیات اور میدانِ محشر میں ہونے والے حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے، وہ نیکیاں کمانے کے مواقع کھود دیتا ہے پھر جب حالتِ نزع میں سختیاں طاری ہوتی ہیں تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنی کامیابیوں پر پُھولے نہ سمانے والا یہ شخص اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو دُنیا سے بُری طرح دھوکہ کھا چکا ہے، اس کے بعد وہ عاشقِ نامراد کی مانند دُنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بے وفادار دنیا کسی اور کو دھوکا دینے چلی جاتی ہے۔ **یا امیر المؤمنین!** اس دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچ کر رہئے، اس دنیا کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جسے ہاتھ لگائیں تو نرم و نازک معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے، اس دُنیا سے ہرگز محبت نہ کیجئے گا کیونکہ اس کا انجام بہت بُرا ہے۔ دُنیا کا عاشق جب دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ

اسے طرح طرح سے پریشان کرتی ہے، اس کی خوشیوں کو غم میں بدل دیتی ہے، جو اس کی فانی اشیاء کے ملنے پر خوش ہوتا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑا، اس کا فائدہ پانے والا درحقیقت شدید نقصان میں ہے، دنیاوی آسائشوں تک پہنچنے کے لئے انسان تکالیف و مصائب کا سامنا کرتا ہے، جب اسے خوشی ملتی ہے تو یہ خوشی غم و ملال میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی خوشی دائمی ہے اور نہ ہی اس کی نعمتیں، ان کا ساتھ تو کچھ دیر کا ہے۔ **یا امیر المؤمنین!** اس دنیا کو تارک الدنیا کی نظر سے دیکھئے نہ کہ عاشقِ دنیا کی نظر سے، جو اس دارِ ناپائیدار میں آیا وہ یہاں سے ضرور رخصت ہوگا۔ یہاں سے جانے والا کبھی واپس نہیں آتا اور نہ کوئی اس کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو دنیا اور اس کے خزانوں کی چاہیاں عطا کی گئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ان کی طلب سے منع نہ فرمایا گیا تھا اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان چیزوں کو قبول بھی فرما لیتے تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے مرتبہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی اور جس مقام و مرتبہ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ملتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جانتے تھے کہ **اللہ عَزَّوَجَلَّ** کو یہ دنیا ناپسند ہے لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بھی اس کو قبول نہ فرمایا، جب **اللہ عَزَّوَجَلَّ** کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ والہ وسلم نے بھی اس کو کوئی وقعت نہ دی، اگر آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اسے قبول فرما لیتے تو لوگوں کے لئے دلیل بن جاتی کہ شاید آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ناپسند ہو اور آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اسے قبول فرمائیں۔ **یا امیر المؤمنین!** موت سے پہلے جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کر لیجئے ورنہ بوقتِ نزاع فائدہ نہ ہوگا، اللہ عَزَّوَجَلَّ ان نصیحت آموز باتوں سے ہمیں اور آپ کو خوب نفع عطا فرمائے، اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام (عیون الحکایات ص ۹۹ مُلَخَّصًا)

دنیا کی مذمت پر چار احادیثِ مبارکہ

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 50 صفحات پر

مشمول رسالے ”جنتی محل کا سودا“ کے صفحہ 35 پر ہے:

﴿1﴾ دنیا کے لئے مال جمع کرنے والے بے عقل ہیں

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم، رسولِ مُحْتَشَم، سراپا جو دو کرم، تاجدارِ کرم، شہنشاہِ اِرم صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کافرمانِ عمرت نشان ہے: ”الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَّا دَارَ لَهُ وَمَالٌ مِّنْ لَّا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهُ، يَعْنِي دُنْيَا أُسْ كَا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اُس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اس

کے لئے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔“

(مَشْكَاهُ الْمَصَابِيح ج ۲، ص ۲۵۰، حدیث ۵۲۱۱)

﴿2﴾ دُنیا کی مَحَبَّتِ بَاعِثِ نَقْصَانِ آخِرَتِ هِے

حضرت سَیِّدُنا اَبُو مُوسَى اشْعَرِی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

ہاشمی، مکی مدنی، محمد عَزْرَبی صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہِ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: مَنْ

أَحَبَّ دُنْيَاہُ أَضْرَبَ بِآخِرَتِہِ وَ مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَہُ أَضْرَبَ بِدُنْيَاہُ فَأَثِرُوا مَا بَقِيَ عَلَي مَا

يَفْنِي یعنی جس نے دُنیا سے مَحَبَّت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جس نے

آخرت سے مَحَبَّت کی وہ اپنی دُنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، تو تم باقی رہنے والی (آخرت)

کو فنا ہونے والی (دُنیا) پر ترجیح دو۔“ (المُسْتَدْرَك لِلْحَاجِمِ ج ۵، ص ۴۵۳، حدیث ۷۹۶۷)

﴿3﴾ آخِرَتِ كِے مَقَابِلِے مِیں دُنیا كِے حِیثِیْتِ

حضرت سَیِّدُنا مُسْتَوْدِیْن شَدَّادِ رَضِی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ

كِے مَحْبُوب، اَدَانائے غُیُوبِہ مُنْزَہ عَنِ الْعُیُُوبِ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہِ وَسَلَّم نے

اِرْشَادِ فرمایا: ”وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِی الْآخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا یَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هَذِهِ

فِی الْیَمِیْنِ فَلِیَنْظُرَ بِمَ یَرْجِعُ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ كِے قِسم! آخرت كِے مَقَابِلِے مِیں دُنیا تِنِ

سِے ہِے جِیسے كوئی اِپنی اِس اُنْگلی كو سَمْنَدِرِے مِیں ڈالے تو وہ دِیکھے کہ اِس اُنْگلی پَر كِتنا پانی

آیا۔“ (صَحِیحُ مُسْلِمْ، ص ۱۵۲۹، حدیث ۲۸۵۸)

مُفَسِّرِ شَہِیْرِ حَکِیْمِ الْاُمَمِ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الجنان فرماتے

ہیں: یہ بھی فقط سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ فانی اور مُتَنَاہی (مُ-ت-ناہی یعنی انتہا کو پہنچنے والے) کو باقی غیر فانی غیر مُتَنَاہی سے (اتنی) وجہ نسبت بھی نہیں جو (کہ) بھگی اُنگی کی تری کو سمندر سے ہے۔ خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے، عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اُس کی دُنیا بہت ہی عظیم ہے، غافل کی نماز بھی دُنیا ہے، جو (کہ) وہ نام مُمود کے لئے ادا کرتا ہے، عاقل کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے کہ حُضُور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی سَمْت ہے، مُسلمان اس لیے کھائے پئے سوئے جاگے کہ یہ حُضُور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) کی سنتیں ہیں۔ حیاةُ الدُنیا اور چیز ہے، حیاةُ فی الدُنیا اور، حیاةُ لِلدُنیا کچھ اور، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی، دنیا کے لئے زندگی۔ جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لئے ہو دنیا کے لئے نہ ہو، وہ مبارک ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، شعر:

آبِ دَر کَشْتی ہلاکِ کَشْتی اَسْت آبِ اَندر زَیرِ کَشْتی پَشْتی اَسْت

(کشتی دریا میں رہے تو نجات ہے، اور اگر دریا کشتی میں آجاوے تو ہلاکت ہے) (مراۃ ج ۷ ص ۳)

﴿4﴾ بَمیثِ کَامِ اَہِوَا بَجَہ

حضرت سیدنا جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم

نُورِ مَجَسَّمِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمِ بھمیڑ کے مُردہ بچے کے پاس سے گزرے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے ایک دِزہم کے عَوْضِ (ع-و-ض) ملے؟ انہوں نے عرض کی: ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عَوْضِ (بدلے)

ملے۔ تو ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! دنیا اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک۔“ (مشکاۃ المصابیح، ج ۲ ص ۲۴۲ حدیث ۵۱۵۷)

اللَّهُ! حُبِّ دُنْيَا سے تُو مجھے بچانا

سائل ہوں یا خدا میں عشقِ محمدی کا

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

امیر المؤمنین کی عاجزی

زمین پر بیٹھ گئے

خلفائے بنو امیہ کا دستور تھا کہ جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے تو ان کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص چادر بچھائی جاتی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک جنازہ میں شریک ہوئے اور حسب معمول ان کے لیے بھی یہ چادر بچھائی گئی لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے لئے اس امتیاز کو پسند نہیں کیا اور اس چادر کو پاؤں سے ایک طرف ہٹا کر زمین پر بیٹھ گئے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۷۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے ہمارے بزرگانِ دین علیہم

رحمۃ اللہ المبین مقام و مرتبہ اور عہدہ و منصب ملنے کے باوجود کس قدر عاجزی فرمایا

کرتے تھے! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی ایسی ہی مزید **14**

حکایات ملاحظہ کیجئے:

(۱) میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی

ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے ہاں کوئی مہمان آیا، آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا۔ مہمان نے عرض کی: میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: لَيْسَ مِنْ مُرْوَقَةِ الرَّجُلِ اسْتِخْدَامُهُ ضَيْفُهُ مَهْمَانَ سے خدمت لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اُس نے کہا غلام کو جگا دوں؟ فرمایا: وہ ابھی ابھی سویا ہے۔ پھر آپ خود اٹھے اور پکی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا۔ مہمان نے کہا: یا امیر المؤمنین! آپ نے خود ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ فرمایا: قُمْتُ وَأَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرَجَعْتُ وَأَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جب میں (اس کام کے لئے) گیا تو بھی ”عمر“ تھا اور جب واپس آیا تو بھی ”عمر“ تھا، میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اُضَع کرنے والا ہو۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ص ۷۹۷)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے کس قدر عاجزی فرمائی، عاجزی اختیار کرنے والا بظاہر کم تر دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں بلند تر ہو جاتا ہے، چنانچہ

بلندی عطا فرمائے گا

نَبِيِّ مُكْرَمٍ، نُورٍ مُجَسَّمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَافِرَانَ مُعْظَمٍ ہے: ”جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کرے اللہ عَزَّ وَجَلَّ اُسے بلندی عطا فرمائے

گا، پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا اور جو **تَكْبَر** کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ذلیل کر دے گا، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔“

(کنز العمال، کتاب الاخلاق، الحدیث: ۸۵۰۵، ج ۳، ص ۲۸۰)

۔ فخر و غرور سے تُو مولیٰ مجھے بچانا

یارب! مجھے بنا دے پیکر تُو عاجزی کا (وسائل بخشش ص ۱۹۵)

عاجزی کس حد تک کی جائے؟

مگر یاد رہے کہ دیگر اخلاقی عادات کی طرح عاجزی میں بھی اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر عاجزی میں بلا ضرورت زیادتی کی تو ذلت اور کمی کی تو **تَكْبَر** میں جا پڑنے کا خدشہ ہے۔ لہذا اس حد تک عاجزی کی جائے جس میں ذلت اور ہلاک پن نہ ہو۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ص ۱۵۴)

(۲) مزاج پُرسی کرنے والے کو جواب

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر سے کہا: ”یا امیر المؤمنین! کَیْفَ مَا أَصْبَحْتُ یعنی آپ نے کس حالت میں صبح کی۔“ عاجزی کرتے ہوئے فرمایا: میں نے اس حالت میں صبح کی کہ پیٹو، سُست کار اور گناہوں میں آلودہ ہوں، اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر خام آرزوئیں باندھ رہا ہوں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۵)

(۳) خادمہ کی خدمت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے باوجود خلیفہ ہونے کے کبھی اپنے آپ کو عام مسلمانوں بلکہ کنیزوں اور غلاموں سے بھی بالاتر نہیں سمجھا۔ ایک بار کنیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پنکھا جھل رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود پنکھا لیا اور اس کو جھلنے لگے، جب کنیز کی آنکھ کھلی تو حیرت و خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تم بھی تو میری طرح ایک انسان ہو، تمہیں بھی اسی طرح گرمی لگتی ہے جس طرح مجھے، اس لئے میں نے سوچا کہ جس طرح تم نے مجھے پنکھا جھلا ہے میں بھی تمہیں پنکھا جھل دوں۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۰۲)

(۴) چادر اوڑھادی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز جنازوں میں بھی شریک ہوتے اور عام مسلمانوں کی طرح جنازے کو کندھا دیتے۔ ایک مرتبہ جنازے میں شریک ہوئے تو بارش آگئی۔ اتفاقاً ایک مسافر وہاں آ گیا جس کے بدن پر چادر نہ تھی، انہوں نے اس کو بلایا اور بارش سے بچانے کے لئے اپنی چادر کا بچا ہوا حصہ اسے اوڑھادیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۴)

(۵) تحریر پھاڑ ڈالتے

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب، غرور اور تکبر سے بچنے کی اس قدر کوشش

فرماتے تھے کہ جب خطبہ دیتے یا کوئی تحریر لکھتے اور اس کے متعلق دل میں غرور پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا، تو خطبہ میں چُپ ہو جاتے اور تحریر کو پھاڑ ڈالتے اور بارگاہِ الہی میں عرض کرتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي“ یعنی: یا الہی عَزَّوَجَلَّ! میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۷۸)

(۶) پہچان نہ پاتے

اسی تواضع اور عاجزی کا اثر تھا کہ جب کبھی نا آشنا لوگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ملاقات کے لئے آتے تو شاہانہ جاہ و جلال نہ ہونے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہچان نہ پاتے اور پوچھنا پڑتا کہ امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ کیونکہ آپ عام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۰۴ ملخصاً)

(۷) مجھے ”عمر“ ہی سمجھو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین تھے مگر اپنے آپ کو ہمیشہ ”عمر“ ہی سمجھتے، ایک بار کسی نے کہا: اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ”عمر“ سمجھ کر ایسی بات کہوں جو آج آپ کو ناپسند اور کل پسندیدہ ہو، ورنہ ”امیر المؤمنین“ سمجھ کر ایسی گفتگو کروں جو آج آپ کو محبوب اور کل مبعوض (یعنی ناپسند) ہو؟ فرمایا: کَلِمَتِي وَأَنَا عُمَرُ فِيمَا أَكْرَهُ الْيَوْمَ وَأُحِبُّ غَدًا یعنی مجھے ”عمر“ سمجھ کر وہی بات کہو جو آج مجھے ناپسند اور کل پسند ہو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۲)

(۸) تعریف کرنے والے کو جواب

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ خَاكْسَارِي كِي وَجِهَ سَے مَدَّ اَحِي (یعنی تعریف و توصیف) كو پسند نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ایک بار کسی شخص نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی تو فرمایا: لَوْ عَرَفْتُ مِنْ نَفْسِي مَا عَرِفُ مِنْهَا مَا نَظَرْتُ فِي وَجْهِهِ يُعْنِي جَوْ كَچھ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو میرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۶)

(۹) ”خليفةُ الله“ کا مصداق

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ كو ”يا خليفةُ الله في الارض“ یعنی اے زمین میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے خلیفہ، کہہ کر پکارا تو فرمایا: دیکھو! جب میں پیدا ہوا تو والدین نے میرے لئے ایک نام منتخب کیا چنانچہ میرا نام ”عمر“ رکھا اگر تم مجھے ”يا عمر“ کہہ کر پکارتے تو میں جواب دیتا، پھر جب میں بڑا ہوا تو میں نے اپنے لیے ایک کنیت ”ابو حفص“ پسند کی اگر تم ”ابو حفص“ کی کنیت سے مجھے بلاتے تو بھی میں جواب دیتا، پھر جب تم لوگوں نے امر خلافت میرے سپرد کیا تو تم نے میرا لقب ”امیر المؤمنین“ رکھا اگر تم مجھے ”امیر المؤمنین“ کے لقب سے مخاطب کرتے تب بھی مضائقہ نہیں تھا، باقی رہا ”خليفةُ الله في الارض“ کا خطاب! تو میں اس کا مصداق نہیں ہوں، ”خليفةُ الله في الارض“ تو حضرت سیدنا داؤد عَلَی نَبِيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ان جیسے دوسرے حضرات تھے۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ

نے پارہ 23 سورہ ص کی آیت 26 پڑھی:

يٰۤاٰدُوۤدِ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى

ترجمہ کنزالایمان: اے داؤد بیشک ہم

اَلْاَرْضِ (پ ۲۳، ص: ۲۶)

نے تجھے زمین میں نائب کیا۔

(سیرت ابن عبدالحمص ص ۴۶)

(۱۰) اسلام نے مجھے فائدہ دیا ہے

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے کہا:

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِسْلَامَ كِى خِدْمَتِ كَرْنِى پَر اَپ كُو جَزائے خیر دے۔ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: نہیں! بلکہ یوں کہو کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مجھے فائدہ دینے پر اسلام کو جزا دے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۰۶)

(۱۱) شان و شوکت کے اظہار کی ممانعت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے کاتب کا بیان ہے کہ

اَحْکام و فرامین جاری کرتے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ میں اَحْکام و فرامین میں ان کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت کا اظہار بالکل

نہ کروں۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۱)

(۱۲) مجلس برخواست کرنے کا معمول

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو تنہائی درکار ہوتی اور

حاضرین مجلس کو اٹھانا چاہتے تو حکم دینے کے انداز میں یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھ جائیے

بلکہ یہ فرمایا کرتے: ”اِذَا شِئْتُمْ“ یعنی جب آپ چاہیں! اللہ آپ پر رحم فرمائے۔“ لوگ اس اشارے کو سمجھ جاتے اور وہاں سے اٹھ جاتے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۶)

(۱۳) جب سلام کرنا بھول گئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ ایک بار چند لوگوں کے پاس بغیر سلام کئے بیٹھ گئے۔ جب آپ کو یاد آیا تو اٹھ کر پہلے سب کو سلام کیا پھر تشریف فرما ہوئے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۶۴)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! سلام کرنا ہمارے پیارے آقا، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے (بہار شریعت، حصہ ۱۶، ص ۹۸) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی افشاء السلام، الحدیث ۵۱۹۳، ج ۴، ص ۴۲۸)

بعض اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو اَلْسَلَامُ عَلَیْكُمْ سے ابتدا کرنے کے بجائے ”آداب عرض“ کیا حال ہے؟ ”مزاج شریف“ صبح بخیر“ ”شام بخیر“ وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتداء کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی ”خدا حافظ“ ”گڈ بائی“ ”ٹاٹا“ وغیرہ کہنے کے بجائے

سلام کرنا چاہئے۔ ہاں رخصت ہوتے ہوئے اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں ”اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ“ یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، ج ۲۲، ۲۰۹) چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے زیادہ کو اور سوار پیدل کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

(صحیح مسلم، کتاب السلام، باب یسلم الراكب علی الماشی والقلیل علی الكثير، الحدیث ۲۱۶۰ ص ۱۱۹۱)

ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب (۱) 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت حصہ 16 اور (۲) 120 صفحات کی کتاب ”سنتیں اور آداب“ ہدیہ حاصل کیجئے اور پڑھئے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔

لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو ختم ہوں شامیں قافلے میں چلو
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

روزانہ کا جَدَوَل

حضرت سیدنا عطاءرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کو پیغام بھیجا کہ مجھے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے کچھ حالات بھجوائیے، انہوں نے فرمایا: ضرور!! حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی ذات کو مسلمانوں کے لئے اور اپنے ذہن کو ان کے کاموں کے لئے فارغ کر لیا تھا، اگر شام ہو جاتی اور وہ مسلمانوں کے کام سے فارغ نہ ہوئے ہوتے تو دن کے ساتھ رات بھی ملا لیتے اور رات گئے تک کام کرتے رہتے۔ جب یومیہ کام ختم ہو جاتے تو اپنا چراغ منگوا لیتے، پھر دو نفل پڑھتے اور سر گھٹنوں پر رکھ کر اکڑوں بیٹھ جاتے، کچھ ہی دیر میں رُخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہنا شروع ہو جاتیں اور اس قدر دزد و کذب کے ساتھ روتے کہ گویا ان کا دل پھٹ جائے گا اور رُوح نکل جائے گی، رات بھر یہ کیفیت رہتی، جب صبح ہوتی تو روزہ رکھ لیتے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۶)

محبت میں اپنی گمنا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی
 رہوں مست و بے خود میں تیری ولای میں پلا جام ایسا پلا یا الہی
 (وسائل بخشش ص ۷۸)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

خليفة کا کھانا

خليفة بننے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے دنیا سے زُہد و قناعت اختیار کی، عیش و عشرت پر لات ماری اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے یکسر ترک کر دیئے۔ معمول یہ تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کھانا تیار ہو جاتا تو کسی چیز میں ڈھک کر رکھ دیا جاتا، جب تشریف لاتے تو کسی خادم سے کہنے کے بجائے اپنی مدد آپ کے تخت سے خود ہی اٹھا کر تناول فرما لیتے۔

(تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۲۲۷)

زَیْتُون کا سالن

نَعْمِ بن سلامت کا بیان ہے کہ میں امیرُ الْمُؤْمِنِین کے پاس گیا تو دیکھا کہ زَیْتُون کے تیل کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۰)

پسلیاں گنی جاسکتی تھیں

یُوْسُ بن شَیْب نے امیرُ الْمُؤْمِنِین کو خلافت سے پہلے اس حالت میں دیکھا تھا کہ تو ندکلی ہوئی تھی، انہی کا بیان ہے کہ خلافت کے بعد اگر میں گننا چاہتا تو بغیر چھوئے ہوئے ان کی پسلیوں کو گن سکتا تھا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۱)

مسور اور پیاز

ایک بار امیرُ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے بھائی ”زیان بن عبدالعزیز“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، کچھ دیر تک

باتیں ہوئیں پھر آپ نے فرمایا: ”گذشتہ رات میرے لیے بڑی لمبی ہوگئی کیونکہ اس میں نیند کم آئی، میرا خیال ہے اس کا سبب وہ کھانا تھا جو میں نے رات کو کھایا تھا۔“

زیان نے پوچھا: ”آپ نے کیا کھایا تھا؟“ فرمایا: ”مَسُوْر اور پیاز۔“ زیان نے حیرانی سے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی کشائش دے رکھی ہے، مگر آپ خود ہی اپنی جان پر تنگی ڈالتے ہیں؟“ جب ”زیان“ نے آپ کو ملامت کے انداز میں فہمائش کی تو آپ نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”میں نے تمہیں اپنی حالت بتا کر اپنا بھید تم پر کھول دیا مگر میں نے تمہیں خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ پایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں آئندہ کبھی تمہیں راز دار نہیں بناؤں گا۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۶)

کیا بات ہے ”مسور“ کی؟

رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ بَرَکَت والی شے ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے اور اس میں 70 انبیاء کرام (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام) کی برکات شامل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَام) بھی شامل ہیں۔“ (فردوس الاخبار، ج ۲، ص ۶۳، الحدیث ۳۸۷۶)

امام ثعلبانی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور سے روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے، بالفرض اگر اس میں اور کوئی فضیلت نہ ہو تو بھی یہ ضیافت ابراہیمی کا حصہ ہوتا تھا، مسور بدن کو ڈبلا کرتا ہے اور ڈبلا

بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے، مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسی گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے۔ (قرطبی، ج ۱، ص ۳۲۶)

سمجھانے والے کو سمجھا دیا

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی بے حد سادہ غذا دیکھ کر کہا: اللہ عزوجل تو فرماتا ہے:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ جو پاک چیزیں ہم

(پ ۱۶، طہ: ۸۱) نے تمہیں روزی دیں۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا: اس سے لذیذ کھانا مراد نہیں بلکہ وہ مال ہے جو کسبِ حلال سے حاصل کیا جائے۔

(درمنثور، ج ۱، ص ۳۰۶)

کھانا نہ کھا سکے

ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک شخص کو گھر میں بلایا۔ وہ اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک دسترخوان پر ایک طشت (Tray) رومال سے ڈھکی ہوئی رکھی ہے اور امیر المؤمنین نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ چکے تو دسترخوان کو سامنے کھینچ کر فرمایا: آؤ! کھانا کھاؤ، کہاں وہ مضر و مدینہ کی زندگی اور کہاں یہ زندگی! یہ کہہ کر رونے لگے حتیٰ کہ کچھ نہ کھا سکے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۰ ملخصاً)

زیادہ کھانا سامنے آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس گئے تو اس نے انہیں کھانا پیش کیا جو بہت زیادہ تھا، دیکھتے ہی فرمایا: بھوک تو اس سے کم میں بھی مٹ جاتی، نفس کی خواہش پوری ہو جاتی اور زائد کھانا تمہارے فقر و فاقے کے دن کے لئے کافی ہوتا۔ اس نے عرض کی: اللہ عز و جل نے وسعت عطا کی ہے۔ فرمایا: پھر تو تم پر شکر لازم تھا اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۴۵)

پیٹ بھر کر کیسے کھاپی سکتا ہوں؟

ایک مرتبہ مسافع بن شیبہ اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے مہمان ہوئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو مہمان خانے میں بھیج دو اور تم میرے ساتھ گھر پر چلو (کیونکہ مسافع آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ کے محرم رشتہ دار تھے)۔ نماز مغرب پڑھانے کے بعد گھر پہنچے اور مسجد بیت میں جا کر سنتیں و نوافل پڑھنے اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے، جب بہت دیر گزر گئی تو زوجہ محترمہ نے آواز دی: مہمان کھانے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز تشریف لے آئے اور مہمان سے معذرت کرتے ہوئے کہا: وہ شخص پیٹ بھر کر کیونکر کھاپی سکتا ہے جس پر مشرق و مغرب کے مظلوموں کا دعویٰ بنتا ہو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۴)

کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے خادم کا بیان ہے کہ خلیفہ بننے سے لے کر انتقال تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔
(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۶)

تمہارے آقا کی یہی غذا ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے خادم کو جب بار بار دال کھانے کے لیے ملی تو ایک دن کہنے لگا: ”كُلَّ يَوْمٍ عَدَسٌ لِّعَنِي رَوْزِوَال!“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا: هَذَا طَعَامُ مَوْلَاكَ اُمَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ تمہارے آقا امیر المؤمنین کی بھی یہی غذا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۱)

پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیو! آفرین ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ پر کہ اتنی بڑی سلطنت کے تحت خلافت پر متمکن ہوتے ہوئے ایسی سادہ اور کم غذا استعمال فرماتے تھے، واقعی کم کھانے کی بڑی برکتیں ہیں، چنانچہ

کھانا کتنا کھانا چاہیے

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مَنزُورٌ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ صحتِ نشان ہے، ”آدَمِي اِسْپِنے پيٹ سے زيادہ بُرا برتن نہیں بھرتا، انسان کیلئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اگر ایسا نہ کر سکے تو

جہائی (1/3) کھانے کیلئے تہائی پانی کیلئے اور ایک تہائی سانس کیلئے ہو۔^۱

(سنن ابن ماجہ ج ۳ ص ۳۸ حدیث ۳۳۴۹)

میں کم کھانا کھانے کی عادت بناؤں

خدایا کرم! استقامت بھی پاؤں

انگور کھانے کی خواہش

ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دل میں انگور

کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا: ”اگر آپ کے پاس ایک

دِزہم ہو تو مجھے دے دیں، میرا دل انگور کھانے کو چاہ رہا ہے۔“ انہوں نے جواب دیا:

”میرے پاس ایک دِزہم کہاں ہے؟ کیا آپ کے پاس امیر المؤمنین ہونے کے

باجود ایک دِزہم بھی نہیں کہ اس سے انگور ہی خرید لیں؟“ فرمایا: ”انگور نہ کھانا اس سے

کہیں زیادہ آسان ہے کہ (حرام کھانے کے نتیجے میں) کل میں جہنم کی زنجیریں

پہنوں۔“ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۸۸)

دال اور کٹی ہوئی پیاز سے مہمان نوازی

ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے ہاں کوئی

مہمان آیا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غلام کو کھانا لانے کو کہا۔ غلام کھانا لے

دینہ

۱: کم کھانے کے فوائد اور برکتیں جاننے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر اہلسنت مدظلہ العالی کی

ماریناز تصنیف فیضان سنت جلد اول کے باب ”پیٹ کا نقل مدینہ“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

آیا جو چند چھوٹی چھوٹی روٹیوں پر مشتمل تھا، جن پر نزم کرنے کے لئے پانی چھڑک کر نمک اور زیتون کا تیل لگایا گیا تھا۔ رات کو جو کھانا پیش ہوا وہ دال اور کٹی ہوئی پیاز پر مشتمل تھا۔ غلام نے مہمان کو وضاحت کرتے ہوئے بتایا: اگر امیر المؤمنین کے ہاں اس کے علاوہ کوئی اور کھانا ہوتا تو وہ بھی ضرور آپ کی مہمان نوازی کے لئے دسترخوان کی زینت بنتا، مگر آج گھر میں صرف یہی کھانا پکا ہے، امیر المؤمنین نے بھی اسی سے روزہ افطار فرمایا ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۵ ملخصاً)

کھانے میں اسراف چھوڑ دیا

مسئلہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز فجر کے بعد حضرت سپیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خلوت گاہ پر حاضر ہوا جہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت ایک لونڈی صیہانی کھجور کا تھال لائی جو آپ کو بہت پسند تھیں اور اسے رغبت سے کھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ کھجوریں اٹھائیں اور پوچھا: مسئلہ! اگر کوئی اتنی کھجوریں کھا کر اس پر پانی پی لے تو کیا خیال ہے یہ رات تک اس کے لئے کافی ہوگا؟ چونکہ کھجوریں بہت کم تھیں اس لئے میں نے عرض کی: مجھے صحیح اندازہ نہیں، میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر آپ نے چلُو بھر کھجوریں اٹھائیں اور پوچھا: اب کیا خیال ہے؟ اب چونکہ مقدار زیادہ تھی اس لئے میں نے کہا: یا امیر المؤمنین! اس سے کچھ کم مقدار بھی کافی ہو سکتی ہے۔ کچھ توقف

کے بعد فرمایا: پھر انسان اپنا پیٹ کیوں نارِ جہنم (یعنی حرام) سے بھرتا ہے؟ یہ سن کر میں کانپ اٹھا کیونکہ ایسی نصیحت مجھے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ (سیرت ابن عبدالکلام ص ۱۳۴)

دورانِ بیان رونے لگے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ ایک بار بیان کے لئے کھڑے ہوئے، ابھی اتنا ہی فرمایا تھا: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ! (یعنی اے لوگو!)“ کہ روتے روتے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلِيْهِ کی ہچکی بندھ گئی، کچھ سکون ہوا تو فرمایا: ”اے لوگو!“ لیکن پھر ہچکی بندھ گئی اور کچھ نہ بول سکے، جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا: ”اے لوگو! جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی ہو کہ اس کے آباؤ اجداد میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، وہ یقیناً موت کے منہ میں ہے، اے لوگو! تم دیکھتے نہیں کہ تم ہلاک ہونے والوں کا چھوڑا ہوا سامان استعمال کرتے ہو اور مرنے والوں کے گھروں میں رہتے ہو، دُنیا سے کوچ کر جانے والوں کی زمینوں پر قباہِ بضع ہو، کل وہ تمہارے پڑوسی تھے اور آج وہ قبروں میں بے نام و نشان پڑے ہیں، کسی کی روح قیامت تک ائمن اور چین میں ہے اور کسی کی رُوح قیامت تک مبتلائے عذاب ہے۔ دیکھو! تم ان کو اپنے کندھوں پر لاد کر لے گئے اور زمین کے پیٹ (یعنی قبر) میں ڈال آئے جب کہ اس سے پہلے وہ دنیا کی عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں مگن تھے، اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ“ پھر فرمایا: ”واللّٰہ! میری خواہش ہے کہ اصلاح کا آغاز مجھ سے اور میرے خاندان سے ہو، تاکہ ہماری اور تمہاری مَعِيشَت (یعنی مالی حیثیت) برابری کی

سُحَّحَ پر آجائے، واللہ! اگر مجھے اس کے علاوہ کوئی بات کہنی ہوتی تو اس کے لیے خوب زبان چلتی۔“ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چادر چہرے پر ڈال لی اور بچوں کی طرح ہلک ہلک کرنے لگے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انداز دیکھ کر حاضرین پر بھی رقت طاری ہوگئی اور وہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۲)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ أَنْ كَفَّ صَدَقَتِ هَمَارِي مَغْفِرَتِ هُوَ

اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

یہ دل گور تیرہ سے گھبرا رہا ہے چنے مصطفےٰ جگمگا یا الہی
بقیچ مبارک میں تدفین میری ہو بہر شہہ کر بلا یا الہی
تُو عطار کو چشمِ نم دے کے ہر دم

مدینے کے غم میں زُلا یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۰)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَی مُحَمَّد

تقویٰ و پرہیزگاری

تقویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی سے بچایا جائے۔

کُفْر و شُرک سے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے، ظاہری و باطنی نافرمانیوں اور بُری خصلتوں سے چچناسب تقویٰ میں داخل ہے۔ شہنشاہِ ابرار، متقیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مشکبار ہے: کوئی بندہ اُس وقت تک مُتَّقِیْن میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر (یعنی نقصان نہ دینے والی) چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے

کہ شاید اس میں خُزْر (یعنی نقصان) ہو۔ (جرمذی ج ۳ ص ۲۹۳، الحدیث ۲۴۵۹) بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! بعض چیزیں بظاہر جائز ہوتی ہیں لیکن شُبہ سے خالی نہیں ہوتیں ان سے بچنا بھی تقویٰ ہی ہے اور یہ وصف حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیزِ میں بدرجہ اتم موجود تھا، ایسی 16 حکایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ

(۱) شاہی گھوڑے بیچ دیئے

اضطربل کے نگران نے شاہی گھوڑوں کے لئے گھاس اور دانے وغیرہ کا خُزْرِ طَلَب کیا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیزِ نے فرمایا: ”ان گھوڑوں کو بیچنے کے لئے شام کے مختلف شہروں میں بھیج دو اور ان کی قیمت میں ملنے والی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے، میرے لئے میرا خچر ہی کافی ہے۔“

(تاریخ الخلفاء، ص ۲۳۲)

(۲) بیت المال کا گرم پانی

ایک غلام گرم پانی کا برتن لے کر آتا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیزِ اس سے وضو کر لیتے۔ ایک دن آپ کی توجہ ہوئی تو غلام سے فرمایا: ”غالباً تم یہ لوٹا مسلمانوں کے مَطَّح (یعنی کچن) میں لے جاتے ہو اور وہاں آتش دان کے پاس رکھ کر گرم کر لیتے ہو؟“ عرض کی: ”جی ہاں!“ فرمایا: ”تم نے گڑ بڑ کر دی۔“ پھر ”مُرْ اِحْم“ سے فرمایا: ”یہ برتن بھر کر گرم کرو اور دیکھو اس میں کتنا ایندھن صرف ہوتا ہے، پھر ان تمام دنوں کا حساب کر کے اتنا ایندھن مَطَّح میں داخل کرو۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۰)

(۳) سخت سردی کی ایک رات

اسی طرح ایک مرتبہ سخت سردی کی رات میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کو غسل کی حاجت ہوئی، خادم نے پانی گرم کر کے پیش کیا، دریافت فرمایا: ”کہاں گرم کیا ہے؟“ عرض کی: ”مَطَّحِ عام میں۔“ فرمایا: ”پھر اسے اُٹھا لو۔“ اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کا ارادہ فرمایا مگر کسی نے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! میں آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی ذات پر رحم کیجئے، اگر مَطَّحِ کا گرم شدہ پانی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تو اس کی قیمت لگا کر بیت المال میں داخل کر دیجئے۔“ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے بیت المال میں قیمت جمع کروائی پھر غسل کیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۰)

(۴) بیت المال کے مال سے بنے مکانوں میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر ایک مرتبہ خُناصرہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بنے ہوئے مکانات میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا کیونکہ وہ اگلے خلفاء نے بیت المال کے مال سے بنوائے تھے، چنانچہ آپ کھلے میدان ہی میں خیمہ زن ہو گئے۔

(تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۳۴)

(۵) ذاتی چراغ جلالیا

ایک خلیفہ کی حفاظت میں آنے والی سب سے اہم چیز بیت المال یعنی خزانہ ہے، اس لیے اس کی دیانت کا اصلی معیار اسی کو قرار دیا جاسکتا ہے، حالات و واقعات

بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کی دیانت ہمیشہ اس مِغْیَار پر پوری اتری۔ وہ رات کے وقت خلافت کا کام بیت المال کی شمع سامنے رکھ کر انجام دیا کرتے تھے اور جب اپنا کوئی کام کرنا ہوتا تو اس شمع کو اٹھوادیتے اور ذاتی چراغ منگوا کر کام کرتے۔ اسی طرح کی ایک سبق آموز حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے پاس رات کے وقت کسی دُور دراز علاقے کا قاصد آیا، آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ آرام فرمانے کے لئے لیٹ چکے تھے لیکن اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور بڑی دیر تک اس کے علاقے کے حالات بڑی تفصیل سے دریافت فرماتے رہے کہ وہاں کے مسلمانوں اور زمیوں کی حالت کیسی ہے؟ گورنر کارہن سہن کیسا ہے؟ چیزوں کے بھاؤ کیسے ہیں؟ مہاجرین و انصار کی اولاد کے حالات کیا ہیں؟ مسافروں اور فقراء کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہر حقدار کو اس کا حق دیا جاتا ہے؟ کیا کسی کو شکایت تو نہیں؟ گورنر نے کسی سے بے انصافی تو نہیں کی؟ اسی طرح آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ ایک ایک چیز کے بارے میں گریڈ گریڈ کر دریافت فرماتے رہے اور قاصد اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتا رہا۔ جب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ کے سؤالات کا سلسلہ ختم ہوا تو قاصد نے آپ کی مزاج پرسی کی کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ اہل و عیال کے بارے میں بھی پوچھا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فوراً پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور دوسرا چراغ لانے کا حکم دیا چنانچہ ایک معمولی چراغ لایا گیا جس کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آپ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ہاں! اب جو چاہو پوچھو۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہل و عیال اور متعلقین کے حالات پوچھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے رہے۔ قاصد کو چراغ بجھانے سے بڑا تعجب ہوا تھا، چنانچہ اس نے پوچھ ہی لیا: **یا امیر المؤمنین!** آپ نے ایک انوکھا کام کس لئے کیا؟ فرمایا: وہ کیا؟ عرض کی: جب میں نے آپ کی اور اہل و عیال کی مزاج پرسی کی تو آپ نے چراغ گل کر دیا؟ فرمایا: اللہ کے بندے! جو چراغ میں نے بجھایا تھا وہ مسلمانوں کے مال سے روشن تھا، لہذا جب تک میں تم سے مسلمانوں کے حالات و ضروریات دریافت کر رہا تھا تو یہ روشن تھا، اس طرح یہ مسلمانوں کے کام اور ان ہی کی ضرورت کے لیے میرے پاس روشن تھا مگر جب تم نے میری ذات اور میرے اہل و عیال کے بارے میں بات چیت شروع کی تو میں نے مسلمانوں کے مال سے جلنے والا چراغ بجھا دیا اور ذاتی چراغ روشن کر دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۳)

اس حکایت میں اُن اسلامی بھائیوں کے لئے دَرسِ عظیم ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے وَقف یا چندے کے معاملات میں شامل ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وَقف کی چیزوں کا تھوڑی دیر کا ناجائز استعمال طویل عرصے کے لئے جہنم میں پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، لوگوں کے دیئے ہوئے چندے کا غلط

مدینہ

۱: چندے کے مسائل اور اس کی احتیاطیں تفصیل سے جاننے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر اہلسنت مظلہ العالی کی عالیشان تالیف ”چندے کے بارے میں سوال جواب“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

استعمال کرنے والوں کو اس کے بدلے جہنم کی پیپ پینی پڑ سکتی ہے، اس لئے اگر آپ سے زندگی میں کبھی ایسی بے احتیاطی ہوئی ہو تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے، تاوان بنتا ہو تو وہ بھی دے دیجئے، مولیٰ کریم عَزَّوَجَلَّ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین بِجَاہِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(۶) بیت المال کے کونسلے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے اپنے غلام سے غَسَّسَل جمعہ کے لئے پانی گرم کرنے کا کہا تو اس نے عرض کی: ہمارے پاس جلانے کے لئے لکڑیاں نہیں ہیں۔ فرمایا: مَطَّخ (یعنی باورچی خانے) سے سَمَاوَار (یعنی پانی گرم کرنے کا برتن) لے آؤ۔ جب سماوار لایا گیا تو وہ دہک رہا تھا۔ حیرت سے فرمایا: تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس لکڑیاں نہیں ہیں! شاید تم اسے مسلمانوں کے مَطَّخ سے لائے ہو۔ غلام نے ہاں میں سر ہلا دیا، فرمایا: مَطَّخ کے ذمہ دار کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو فرمایا: تم سے کہا گیا ہوگا کہ یہ امیر المؤمنین کا سماوار ہے اور تم نے اس کو دہکا دیا ہوگا؟ عرض کی: وَاللَّهِ! ایسا نہیں ہوا! میں نے ایک بھی لکڑی اس میں استعمال نہیں کی بلکہ چند کونسلے موجود تھے کہ جنہیں اگر میں یُونہی چھوڑ دیتا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے۔ فرمایا: تم نے ان کونسلوں کی لکڑی کتنے میں خریدی تھی؟ اس نے قیمت بتائی تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے وہ قیمت ادا کر دی پھر پانی استعمال فرمایا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۹۱)

(۷) کلکڑیوں کا تحفہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں اردن سے کلکڑیوں کے دو ٹوکے آئے آپ نے فرمایا: ”یہ کس نے دیئے ہیں؟“ عرض کی گئی: ”کلکڑیوں کے ٹوکے اردن کے گورنر نے ہدیہ بھیجے ہیں۔“ فرمایا: ”کس چیز پر لاد کر لائے گئے؟“ جواب ملا: ”سرکاری ڈاک کی سواریوں پر۔“ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں پر میرا حق عام مسلمانوں سے زیادہ نہیں رکھا، انہیں لے جاؤ اور فروخت کر کے ان کی قیمت ڈاک کی سواریوں کے چارے میں جمع کر دو۔“

راوی کا بیان ہے: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید کے بھتیجے نے مجھے اشارہ کیا کہ جب ان کی قیمت طے ہو جائے تو میرے لیے خرید لانا، چنانچہ وہ دونوں ٹوکے بازار لائے گئے، ان کی قیمت چودہ دراهم طے ہوئی میں نے یہ قیمت ادا کی اور ٹوکے خرید کر ان کے بھتیجے کو لادینے۔ اس نے ایک خود رکھ لیا اور دوسرے کے لیے کہا: ”یہ امیر المؤمنین کی خدمت میں لے جاؤ۔“ میں نے وہ ٹوکے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید کی خدمت میں حاضر کیا تو چونک کر فرمایا: ”یہ تو وہی کلکڑیاں ہیں؟“ میں نے عرض کی: وہ دونوں ٹوکے آپ کے فلاں بھتیجے نے خرید لئے تھے، ایک انہوں نے خود رکھ لیا ہے اور یہ دوسرا آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے۔“ فرمایا: ”ہاں! اب میرے لئے ان کا کھانا درست ہے۔“

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۷۷۷)

(۸) بیت المال میں دو دینار جمع کروائے

ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلام مزاحم سے کہا کہ مجھے قرآن پاک رکھنے والی ایک رِخْل خرید دو۔ وہ ایک رِخْل لائے جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت پسند آئی۔ پوچھا: کہاں سے لائے؟ انہوں نے بتایا: سرکاری مال خانہ میں کچھ لکڑی موجود تھی، میں نے اسی کی یہ رِخْل بنوائی۔ فرمایا: جاؤ! بازار میں اس کی قیمت لگواؤ۔ وہ گئے تو لوگوں نے نصف دینار قیمت لگائی، انہوں نے پلٹ کر خبر دی تو فرمانے لگے: تمہاری کیا رائے ہے، اگر ہم بیت المال میں ایک دینار داخل کر دیں تو ذمہ داری سے سُبُک دوش ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا: قیمت تو نصف دینار کی لگائی گئی! مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ بیت المال میں دو دینار جمع کروادو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۲)

س ہو اخلاق اچھا ہو کردار سُّتھرا
مجھے مُتقی تُو بنا یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۶)

(۹) خوشبو سونگھنے میں احتیاط

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کے سامنے مسلمانوں کے لیے مُشک کا وزن کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے فوراً اپنی ناک بند کر لی تاکہ انہیں خوشبو نہ پہنچے جب لوگوں نے یہ بات محسوس کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: خوشبو سونگھنا ہی تو اس کا نفع ہے۔ (چونکہ میرے سامنے اس وقت وافر مقدار میں مُشک موجود ہے لہذا اس کی خوشبو بھی زیادہ آ رہی ہے اور میں اتنی زیادہ خوشبو سونگھ کر

دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں زائد نفع حاصل کرنا نہیں چاہتا)

(احیاء العلوم ج ۲ ص ۱۲۱، ثبوت القلوب ج ۲ ص ۳۳۵)

خوشبو دھو ڈالی

اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالِ غنیمت کی مُشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس خوشبو کو مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو بیوی کے دوپٹے سے مُشک کی خوشبو آئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ”یہ خوشبو کیسی؟“ انہوں نے جواب دیا کہ ”میں خوشبو تول رہی تھی، اس سے کچھ خوشبو میرے ہاتھ کو لگ گئی، جسے میں نے اپنے دوپٹے پر مل لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس کو دھویا اس کے بعد سونگھا، پھر مٹی ملی اور دوبارہ دھویا حتیٰ کہ اس وقت تک دھوتے رہے، جب تک خوشبو ختم نہ ہوگئی پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ (کیمیائے سعادت، ج ۱ ص ۳۷۷)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اگرچہ اس قدر خوشبو کا لگ جانا قابلِ گرفتِ عمل نہ تھا لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ دروازہ بالکل بند ہو جائے تاکہ کوئی برائی اس میں داخل نہ ہو سکے۔

(۱۰) سیب کے لئے اپنے آپ کو برباد کر لوں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید ایک بار سرکاری سیب مسلمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے، اسی دوران ان کا ایک کم سن مدنی منا آیا اور ایک سیب اٹھا کر کھانا چاہا۔ انہوں نے فوراً سیب کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا، بچہ روتا ہوا اپنی امی جان کے پاس پہنچا، انہوں نے بازار سے سیب منگا کر اس کو دے دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آئے تو سیب کی خوشبو سونگھ کر بولے کہ کہیں سرکاری سیب تو گھر میں نہیں آئے! بچوں کی امی نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا: میں نے سیب اپنے بچے سے نہیں چھینا بلکہ اپنے دل سے چھینا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے ایک سیب کے لئے اپنے آپ کو خدا لعن ووجل کے سامنے برباد کر دوں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۰)

۔ جو ناراض ٹو ہو گیا تو کہیں کا
رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۲)

(۱۱) آگ کی چنگاریاں

ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی نے ایک موتی بھيجا اور کہا کہ اس جیسا دوسرا موتی بھیج دیجئے تاکہ میں کانوں میں ڈالوں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دو دہکتے ہوئے کونلے بھیج دیئے اور پیغام بھیجا: اِنْ اَسْتَطَعْتَ اَنْ تَجْعَلِي هَاتَيْنِ الْجَمْرَتَيْنِ فِي اَذْنَيْكَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَخْتٍ لَهَا یعنی اگر تم ان سُرخ کونلوں کو کان میں ڈالنے کی طاقت رکھتی ہو تو میں بیت المال سے اس موتی کا جوڑا بھیج دیتا ہوں! (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۴)

(۱۲) چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے باتوں باتوں میں لُبْنان کے شہد کا شوق ظاہر کیا۔ زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے لُبْنان کے گورنر ابن معدی کرب کو کہلا بھیجا چنانچہ انہوں نے وہاں سے بہت سا شہد بھیج دیا۔ جب شہد سامنے آیا تو زوجہ کی طرف رُخ کر کے کہا: غالباً تم نے گورنر کے ذریعے سے منگوایا ہے۔ پھر اس کو فروخت کروا کر بیت المال میں قیمت داخل کروادی اور گورنر لُبْنان کو لکھا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کام کیا تو میں تمہارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کروں گا۔ (المعرفة والتاريخ، ج ۱، ص ۳۲۲)

(۱۳) کھجوروں کی قیمت جمع کروانی

ایک بار کسی شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں کھجوریں روانہ کیں، خادم کھجوریں سامنے لایا تو پوچھا: ان کو کس چیز پر لائے ہو؟ اس نے کہا: ڈاک کے گھوڑے پر۔ چونکہ ڈاک کا تعلق سرکاری چیزوں سے تھا اس لئے حکم دیا کہ کھجوروں کو بازار میں لے جا کر فروخت کر آؤ اور ان کی قیمت بیت المال میں جمع کروادو۔ وہ بازار میں آیا تو ایک مروانی نے انکو خرید لیا اور دوبارہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں بطور تحفہ بھیج دیں۔ جب کھجوریں سامنے آئیں تو حیرت سے فرمایا: یہ تو وہی کھجوریں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ سامنے کھانے کے لئے رکھ دیں، کچھ گھر میں بھیج دیں اور ان کی قیمت بیت المال میں

جمع کروائی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۷)

(۱۳) دودھ کے چند گھونٹ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مسافروں، مسکینوں اور فقراء کے لئے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا، مگر اپنے گھر والوں کو تشبیہ کی ہوئی تھی کہ اس مہمان خانے سے تم کوئی چیز نہ کھانا، اس کا کھانا صرف مسافروں اور غرباء و فقراء کے لئے ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آئے تو کنیز کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیکھا جس میں چند گھونٹ دودھ تھا۔ پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ کنیز نے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ ہیں، انہیں چند گھونٹ دودھ پینے کی خواہش ہو رہی تھی اور جب حاملہ عورت کو وہ چیز نہ دی جائے جس کی اسے خواہش ہو تو اس کا حمل ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لہذا اسی خوف سے میں یہ تھوڑا سا دودھ مہمان خانے سے لے آئی ہوں۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے باواز بلند فرمایا: ”اگر اس کا حمل فقیروں، محتاجوں اور مسافروں کا حق کھائے بغیر نہیں ٹھہر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ روکے۔“ پھر کنیز کو ساتھ لیا اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس پہنچے، وہ آپ کا یہ انداز دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئیں اور عرض کی: ”میرے سرتاج! کیا بات ہے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اس کنیز کا یہ خیال ہے کہ جو تیرے پیٹ میں حمل ہے وہ مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کا حق کھائے بغیر نہیں رک سکتا، اگر یہی بات ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرے

تھمّل کونہ روکے۔“ سعادت مند زوجہ نے جب یہ سنا تو کئیر سے کہا: ”جاؤ! یہ دودھ واپس لے جاؤ، خدائے زَوَجَلَّ کی قسم! میں اسے ہرگز نہ چکھوں گی۔“ چنانچہ کئیر دودھ کا پیالہ واپس لے گئی۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۵)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! جن کی حکومت کے ڈنکے عَرَب و عجم میں بج رہے تھے، ان کے گھر والوں کی مالی کیفیت کیا تھی؟ اسلام کے وہ پاسبان کیسے دیانت دار تھے کہ بھوکا پیاسا رہنا منظور تھا لیکن کسی کے حق میں سے ایک گھونٹ لینے کو بھی تیار نہ تھے۔
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ایسے خلفاء کے صدقے ہمیں بھی دیانت، اخلاص اور اپنا خوف عطا فرمائے۔ اَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(۱۵) شہد بیچ ڈالا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ كُوشَهْد بہت پسند تھا۔ ایک بار ان کی زوجہ محترمہ نے ایک آدمی کو شہد لینے بھیجا، وہ ڈاک کی سواری پر گیا اور دو دینار کا شہد خرید لایا۔ جب شہد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے سامنے آیا اور سارا واقعہ معلوم ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اس کو فروخت کر ڈالا اور دو دینار واپس لے کر بقیہ قیمت بیت المال میں داخل کر دی اور فرمایا: تم نے مسلمانوں کے جانور کو ”عُمُر“ کے لیے تکلیف دی! دوسری روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”اگر مسلمانوں کو میری بچے سے فائدہ پہنچ سکتا تو میں کر دیتا۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۸)

(۱۶) یہ گوشت تم ہی کھا لو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اپنے غلام کو گوشت کا ایک ٹکڑا بھوننے کے لئے روانہ کیا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا، آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ نے اس سے فرمایا تم نے اتنے جلدی کیسے کی؟ اس نے کہا میں نے یہ گوشت مَطْبُخ (باورچی خانہ) میں بھونا ہے (اس جگہ مسلمانوں کا ایک مطبخ تھا جس میں صبح شام ان کا کھانا پکاتا تھا)۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ نے غلام سے فرمایا: اب یہ سارا کھانا تم ہی کھا لو۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۲۳) اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کي اُن پر رَحْمَتِ هُو اور ان کے صَدَقے ہماری بے حساب مَغْفِرَتِ هُو۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
 صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ
خلافت سے پہلے کی آسائشیں
اور بعد کی آزما ئشیں

چونکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے والد کے پاس دولت و ثروت کی فراوانی تھی لہذا آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ کی پُز و ریش ناز و نعم اور عیش و آرام کے ماحول میں ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ آرائش و زیبائش میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں تھا، یوں لگتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور آسائشیں آپ پر نچھاور کر دی گئی ہیں۔ خوش لباسی، خوش گفتاری اور رہن سہن میں آپ کا ذوق بڑا بلند

تھا، عہدِ شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی بار پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، ان کے لئے خصوصی طور پر خوشبو تیار کی جاتی جس میں کثرت سے لونگ ڈالی جاتی تھی، جس راہ سے گزرتے فضا مہک جاتی، داڑھی پر نمک کی طرح عنبر چھڑکتے تھے۔ جس محفل میں بیٹھ جاتے ایسا لگتا گویا مشک و عنبر میں غسل کر کے آئے ہیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۷۹ الملخصا)

اخلاقی برائیوں سے گوسوں دور تھے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے ناز و انداز اور ان ظاہری علامات کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر ناز و نعم میں پلنے کے باوجود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ اخلاقی برائیوں سے گوسوں دور تھے حتیٰ کہ آپ کے حاسدین بھی آپ پر دوہی الزام لگا سکے: ایک نعمتوں کو فراوانی سے استعمال کرنے کا اور دوسرا مغروروں کی سی چال چلنے کا۔ (تاریخ دمشق، ج ۳۵ ص ۱۳۸)

عمری چال

پہلے پہل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ ناز و حرام کی ایک مخصوص چال چلا کرتے تھے، جو انہی کی نسبت سے ”عمری چال“ مشہور ہو گئی تھی کہ نوعمر و شیرائیں اس چال کو سیکھنے کی کوشش کیا کرتی تھیں، چلنے کے دوران آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تعالیٰ علیہ کی چادر زمین کی جاڑوب کشی کیا کرتی تھی، اگر کبھی جوتے میں پھنس جاتی

تو اسے زور سے کھینچ کر پھاڑ دیتے مگر جو تار اُتارنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے، اگر سواری کی حالت میں کبھی جو تار پاؤں سے نکل کر گر جاتا تو اس کی پروا نہیں کرتے تھے، اگر کوئی خادم لا کر دوبارہ پیش بھی کر دیتا تو اسے ڈانٹ دیتے تھے۔ لیکن جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہ خلاف ت کو رونق بخشی تو چلنے کے اس انداز سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ بسا اوقات اپنے غلام مزارم کو تائید کرتے کہ جب کبھی مجھے ”عمری چال“ چلتے ہوئے دیکھو تو یاد دلا دینا، پھر جب وہ عرض کرتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سنبھل جاتے مگر بعد میں وہی چال چلنے لگتے۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۲)

لوہے کی زنجیریں

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ پرانی عادت کے مطابق ہاتھ ہلا ہلا کر چل رہے تھے، اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو روکا اور رونا شروع کر دیا، کسی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں اللہ عزوجل میرے اس طرح چلنے کی وجہ سے بروز قیامت ان ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں نہ ڈال دے۔

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۰)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَيْ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ انْ كَيْ صَدَقَ هَمَارِي بِي حَسَاب

مَغْفِرَتِ هُوَ - أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

امیر المؤمنین کا لباس

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے آپ کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر بعد اسے اُتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ لباس کے متعلق خود ان کا بیان ہے کہ جب میرے کپڑوں کو لوگ ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ پرانا ہو گیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۷۲) بسا اوقات آپ کے لئے ایک ہزار دینار میں عالیشان جُبہ خریداجاتا تھا مگر فرماتے: اگر یہ گھردرانہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا! لیکن جب تختِ خلافت پر رونق افروز ہوئے تو مزاج میں ایسی انقلابی تبدیلی آئی کہ آپ کے لئے پانچ درہم کا معمولی سا کپڑا خریداجاتا مگر آپ فرماتے: اگر یہ نرم نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا! آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا: یا امیر المؤمنین! آپ کا وہ عالیشان لباس، اعلیٰ سواری اور مہنگا عطر کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا: میرا نفس زینت کا شوق رکھنے والا ہے وہ جب کسی دُنیوی مرتبے کا مزا چکھتا تو اس سے اُوپر والے مرتبے کا شوق رکھتا، یہاں تک کہ جب خلافت کا مزا چکھا جو سب سے بلند طبقہ ہے تو اب اُس چیز کا شوق ہوا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ص ۸۹۷)

ایک ہی گرتا

اکثر اوقات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے جسم پر صرف ایک ہی لباس رہتا تھا جسے دھو دھو کر پہن لیتے تھے، ایک مرتبہ جمعہ کے لئے

تاخیر سے پہنچے، لوگوں نے تاخیر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: ”خادم میرے کپڑے دھونے کے لئے لے گیا تھا، اس لئے میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔“ یہ سن کر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ہی لباس ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۲)

آٹھ سو کی چادر اور آٹھ درہم کا کمبل

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک شخص سے فرمایا: آٹھ درہم کا کمبل خرید کر لاؤ۔ وہ صاحب خرید کر لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بہت پسند کیا اور ہاتھ میں لے کر فرمایا: ”بڑا نرم ہے۔“ یہ سن کر وہ بے ساختہ ہنسنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”عجیب احمق آدمی ہو، بلاوجہ ہنستے ہو!“ وہ صاحب کہنے لگے۔ ”حضور! میں احمق نہیں ہوں، دراصل مجھے یاد آیا کہ جب آپ گورز تھے تو مجھے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک عمدہ قسم کی گرم چادر خرید کر لاؤں۔ میں نے آٹھ سو درہم کی چادر خرید کر پیش کی تھی تو آپ نے اس پر ہاتھ رکھتے ہی فرمایا تھا: ”بڑی گھردری اٹھالائے۔“ اور آج آٹھ درہم کے موٹے سے کمبل کو فرمایا جا رہا ہے کہ ”بڑا ملائم ہے“ اس پر مجھے تعجب ہوا اور بے ساختہ ہنسی آگئی۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: ”جو شخص آٹھ سو کا کمبل خریدتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ عزَّ وَجَلَّ سے بھی ڈرتا ہے۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۳)

12 درہم کا لباس

حضرت سیدنا رجا بن حیوۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے حضرت سیدنا عمر

بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کی قدیم حالت کو دیکھا تھا، فرماتے ہیں: ”خليفة ہونے کے بعد اُن کے لباس یعنی عمامہ، قمیص، قبا (اچکن)، کُرتہ، موزہ اور چادر وغیرہ کی قیمت لگائی گئی تو صرف 12 دِزہم ٹھہری۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۱۷۴)

لباس کی سادگی

حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ جس وقت بادشاہ نہ تھے اُس وقت بادشاہوں کی سی زندگی گزارتے تھے اور جس وقت عمامہ خلافت سر پر باندھا تو بالکل سادہ مزاج ہو گئے، ایک بار قمیص کے گریبان میں آگے اور پیچھے دونوں طرف پیوند لگے ہوئے تھے، نماز جمعہ پڑھا کر بیٹھے تو ایک شخص نے کہا: **يَا امير المؤمنين! الله عز وجل** نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، کاش! آپ عمدہ کپڑے پہنتے! یہ سن کر تھوڑی دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر فرمایا: **اِنَّ اَفْضَلَ الْقَصْدِ عِنْدَ الْجِدَّةِ وَاَفْضَلَ الْعَفْوِ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ** یعنی تممول (یعنی امیری) کی حالت میں میانہ روی اور قوت و قدرت رکھتے ہوئے عَفْوٌ و دَرَكَوْرٌ بہتر ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۷۳)

سادہ لباس کی فضیلت

نبت نئے ڈیزائن اور طرح طرح کی تراش خراش والے مہنگے لباس پہننے والوں کے لئے ان حکایات میں دَرَسِ عَظِيمِ پوشیدہ ہے، واقعی اگر ہم سادگی اپنائیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے، چنانچہ سادہ لباس پہننے کی فضیلت پڑھئے اور جھومئے۔ **تاجدارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** نے ارشاد فرمایا: **مَنْ تَرَكَ لُبْسَ**

ثَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضَعًا كَسَاءَهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ لِعَنِي جَوْابُؤُودٍ
قُدْرَتِ اِطَّحْتِي كَيْطْرَةَ پِهْنَانَا، تَوَاضَعُ (عاجزی) کے طور پر چھوڑ دے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو

گرامت کا حُلَّہ (یعنی جنتی لباس) پہنائے گا۔ (ابوداؤد ج ۴ ص ۳۲۶، حدیث ۳۷۷۸)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

نماز پنجگانہ کا اہتمام

نماز پنجگانہ نہایت پابندی کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے تھے۔ اذان کی
آواز صاف طور پر سننے کے لئے گھر میں مغرب کی طرف ایک چھوٹی سے کھڑکی بنا رکھی
تھی، اگر مؤذن اذان دینے میں دیر کرتا تھا تو آدمی بھیج کر کہلوادیتے کہ وقت ہو گیا
ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۱) جب مؤذن اذان دیتا تو کوشش کرتے کہ اذان کی آواز
کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائیں۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۷۸)

نماز کی حفاظت کی تاکید

جعفر بن بُرقان کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ
العزیز نے ہمیں مکتوب میں لکھا: دین کی سربلندی اور اسلام کی پائیداری ان باتوں
میں ہے: اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، وَاَقَامُ الصَّلَاةِ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا
وَحَافِظُ عَلَیْهَا لِعَنِي (۱) اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان رکھنا (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا،
لہذا تم نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو اور اس میں ہمیشگی اختیار کرو۔ (درمنثور ج ۱ ص ۷۱۸)

شب بیداری

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی زندگی کا سب سے پُر اُخْر منظر راتوں کو دکھائی دیتا ہے جو اُن کی عبادت گزاری کا اصل وقت تھا۔ اس مقصد کے لیے گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص کر لیا تھا جس میں کمبل کے سِلے ہوئے کپڑے رکھے رہتے تھے، جب رات کا چھلا پہر ہوتا، تو دن کے کپڑے اُتار ڈالتے اور ان کپڑوں کو پہن کر صبح ہونے تک مُنجات اور گریہ و زاری میں مصروف رہتے اسی حالت میں آنکھ لگ جاتی جب بیدار ہوتے تو پھر سے آہ و بکا شروع کر دیتے، صبح ہوتی تو ان کپڑوں کو تہہ کر کے صندوق میں رکھ دیتے۔ مرنے سے پہلے اس صندوق کو ایک غلام کے پاس امانت رکھ دیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو دریا میں بہا دینے کی وصیت کی تھی، جب خاندانِ بُو اُمیہ کو اس صندوق کا حال معلوم ہوا تو غلام سے طلب کیا، اس نے کہا بھی کہ اس میں مال و دولت نہیں ہے لیکن ان کی حرص و طمع نے اس کا اِعتبار نہیں کیا اور صندوق کو اٹھا کر نئے خلیفہ یزید بن عبد الملک کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے تمام خاندان کے سامنے کھولا تو اندر سے کمبل کا وہی لباس نکلا جسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر رات کو پہنا کرتے تھے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۱۰، ۲۱۱ ملخصاً)

عبادت گزاروں کی رات

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک شخص کو لکھا: اگر تم

سے ہو سکتے تو عید قربان کی رات عبادت میں بسر کرو کیونکہ یہ لیلۃ العابدین (یعنی عبادت گزاروں کی رات) ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۵)

رحمت کی چار راتیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بصرہ کے گورنر عدی بن ارقطہ کو لکھا: سال بھر میں چار راتوں کو خوب یاد رکھو کیونکہ ان راتوں میں اللہ عزوجل رحمت کی چھماچھم برسات فرماتا ہے: (۱) رجب کی پہلی رات (۲) شعبان کی پندرھویں رات (۳) عید الفطر کی رات اور (۴) عید قربان کی رات۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۷)

زکوٰۃ کی ادائیگی اور نفلی روزوں کا اہتمام

اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے ادا فرماتے تھے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھے 30 درہم دیئے اور کہا کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۸) آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے چنانچہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول تھا، علاوہ ازیں یوم عاشورا اور عرفة (یعنی 9 ذوالحجہ الحرام) کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۱)

شکر کی بوریاں صدقہ کیا کرتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز شکر (یعنی چینی) کی بوریاں

خرید کر صدقہ کرتے تھے ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے فرمایا
شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ راہِ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔

(قرطبی، ج ۲، ص ۱۰۱)

شوقِ تلاوت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز روزانہ صبح سویرے

قرآن مجید کی تھوڑی دیر تلاوت کرتے اور رات کے وقت جب سوتے تو نہایت پُرسوز
لہجہ میں سورہ اعراف کی یہ آیتیں پڑھتے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں
بنائے (پ ۸، اعراف: ۵۴)

اور:

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۷﴾
ترجمہ کنزالایمان: کیا بستیوں والے نہیں
ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب
وہ سوتے ہوں۔ (پ ۹، اعراف: ۹۷)

بعض اوقات ایک ہی سورہ مبارکہ کو بار بار رات بھر پڑھا کرتے تھے،

چنانچہ ایک رات سورہ انفال شروع کی تو صبح تک پڑھتے رہے۔

(حلیۃ الاولیاء، ج ۵، ص ۸۵ ملخصاً، وسیرت ابن جوزی ص ۲۱۱)

ایک طرف کو جھک گئے

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے برسرِ منبر یہ

آیت پڑھی:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

الْقِيَامَةِ (پ ۷۱، الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم عدل کی

ترازوں میں رکھیں گے قیامت کے دن۔

تو خوف سے ایک طرف کو جھک گئے گویا زمین پر گر رہے ہیں۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۶)

آیت مکمل نہ پڑھ سکے

ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ سورۃ

وَاللَّيْلِ پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے:

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو میں تمہیں ڈراتا

ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ (پ ۳۰، اللیل: ۱۳)

تو روتے روتے ہچکی بندھ گئی، آگے نہیں پڑھ سکے، نئے سرے سے تلاوت شروع

کی، جب اس آیت پر پہنچے تو پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور آگے نہیں پڑھ سکے،

بالآخر یہ سورت چھوڑ کر دوسری سورت پڑھی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۲)

رونے والے کو جنت ملے گی

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! تلاوت میں رونا اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ سرکارِ

مدینہ سُورِ قلبِ وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اسکی رغبتِ دلالتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ہم سے فرمایا: ”میں تمہارے سامنے سورۃ التَّكْوِيْنِ پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے، جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اِنِّي قَارِئُهَا عَلَيْكُمْ الثَّانِيَةَ فَمَنْ بَكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ اَنْ يَبْكِيَ فَلْيَتَّبِكَ لِيَعْنِي فِي تَهَارِئِ سَامِنِي اِسے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اُس کے لئے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ (درمنثور ج ۸، ص ۶۱۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! سورۃ التَّكْوِيْنِ میں غفلت کے ساتھ جمعِ مال کی حوصلہ شکنی اور قبورِ جہنم کا ہولناک تذکرہ ہے۔ کاش! اس کو پڑھ سُن کر ہم گنہگار بھی رو دیا کریں۔

رونے کا طریقہ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”جب آیتِ سجدہ پڑھو سجدہ کرنے سے پہلے روؤ، اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو

رونا چاہئے۔ (تفسیر کبیر 7/551) بے تکلف رونا کا طریقہ یہ ہے کہ عالمِ ارواح میں کئے ہوئے اپنے عہد (کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا) کو یاد کرے اور بد عہدی کی صورت میں قرآن پاک میں وارد ہونے والی عذاب کی وعیدوں کو تصور میں لائیں۔ اُسکے احکامات اور اپنی نافرمانیوں پر غور کریں اس سے امید ہے دل میں غم کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر دل بہت زیادہ سخت ہے کہ اس طرح بھی رونا نہ آئے تو پھر اپنے دل کی سختی پر روئے۔

ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا

مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے

دورانِ تلاوت اگر کوئی خوف کی آیت آتی تو حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز گریہ و زاری کرتے، اگر رحمت کی آیت آتی تو دعا کرتے۔ جب اُن آیتوں کو پڑھتے تھے جن میں احوالِ قیامت کا ذکر ہوتا تو بے ساختہ رو پڑتے، بعض اوقات تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی ہی مزید 5 حکایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ

(۱) آنسوؤں کی جھڑی

حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام ابو عمر کا بیان ہے

کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز گورنر تھے میں جدہ سے ان کے لئے تحائف لے کر مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً و تکریماً پہنچا تو وہ فجر کی

نماز ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں موجود تھے اور گود میں قرآن پاک لئے تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔

(سیرت ابن جوزی ۳۲)

۷۔ فلموں سے ڈراموں سے عطا کر دے تو نفرت

بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے (وسائل بخشش ص ۱۰۵)

(۲) دھاڑیں مار مار کر رونے لگے

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس

پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت 13 پڑھی:

وَإِذِ الَّذِينَ اتَّخَفُوا مَكَانًا صَيِّفًا

مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿۱۳﴾

تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ (پ ۱۸، الفرقان: ۱۳)

تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، آخر کار وہاں سے اٹھے اور گھر

میں داخل ہو گئے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۷)

کاش لب پر مرے رہے جاری ذِکْرُ آٹھوں پہر تزا یارب

چشمِ تَر اور قلبِ مُضْطَرِّدے اپنی اُلفت کی مے پلا یارب

(۳) بیٹے سے تلاوت سُنی

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے بیٹے

سے فرمایا: بیٹا! قرآن پاک سناؤ۔ عرض کی: کیا پڑھوں؟ فرمایا: ”سورۃ ق۔“ بیٹے نے پڑھنی شروع کی جب وہ اس کی آیت 19 پر پہنچے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ^ط ترجمہ کنزالایمان: اور آئی موت کی سختی
ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدًا ۝۱۹ حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے توجھاگتا تھا۔

(پ ۲۶، ق: ۱۹)

تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا: پھر پڑھو، میرے بیٹے! پھر پڑھو۔ عرض کی: کیا پڑھوں فرمایا: سورۃ ق پڑھو۔ بیٹے نے پھر پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ دوبارہ اسی آیت پر پہنچے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز زور زور سے رونے لگے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۷)

طالب مغفرت ہوں یا اللہ بخش دے بہر مرتضیٰ یارب
کردے جنت میں تو جو اران کا اپنے عطار کو عطا یارب
(وسائل بخشش ص ۸۸)

(۴) غلطی نکلنے کا ہوش تھا!

قرآن مجید کوسن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز پر محویت کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ ایک بار کسی شخص نے ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورۃ پڑھی تو حاضرین میں سے ایک صاحب بول اٹھے کہ اس نے پڑھنے میں غلطی کی ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا کہ قرآن مجید سنتے وقت ان کو اس کا ہوش تھا! (سیرت ابن جوزی ص ۲۲ ملخصاً)

(۵) تلاوت ہو تو ایسی ہو!

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبدالمملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا بہت زیادہ رویا کرتیں یہاں تک کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ ان کے بھائی مسلمہ اور ہشام آئے اور کہا: ”پیاری بہن! آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو وہ واقعی ایسے مرد مجاہد تھے کہ ان کے لئے رویا جائے، اگر دنیوی مال و دولت کی کمی رُلا رہی ہے تو ہم اور ہمارے اموال سب آپ کے لئے حاضر ہیں؟“

حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبدالمملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا: ”میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی نہیں رو رہی۔ خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم! مجھے تو وہ عجیب و غریب اور دزد بھرا منظر رُلا رہا ہے جو میں نے ایک رات دیکھا۔ اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی یہ حالت ہوگئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا۔“ بھائیوں نے تفصیل پوچھی تو فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب قراءت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے:

یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۝

ترجمہ کنز الایمان: جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون۔

(پ ۳۰، القارعة: ۴-۵)

تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا: ”ہائے! اس دن میرا کیا حال ہوگا۔ ہائے! وہ دن کتنا کٹھن و دشوار ہوگا۔“ پھر منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں پھر ایک دم ایسے خاموش ہو گئے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دم نہ نکل گیا ہو! کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے: ”ہائے! اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا۔“ اور آہ وزاری کرتے ہوئے بے قراری سے صحن میں چکر لگانے لگے اور فرمایا: ”ہائے! اس دن میری ہلاکت ہوگی جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ ڈھنکی ہوئی اُون کی طرح ہو جائیں گے۔“ ساری رات ان کی یہی کیفیت رہی۔ جب صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو دوبارہ گر پڑے، اب کی بار تو میں سمجھی کہ روح پرواز کر گئی ہے مگر کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ ہی گیا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبدالمکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا: خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں باوجود کوشش میں اپنے آنسو نہیں روک پاتی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۳)

خوف آتا ہے نارِ دوزخ سے ہو کرم بہرِ مصطفیٰ یارب
میرا نازک بدن جہنم سے بہرِ غوث و رضا بچا یارب
(وسائلِ بخشش ص ۸۸)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ أَنْ كَفَرَ هُوَ

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّد

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہمارے بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْنِ خُوفِ خِدا

عَزَّوَجَلَّ سے کس طرح لڑناں و تڑساں رہا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور گناہوں سے حد درجہ ڈوری کے باوجود وہ پاکیزہ خصلت لوگ کُثْرَ نَشْر کے بارے میں کس قدر فکر مند رہتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ اپنی آخرت اور حساب و کتاب کو بھولے بیٹھے ہیں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آکر ہم نے گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، گناہوں کے ارتکاب پر ندامت نہ نیکوں سے محرومی پر شرمندگی، اے کاش! ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اشکِ ندامت نصیب ہو جائیں،

ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا

ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

امیر المؤمنین کا خوفِ خدا

دنیا میں اور بھی بہت سے عظیم المرتبت بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْن

گزرے ہیں جن کا دل نشیتِ الہی سے لڑتا رہتا تھا لیکن حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کی انفرادیت یہ ہے کہ جو مُنْصَب و وَجَاہت انسان کے

دل کو سُخْت کر دیتا ہے اُسی نے ان کے دل کو نِزَم کر دیا تھا۔ عِزَّت و حِشْمَت انسان کو

غافل کر دیتے ہیں لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کے دل کو

انہی چیزوں نے خوفِ خدا کا آشیانہ بنا دیا تھا، چنانچہ

خوفِ خدا کی ضرورت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے ایک بیان میں فرمایا: لوگو! خوفِ خدا کو لازم پکڑ لو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف ہر چیز کا بدل ہے مگر اس کا کوئی بدل نہیں، اے لوگو! میں تم سے مال و دولت بچا کر نہیں رکھوں گا مگر جہاں ضرورت ہوگی وہیں صرف کروں گا، یاد رکھو! خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ۳۶) ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو! مہلت زیادہ طویل اور قیامت کا دن کچھ زیادہ دُور نہیں، جس کی موت آن پہنچی اس کے لئے قیامت برپا ہوگئی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ۳۷)

میرے لئے دُعا کرنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے اپنے ایک فوجی افسر کو لکھا: ”خدا عَزَّوَجَلَّ کی عظمت اور شہادت کا سب سے زیادہ مستحق بندہ وہ ہے جو اس مصیبت میں مُبتلا ہو جس میں اس وقت میں خود مُبتلا ہوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک مجھ سے بڑھ کر سخت عذاب کا حقدار اور مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جہاد کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ جب تم صفِ جنگ میں کھڑے ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔“

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۵۰۸)

خوفِ خدا کے اثرات

حضرت سیدنا ابوسائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے کبھی کسی شخص کے چہرے پر ایسا خوف یا شُوع نہیں دیکھا جیسا عمر بن عبدالعزیز (عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيز) کے چہرے پر دیکھا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۹۴)

اہلیہ محترمہ کی گواہی

باہر کے لوگ تو کسی سے متاثر ہو ہی جاتے ہیں، گھر والے بھی اس سے متاثر ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيز انہی میں سے ایک ہیں چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا سے امیر المؤمنین کی عبادت کا حال دریافت کیا گیا تو کہنے لگیں: ”وہ اور لوگوں سے بڑھ کر نماز، روزہ کی کثرت تو نہیں کرتے تھے لیکن میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے نہیں دیکھا، وہ اپنے بستر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو خوفِ خدا کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑپھڑانے لگتے یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوتا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور لوگ صبح کو اٹھیں گے تو خلیفہ سے محروم ہوں گے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۲)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمَكَ هُوَ أَوْ أَنْ يَصَدِّقَكَ هَمَارِي مَغْفِرَتِ هُوَ

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ

امیر المؤمنین کی یاد موت

اُمراء و سلاطین کے یہاں راتوں کو عموماً بزمِ عیش و طرب مُنْعَقِد ہوتی ہے لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے یہاں رات کے وقت فقہاء کرام جمع ہوتے، موت اور قیامت کا ذکر ہوتا اور حاضرین اس طرح روتے تھے گویا اُن کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۵)

قبر والے کے بارے میں سوچتے رہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اپنے ایک ہم نشین سے کہا کہ میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ اُس نے پوچھا: کس چیز کے متعلق غور و فکر کرتے رہے؟ فرمایا: اگر تم میت کو تین دن بعد اس کی قبر میں دیکھو تو تمہیں اُس کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک مانوس رہنے کے باوجود اُس سے وَشْت ہونے لگے اور اگر تم اس کے گھر (یعنی قبر) کو دیکھو جس میں کیڑے پھر رہے ہوں، پیپ جاری ہو، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، بدبو بھی آ رہی ہو اور اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہو، جبکہ پہلے وہ خوبصورت تھا، اس کی خوشبو اچھی تھی اور کپڑے بھی صاف تھے، اتنا کہنے کے بعد آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہَا آمَنَیں اور آپ کے چہرہ مبارک پر پانی کے چھینٹے پھینکے، جب آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ زوجہ محترمہ رو رہی ہیں، پوچھا: يَا فَاطِمَةُ مَا يَبْكِيكِ یعنی فاطمہ تمہیں کس چیز نے رُلا یا؟ عرض کی: يَا امیر المؤمنین! آپ کی

دنیا کی رخصتی اور ہم سے جدائی کے خیال نے مجھے رُلا دیا ہے۔ فرمایا: فاطمہ! تم نے سچ کہا۔ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو گرنے لگے، زوجہ محترمہ نے ان کو پکڑ کر گرنے سے بچایا اور کہا: ہم آپ کے بارے میں اپنے دل کی کیفیات کی پوری ترجمانی نہیں کر سکتے۔ امیر المؤمنین پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا تو حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے اُن کے چہرے پر پانی ڈالا اور آواز دی: **یا امیر المؤمنین!** نماز کا وقت ہو گیا، تو گھبرا کر اٹھ گئے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۲ و سیرت ابن جوزی ص ۲۲۱)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہم بھی اپنے دوستوں اور عزیز واقارب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، مگر ہماری مَحَلوں اور بیٹھکوں میں قہر و خشم، جزا و سزا اور دیگر امورِ آخرت کے بارے میں کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب اپنے ضمیر سے پوچھئے! اے کاش! کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے صدقے ہمیں بھی حقیقی فکرِ آخرت نصیب ہو جائے۔ **اٰمِیْن بِجَہِ النَّبِیِّ الْاٰمِیْن** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

موت کو یاد کیا کرو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے کسی قریبی عزیز کو مکتوب میں لکھا: ”اگر تمہیں دن یا رات میں کسی وقت موت کو یاد کرنے کا شعور مل

جائے تو دنیا کی سب فانی اشیاء تمہیں ناپسند اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی چیزیں محبوب

ہو جائیں گی۔“ والسلام (حلیۃ الاولیاء جزء ۵ ص ۲۹۹)

آبا و اجداد کی قبروں سے عبرت پکڑتے

حضرت سیدنا میمون بن مہر ان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت

سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے ہمراہ قبرستان گیا۔ جب انہوں نے

قبروں کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا: اے میمون! یہ میرے آبا و اجداد بنو امیہ کی قبریں

ہیں، گویا وہ دنیا والوں کے ساتھ اُن کی لذتوں میں شریک نہیں ہوئے، کیا تم انہیں نہیں

دیکھتے وہ کچھڑ گئے اور اب محض اُن کے قصے باقی ہیں۔ (احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۶۴)

آخرت کی فکر دلانے والا ایک مکتوب

ایک گورنر کو فکرِ آخرت سے معمور مکتوب میں فرمایا: تم اپنے آپ کے بارے

میں جلد سوچ و بچار کرو اس سے پہلے کہ تمہیں شدید غم میں مبتلا کر دیا جائے جیسا کہ تم

سے پہلے لوگوں کو کیا گیا تھا تم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیسے مرتے ہیں اور کس طرح

اپنے پیاروں سے جدا ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھا موت کیسے جلدی جلدی تو بہ کر داتی

ہے اور لمبا عرصہ جینے کی امید رکھنے والوں سے اُمید کو ختم کرتی ہے اور بادشاہ سے اس

کی سلطنت مانگتی ہے، موت ہی بڑی نصیحت ہے، دنیا سے رُوح کو لے جانے

اور آخرت میں رَغْبَتِ دلانے والی ہے، ہم بُری موت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے

ہیں، ہم تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھی موت اور موت کے بعد خیر کا سوال کرتے ہیں۔ تم اپنے کسی

ایسے قول و فعل سے دنیا کو طلب نہ کرو جس سے تمہاری آخرت کو نقصان پہنچے، اس کی وجہ سے رب عَزَّوَجَلَّ تجھ سے ناراض ہو جائے اور ایمان رکھو کہ تقدیر تمہارے پاس تمہارا رِزق پہنچا دے گی اور تمہیں تمہاری دُنیا میں سے پورا پورا حصہ دے گی جس میں تمہاری قوت کی وجہ سے نہ تو زیادتی ہوگی اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اُس میں کچھ کمی ہوگی، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں فقر میں مُبتلا کر دے تو اپنی غربت میں عِفَّت و پاکیزگی اختیار کرنا اور اپنے رب کے فیصلے کے سامنے سر جُھکا دینا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں جو اسلام جیسی عظیم دولت رکھی ہے اُسی کو غنیمت سمجھنا، دنیا کی جو نعمتیں تمہیں حاصل نہ ہوں تو تم اپنا یہ ذہن بنا لو کہ اسلام میں فانی دنیا کے سونے اور چاندی سے بہتر بدلہ موجود ہے۔ جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا اور جنت کی تلاش میں لگتا ہے اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کبھی نقصان نہیں پہنچاتا اور جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور جہنم کا خطرہ مول لیتا ہے اُسے کبھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۱۲)

موت سے ڈرو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: اِحْذَرُوا الْمَوْتَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ مَا قَبْلَهُ وَأَهْوَلُ مَا بَعْدَهُ یعنی موت سے ڈرو کیونکہ اس کے پہلے کے معاملات شدید اور بعد کے شدید تر ہیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۹)

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ فرمایا کرتے تھے: میں

نے کبھی ایسا یقین نہیں دیکھا جس میں شک کی ملاوٹ ہو جیسا لوگوں کا موت کے بارے میں دیکھا کہ وہ اس کا یقین تو رکھتے ہیں مگر جب اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں موت کی آمد کے بارے میں کوئی شک ہے۔

(قرطبی، ج ۵، ص ۳۸)

ہر خطا تُو دَرگُور کر بیکس و مجبور کی یا الہی! مغفرت کر بیکس و مجبور کی
زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جاں چلے تیری رضا پر بیکس و مجبور کی

(وسائل بخشش ص ۷۶)

قبر کی دل ہلا دینے والی کہانی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے، کسی نے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا: ”ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پُکار کر کہا: اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اُس قبر سے کہا: مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی: جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اُس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جُدا کر دیتی ہوں“۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز

ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے: ”اے اسلامی بھائیو! اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے، جو اس دنیا میں (سخت گنہگار ہونے کے باوجود) صاحبِ اقتدار ہے وہ (آخرت میں) انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ (آخرت میں) فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوتِ قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیٹ اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہِ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے انکے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! دنیا میں یہ آرام دہ زَمْ زَم بستر پر ہوتے تھے لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسائے، انکی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ! ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور واللہ! بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس صد ہزار افسوس، اے نادان! جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہ ہلا رہا ہے، کسی کو گفن پہنارہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے،

کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفن کر رہا ہے۔ (یاد رکھ! کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے) کاش مجھے علم ہوتا! کون سا گال (قبر میں) پہلے خراب ہوگا، پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ رُوْنِ لَگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتہ کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ (الروض الفائق ص ۱۰۸ ملخصاً)

زادِ آخِرَت تیار کر لو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ نے ایک مرتبہ فکّرِ آخِرَت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا: اس موت نے دنیا والوں کی چمک دمک کو خراب و پراگندہ کر دیا، جب ان کے پاس ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام تشریف لے آئے تو جس حالت میں وہ تھے اسی حال میں ان کی رُوح قبض کر لی، جہانِ آخِرَت میں حسرت و افسوس ہے اس کے لئے جو موت سے نہ ڈرے، اے کاش! ایسا شخص خُزَمی و آسانی میں موت کو یاد کرتا تو اپنے لئے کوئی خیر آگے بھیجتا، جسے دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑنے کے بعد پاتا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۹۸)

بوسیدہ نہ ہونے والا کفن

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو ایک قبر سے آواز آئی کیا میں آپ کو ایسے کفن کے بارے میں نہ بتاؤں جو بوسیدہ نہیں ہوتا! آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جواب دیا: ”ضرور بتاؤ۔“

آواز آئی: تقویٰ اور نیکیوں کا کفن۔ (الہدایہ والنہایہ، ج ۶، ص ۳۳۳)

موت کو یاد کرنے کا فائدہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اہل شام کو ایک خط میں حمد و صلوات کے بعد لکھا: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ یعنی جو موت کو اکثر یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی شے پر راضی ہو جاتا ہے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۴۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! کیسی پیاری نصیحت ہے کہ دنیا سے رخصتی جس کے پیش نظر ہوگی وہ ’ہَلْ مِنْ مَّزِيدٍ‘ (یعنی کچھ اور ہے؟) کا نعرہ بلند نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑی چیز بھی اس کے لئے کافی ہوگی۔

دنیاوی رنج و غم کا علاج

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے شہزادے عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے: إِذَا كُنْتَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا يَسُوءُكَ فَادْكُرِ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ يَسْهَلُ عَلَيْكَ یعنی جب تمہیں دنیاوی رنج و غم پہنچے تو موت کو یاد کر لیا کرو اس کا سہنا آسان ہو جائے گا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۹)

واقعی اگر موت کی سختیاں پیش نظر رکھی جائیں تو ہر دنیاوی مصیبت اس کے سامنے بہت چھوٹی دکھائی دے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے موت کی شدت کے بارے میں فرمایا: آسان ترین موت اُون میں کانٹے دار ٹہنی کی

طرح ہے، اُسے جب کھینچا جائے گا تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اُون بھی نکل آئے
آئے گی۔ (کنز العمال، کتاب الموت، الحدیث ۴۲۱۶۷ ج ۱۵، ص ۲۳۹)

کانٹے دار ٹہنی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ! حضرت
کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: امیر المؤمنین! موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں
بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہوگئی ہو اور اس کے ہر کانٹے
نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے، کچھ باہر آ جائے
اور باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ (جامع العلوم، الحدیث ۳۸ ص ۲۵۹)

دنیا میں آنا آسان، یہاں سے جانا مشکل ہے

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: دنیا میں
داخل آسان مگر یہاں سے جانا آسان نہیں ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۳ ص ۲۵۸)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! موت کے وقت تین باتوں کا سامنا ہوتا ہے، پہلی
نزع کی تکلیف، جو ابھی مذکور ہو چکی ہے، دوسری حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی
صورت کا مشاہدہ اور اُسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف و دہشت کا پیدا ہونا، اگر بے
پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت کی اس صورت کو دیکھ لے جو وہ فاسق و فاجر کی
موت کے وقت لے کر آتے ہیں تو اس کی تاب نہ لاسکے، چنانچہ

بے ہوش ہو گئے

حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا: کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گنہگاروں کی رُوح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام بولے: آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا: تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ کیجئے۔ جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا سیاہ آدمی نظر آیا جس کے رُونگے کھڑے ہوئے تھے، بدبو کے بھٹھکے اٹھ رہے تھے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دُھواں اٹھ رہا تھا، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر بہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام سابقہ شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اگر سابقہ وفا جریلئے موت کی اور کوئی سختی نہ ہو تب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی اُس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ (مکافئۃ القلوب، ص ۱۶۹)

کر امین کا تینین کا سامنا

موت کے وقت ایک نازک لمحہ محافظ فرشتوں کو دیکھنے کا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا وُھیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اگر وہ

آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس میں بٹھایا اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دیئے، اور اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بُری مجالس میں ہمیں بٹھایا اور گناہوں اور فُحش کلام سننے پر مجبور کیا، اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا۔

(مکاشفة القلوب، ص ۱۷۰)

مُرغِ بَسَل کی طرح تڑپتے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مُرغِ بِسْمَل (یعنی ذبح ہونے والے مُرغ) کی طرح تڑپنے لگتے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۴)

نَزَمِ حَدِيثِ بِيَانِ كَرْتَا

حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ الرحمن سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھے کہا: اے میمون! مجھے کوئی حدیث سنائیے تو میں نے انہیں ایک حدیث سنائی جسے سن کر وہ اتنا زیادہ روئے کہ مجھے کہنا پڑا: یا امیر المؤمنین!! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس کو سن کر اتنا روئیں گے تو میں

اس سے کچھ فزوم حدیث بیان کرتا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۶)

رُونگٹے کھڑے ہو جاتے

حضرت سیدنا ابن ابی عروبوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ اضْطَرَبَتْ أَوْصَالُهُ لِعَنِي حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ جَب مَوْت كَو يَاد كَرْتِي تَوَان كِي رُونگٹے كھڑے ہو جاتے۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۳۹)

کتنا سفر باقی ہے؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک خط میں کسی کو سمجھاتے ہوئے لکھا: میرے بھائی! تم بہت سا سفر طے کر چکے اور تھوڑا سا باقی ہے، خود کو دنیا کے دھوکے میں مٹبتلا ہونے سے بچانا کیونکہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو، میرے بھائی! تم موت کے قریب ہو چکے ہو لہذا تم خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لو نہ کہ لوگ تمہیں سمجھائیں۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۴۴)

میزبان کے پاس کب تک رہیں گے؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں نے گذشتہ رات ایک سورہ مبارکہ پڑھی جس میں زیارت کا ذکر ہے، یعنی

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝۱ حَتّٰی دُرْتُمْ

ترجمہ: کثرت الایمان: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ

طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔

(پ: ۳۰، الکاشف: ۲۰۱)

پھر پوچھا اب بتاؤ کہ زیارت کرنے والا اپنے میزبان (یعنی قبر) کے پاس کب تک رہے گا؟ آخر کار اسے وہاں سے واپس لوٹنا ہے مگر معلوم نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف! (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۶)

اُٹھنے والے جنازوں سے عبرت پکڑو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا: اے لوگو! تمہارے پاس جو مال ہے وہ مرنے والوں کا چھوڑا ہوا ہے، بالآخر تم بھی اسے یہیں چھوڑ جاؤ گے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روزانہ صبح یا شام کے وقت اس دنیا سے رخصت ہونے والے کے جنازے میں پیچھے پیچھے چلتے ہو، تم اسے قبر کے اس گڑھے میں اتار آتے ہو جہاں بچھونا ہے نہ تکیہ، یہ مرنے والا اپنا سارا مال و متاع یہیں چھوڑ جاتا ہے، دوست احباب سے جدا ہو کر مٹی کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، حساب و کتاب کا سامنا کرتا ہے، اسی کا محتاج ہوتا ہے جو اس نے آگے بھیجا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس سے بے نیاز ہوتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ آنکھوں پر کپڑا رکھ کر رونے لگے اور منبر سے نیچے اتر آئے۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۰)

موت کو یاد کیا کرو

ایک قریشی جو خلفاء کے ہاں جب بھی اپنی ضرورت لے کر آتا تو ناکام نہیں جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے پاس بھی آیا اور کوئی

ضرورت پیش کی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”لَا يَجُوزُ هَذَا لِعَنِي يَتَوَجَّازُ
 نہیں۔“ خلاف معمول وہ اپنے مقصد میں خود کو ناکام ہوتا دیکھ کر غصے سے چل دیا۔
 حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اسے دوبارہ بلایا، وہ سمجھا شاید
 اب ان کی رائے بدل گئی ہو اور یہ میرا کام کر دیں گے۔ جب وہ واپس آیا تو آپ
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا فَأَعْجَبَكَ فَأَذْكَرِ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ
 يُقِلُّهُ فِي نَفْسِكَ وَإِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَدْ غَمَّكَ وَنَزَلَ بِكَ فَأَذْكَرِ
 الْمَوْتَ فَإِنَّهُ يُسَهِّلُهُ عَلَيْكَ وَهَذَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي طَلَبْتَ لِعَنِي جَبْ دُنْيَا كِي كَسِي چيز كو
 ديكھو اور وہ تمہیں پسند آجائے تو موت کو یاد کر لیا کرو کیونکہ اس چیز کی وقعت تمہاری نظر میں کم
 ہو جائے گی اور جب تم دنیا کی کسی چیز کو دیکھو جو تمہیں نہ ملنے کی وجہ سے پریشان کر دے تو موت کو
 یاد کر لیا کرو اُس چیز کے نہ ملنے کا غم ہلکا ہو جائے گا، جاؤ یہ نصیحت اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے
 مطالبہ کیا تھا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۴۳) اسی طرح کی نصیحت ایک موقع پر عنبسہ بن سعید
 کو بھی کی: اَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، فَإِنْ كُنْتَ فِي ضَيْقٍ مِنَ الْعَيْشِ وَسَعَهُ عَلَيْكَ،
 وَإِنْ كُنْتَ فِي سَعَةٍ مِنَ الْعَيْشِ ضَيَّقَهُ عَلَيْكَ یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو اس کے دو
 فائدے ہیں اگر تم محنت و تکلیف میں مُثَمِّلًا ہو تو یادِ موت سے تم کو تسلی ہوگی اور اگر فراغت و آسودگی
 حاصل ہے تو موت کا ذکر تمہارے عیش کو تلخ کر دے گا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۳۹)

واقعی! جب انسان صدقِ دل سے اپنی موت اور اس کے بعد درپیش
 معاملات کے بارے میں غور و تفکر کرتا ہے تو دنیاوی آزمائشیں اُسے آسان اور عارضی
 دکھائی دیتی ہیں اور اگر اُسے آسائشیں میسر ہوں تو ان کی رخصتی کا خیال اُس کی دلچسپی کو

کم کر دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل فضولیات و لغویات سے دور ہو کر عبادت و ریاضت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ رحمتِ عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ

لذتوں کو مٹانے والی

جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

روایت کرتے ہیں کہ محبوبِ رحمن، سَرَّوَرِ ذیشان، رحمتِ عالمیمان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھ کر فرمایا: اگر تم لذت کو مٹا دینے

والی (موت) کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس چیز سے باز رکھتی، جس میں تمہیں مشغول دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا: اَكْثِرُوا ذِكْرَهَا ذِمِّرَ اللذات یعنی لذتوں کو مٹا

دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ (شعب الایمان ج ۱ ص ۳۹۸ حدیث ۸۲۸)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَی عَلِی مُحَمَّد

خوفِ قیامت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیْزِ رُوِيَ قِيَامَت سے بھی

نہایت خوف زدہ رہتے تھے، یزید بن خوشب کا قول ہے: ”میں نے حسن بصری اور عمر

بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) سے زیادہ کسی شخص کو قیامت سے ڈرنے والا نہیں

دیکھا، گویا دوزخ صرف انہی دونوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۶)

امیر المؤمنین کا جنتیوں اور دوزخیوں کے بارے میں غور و فکر

حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، پوچھا گیا: حضور! کیا بات ہے آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا: میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے! مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لئے پکارا کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۴)

کہیں میں دوزخیوں میں سے نہ ہوں

ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے سورۃ یونس کی آیت 61 پڑھی:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا
مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ
عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ
تُنْفِضُونَ فِيهِ (پ ۱۱، یونس: ۶۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔

تو رو دیئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رونے کی آواز اہل خانہ تک پہنچی تو زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا لپک کر آئیں جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پاس بیٹھ کر رونے لگیں، بقیہ گھر والے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک علیہ رحمۃ اللہ الخالق بھی آگئے اور سب کو روتے دیکھ کر پوچھا: ابو جان! خیریت تو ہے! آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا: بیٹا! خیریت ہی ہے، تمہارے باپ کی خواہش ہے کہ کاش وہ دنیا والوں کو اور وہ اسے نہ جانتے۔“ تھوڑے توقف کے بعد فرمایا: مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں میں دوزخیوں میں سے نہ ہوں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۷)

جنت و دوزخ کے ذکر پر رو دیئے

حضرت سیدنا محمد بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھ سے فرمایا: جنت اور دوزخ کے بارے میں تذکرہ کرو۔ جب میں نے جنت و دوزخ کے احوال بیان کئے تو اتنا روئے کہ میں نے کسی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۱۸)

حوض کوثر کے چھلکتے جام پینے کی تڑپ

حضرت سیدنا ابوسلام اَسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میرا حوض ”عَدْن“ سے ”عُثْمَان“ کی مسافت جتنا وسیع ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اسکے جام ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اس حوض پر سب سے پہلے آنے والے وہ مہاجرین فقراء ہوں گے جن کے سر گزرد آلود اور کپڑے بوسیدہ ہوں گے جو خوبصورت اور ناز و نعم والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان کے لئے دروازے کھولے جاتے تھے۔“ یہ فرمانِ بشارت نشان سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حسرت سے فرمایا: ”مگر میں نے تو خوبصورت عورتوں میں سے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کر لیا ہے اور میرے لئے دروازے کھول دیئے گئے ہیں لیکن اب میں اپنا سر نہیں دھوؤں گا جب تک پراگندہ نہ ہو جائے اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے نہیں دھوؤں گا جب تک بوسیدہ نہ ہو جائیں۔“ (ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، الحدیث ۲۴۵۲، ج ۴، ص ۲۰۱)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ پَر رَحْمَتِ هُوَ اور ان كے صَدَقَ هَمَارَى بے حساب مَغْفِرَتِ هُوَ۔ اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

قیامت کے امتحان کی فکر

ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس کسی کام سے آیا اور عرض کی: اے امیر المؤمنین! اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی منظر سے آپ بارگاہ الہی میں اپنا کھڑا ہونا یاد کیجئے جس دن دعویٰ کرنے والوں کی کثرت آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اوجھل نہیں کر سکے گی، جس دن آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے پیش ہوں گے اس دن عمل پر پھر وسوسا ہوگا نہ گناہ سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے یہ سن کر فرمایا: بھائی! یہی بات دوبارہ کہنا، اس نے اپنی بات دہرائی تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز رو پڑے اور فرمانے لگے: وہی بات ذرا پھر سے کہنا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۴۱)

قیامت کے 5 سوالات

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، تڑپیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں قیامت کا امتحان برحق ہے۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے: ”انسان اُس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ (۱) تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ (۲) جوانی کیسے گزاری؟ (۳) مال کہاں سے کمایا؟ اور (۴) کہاں کہاں خرچ کیا؟ (۵) اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟“

(جامع ترمذی حدیث ۲۴۲۴ ج ۴ ص ۱۸۸)

امتحان سر پر ہے

شیخ طریقت امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آجائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے، اُس پر ہر وقت بس ایک ہی دُھن سوار ہوتی ہے، ”امتحان سر پر ہے“ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سؤالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سؤال آجائے شاید وہ سؤال آجائے، ہر امکانی سؤال کو حل کرتا ہے حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت چل سکتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو ایک سال کی ترقی مل جاتی ہے جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ایک سال کی ملنے والی ترقی سے اسکو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھئے تو سہی! اس دُنیوی امتحان کی تیاری کیلئے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند گشا گولیاں کھا کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے آہ! قیامت کے امتحان کیلئے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں عذاب جہنم کا استحقاق ہے۔ (ماخوذ از قیامت کا امتحان، ص ۹)

صرف ایک نیکی چاہئے

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہم سبھی کو قیامت کے ہوشمربا حالات پر غور کرنا

چاہئے اور گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہئے، اُس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر محسوس ہوگی، چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنی مشہور زمانہ تفسیر ”تفسیر قرطبی“ میں لکھتے ہیں:

حضرت سیدنا عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا: ابو جان! کیا میں آپ کا فرماں بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے مَحَبَّت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گر افتار ہوں! مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہے گا:

”میرے بیٹے! تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اُسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔“ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا: آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوا ل کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ یونہی ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے گا: کیا میں تیرے ساتھ حُسن سلوک نہ کرتا تھا؟ میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے میں نجات پا جاؤں۔ بیوی جواب دے گی: آپ نے ایک ہی چیز مانگی ہے لیکن میں بھی اسی طرح ڈرتی ہوں جس طرح آپ ڈرتے ہیں۔“ حضرت سیدنا فَصَّیْل بن عِیَاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”بروزِ قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی: ”میرے لال! کیا میرا پیٹ تیرے لئے جائے قرار نہ تھا؟ کیا میرا

سینہ تیرے لئے (دودھ کا) مشکیزہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لئے آرام گاہ نہ تھی؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا: ”کیوں نہیں، امی جان!“ ماں بولے گی: ”آج میں گناہوں کے بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، تو ان میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ اٹھالے۔ بیٹا انکار کرتے ہوئے کہے گا: ”امی جان! جائیے کیونکہ مجھے تو خود اپنے گناہوں کی فکر پڑی ہے۔“ (قرطبی ج ۷ ص ۲۴۷)

قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو کرم سے ترے عرش کا یا الہی
خدا یا مجھے بے حساب بخش دینا مرے غوث کا واسطہ یا الہی
جو ار اپنی جنت میں مجھ کو عطا کر

ترے پیارے محبوب کا یا الہی

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

پِلِ صِرَاطِ سَے گزرو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کی ایک کنیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، ”عالی جاہ! میں نے خواب میں عجیب معاملہ دیکھا۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے دریافت کرنے پر وہ یوں عرض گزار ہوئی: ”میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا پھر اموی خلفاء کو لایا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو اس پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ وہ پل صراط پر چلنے لگا لیکن افسوس! وہ تھوڑا سا چلا کہ پل

اُلٹ گیا اور وہ جہنم میں گر گیا۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے دریافت کیا: ”پھر کیا ہوا؟“ کثیر نے کہا: ”پھر اس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کو لایا گیا، وہ بھی اسی طرح پل صراط پار کرنے لگا کہ اچانک پل صراط پھراٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جاگرا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کہ، ”اس کے بعد کیا ہوا؟“ عرض کی: ”اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا، اسے بھی حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو، اس نے بھی چلنا شروع کیا لیکن یکا یک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں اتر گیا۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: مزید کیا ہوا؟“ اس نے جواب دیا، ”یا امیر المؤمنین! ان سب کے بعد آپ کو لایا گیا،“ کثیر کا یہ جملہ سنتے ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ کثیر نے جلدی سے کہا ”اے امیر المؤمنین! رَحْمَنُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر لیا۔“ لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کثیر کی بات نہ سمجھ پائے کیونکہ آپ پر خوف کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔

(احیاء العلوم، کتاب الخوف والرجاء ج ۴، ص ۱۳۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حالانکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حُجَّت نہیں

پھر بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز پل صراط پر گزرنے کے معاملے میں کس قدر حُسنِ اس تھے۔ واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی

ناڑک ہے۔ پُل صراطِ بال سے باریک اور تلواری کی دھار سے تیز تر ہے اور یہ جہنم کی پُشت پر رکھا ہوا ہوگا، خدا کی قسم! یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ (پُل صراط کی دہشت، جس ۳۳ سلتقطاً)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

عذابِ الہی کا خوف

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو دنیا میں بھی عذابِ الہی کا خوف لگا رہتا تھا، ایک بار زور سے ہوا چلی تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا ایک شخص نے پوچھا: امیر المؤمنین! آپ کا یہ کیا حال ہو گیا؟ فرمایا: دنیا میں ایک قوم کو ہوا ہی نے تباہ کیا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۵)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ

العزیز کی اس حکایت میں سیرت سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے، چنانچہ

بادلوں میں کہیں عذاب نہ ہو

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسولِ اکرم،

شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادِ آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور

آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آجاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا: ”اِتْسَى خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ عَذَابًا سَلِطًا عَلٰى اُمَّتِيْ يَعْنِيْ مَجْهِيْ يَخُوفُ هُوَا كَمَا كُنَّا يَبْدُلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كَا عَذَابٍ نَهْ هُوَ جُوْمِيْرِ اُمَّتٍ پْرَبِّهِيَ جَا كَيْهًا هُوَا“

(شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ج ۱، ص ۵۴۶، رقم الحدیث ۹۹۴)

کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی دوزخ میں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک مرتبہ رونے لگے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا بھی رونے لگیں بعد میں دیگر گھروالے بھی رونے لگے، جب رونے کا سلسلہ تھا تو عرض کی گئی: یا امیر المؤمنین! آپ کیوں رورہے تھے؟ ارشاد فرمایا: مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں۔ (حلیۃ الاولیاء، ج ۵، ص ۳۰۳)

پھر مرتے دم تک نہیں ہنسنے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے ایک غلام کا بیان ہے کہ میں رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اکثر اوقات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گریہ و زاری کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا، ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معمول سے زیادہ آواز زاری کی جب صبح ہوئی تو

مجھے بلا کر نصیحت فرمائی: بھلائی اس میں نہیں کہ تمہاری بات سُنی جائے اور اطاعت کی جائے بلکہ اس میں ہے کہ تمہیں تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ سے روکا جائے پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو۔ پھر تاکید کی: صبح کے وقت جب تک خوب دن نہ چڑھ جائے کسی کو میرے پاس نہ آنے دیا کرو کیونکہ لوگ میرے معاملات سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں نے عرض کی: آپ پر میرے ماں باپ قربان! آج رات تو آپ ایسا روئے کہ پہلے کبھی نہیں روئے۔ میری یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ رو دیئے اور فرمایا: خدائے عَزَّوَجَلَّ کی قسم! مجھے بارگاہِ الہی عَزَّوَجَلَّ میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے، اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ اس دنیا سے سفرِ آخرت پر روانہ ہو گئے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۱۶)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بعد موت، قبر میں طویل عرصے تک قیام

کرنے کے بعد قیامت قائم ہونے پر جب ہم میدانِ محشر میں اپنے پڑ و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمارے تمام اعمال کو ہمارے سامنے لایا جائے گا، جیسا کہ سورۃ النبا میں ہے: **يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاہُ** ترجمہ کنز الایمان: جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا۔ (پ ۳۰۔ النبا ۴۰) صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا ہوگا اور اپنے

کئے کا حساب دینا ہوگا جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 13 اور 14 میں
 ارشاد ہوتا ہے: **وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا** ﴿۱۳﴾ **إِذْ رَأَى كِتَابًا**
كُفِيَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس کے لئے
 قیامت کے دن ایک نوشتہ (یعنی نامہ اعمال) نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، فرمایا
 جائے گا کہ اپنا نامہ پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ (پ ۱۵، بنی
 اسرائیل: ۱۳، ۱۴) اس کے بعد ہمیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ جزایا سزا کی صورت
 میں دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الزلزال میں ارشاد ہوتا ہے: **يَوْمَ مَن يَصْدُرُ**
النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيُرُوا أَعْمَالَهُمْ ﴿۱﴾ **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** ﴿۲﴾ **وَمَنْ**
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اس دن لوگ اپنے رب
 کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تا کہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی
 کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ (پ ۳۰، الزلزال
 ۶، ۷، ۸) پھر جس کسی کو بخشش و نجات کا پروانہ ملے گا وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے
 گا، جیسا کہ سورہ عبس میں ارشاد ہوتا ہے: **”وَجُودًا يَوْمَ مَسْفَرَةٍ“** ﴿۳۶﴾ **صَاحِبَةً**
مُسْتَبَشِّرَةً ﴿۳۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں
 مناتے۔“ (پ ۳۰، عبس ۳۸، ۳۹) اور جسے اس کی شامت اعمال کے باعث دوزخ
 میں جانے کا حکم سنایا جائے گا، وہ انتہائی مغموم ہوگا جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں ارشاد ہوتا
 ہے: **”وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشَالِهٍ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ“** ﴿۳﴾ **وَلَمْ**

أَدْرِمَا حَسَابِيَّةٌ ① ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جسے اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ (یعنی نامہ اعمال) نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔“ (پ ۲۹، الحاقہ: ۲۵، ۲۶)

ہر عاقل شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ میدانِ محشر میں شرمندگی اور جہنم کے دل دہلا دینے والے عذابات سے بچنے کے لئے ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے؟ لہذا! ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کس قسم کے اعمال و زج کروا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یونہی غفلت کی حالت میں موت آجائے اور سوائے کچھ تاوے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

امیر المؤمنین کا عشقِ رسول

سید المرسلین، جنابِ رحمۃ اللّٰلیمین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی محبت اور ادب و احترام ہر مسلمان کا بڑا ایمان ہے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ میں عشقِ رسول کا وصف بہت نمایاں تھا۔

بارگاہِ رسالت میں سلام بھیجا کرتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ مَدِينَهُ مَنُورَهُ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا میں ٹھوس طور پر قاصد کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی طرف سے نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں سلام

عَرْض کرے۔ (درمنثور ج ۲ ص ۵۷۰) حضرت سلیمان بن سَحِیمِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نُور والے آقا صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کا شربت پیا تو عَرْض کی: **یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** جو لوگ آپ کی بارگاہ میں سلام عَرْض کرتے ہیں کیا آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ (ایضاً)

مقدّس تحریرِ چوم لی

اگر کہیں **رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** کی کوئی یادگارِ میل جاتی تھی تو سر اور آنکھوں پر رکھتے اور اس سے بَرَکت اندوز ہوتے۔ کسی نے حضرت سَیِّدِنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے آپ کو ایک کھیت فروخت کیا تھا پھر اس میں کانیں نکل آئیں۔ مقدمہ میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کھیت فروخت کیا تھا، کانیں فروخت نہیں کی تھیں اور بطور دلیل انہوں نے آپ کو **رسول اللہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** کی ایک تحریر دکھائی۔ حضرت سَیِّدِنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ نے لپک کر وہ تحریر چوم لی اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے منتظم سے فرمایا: ”اس کی آمدنی اور خرچ کا اندازہ لگاؤ۔“ پھر آپ نے خرچ وضع کر کے باقی رقم انہیں دے دی۔ (فتوح البلدان ج ۱ ص ۳۱)

چوم کر آنکھوں پر رکھا

رحمتِ دارین، تاجدارِ خزّمین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک صحابی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیریں دی تھیں اور اس کے متعلق ایک سُنَد لکھ دی تھی، ان کے خاندان کے ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ سُنَد دکھائی تو اس کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ (اسد الغابہ ج ۵ ص ۱۴۱)

حج کی خواہش

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حَرَمَیْن طَبِیْن کی حاضری کے شوق سے بے قرار ہو کر اپنے غلام مُزاحم سے فرمایا: میرا حج کرنے کو جی چاہتا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ عرض کی: دس دِزہم کے قریب موجود ہیں۔ کفِ افسوس ملتے ہوئے فرمایا: اتنی سی رقم میں حج کیونکر ہو سکتا ہے! کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مُزاحم نے عرض کی: امیرُ الْمُؤْمِنِیْن تیار کیجئے، ہمیں بنو مروان کے مال سے 17 ہزار دینار مل گئے ہیں۔ فرمایا: ان کو بیت المال میں جمع کروادو، اگر یہ حلال کے ہیں تو ہم بقدرِ ضرورت لے چکے ہیں اور اگر حرام کے ہیں تو ہمیں نہیں چاہئیں۔ مُزاحم کا بیان ہے کہ جب امیرُ الْمُؤْمِنِیْن نے دیکھا کہ یہ بات مجھ پر گراں گزری ہے تو فرمایا: دیکھو مُزاحم! جو کام میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کیا کروں اسے گراں نہ سمجھا کرو، میرا نفس ترقی پسند ہے اور خوب تر کا مشتاق ہے، جب بھی اسے کوئی مرتبہ ملا اس نے فوراً اس سے بلند تر مرتبے کے کھول کی کوشش شروع کر دی، دُنیاوی مَنَاصِب میں سے بلند تر مَنَاصِبِ خِلَافَت ہے جو میرے نفس کو حاصل ہو چکا ہے،

اب یہ صرف اور صرف جنت کا مشتاق ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۳)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرَحْمَتِ هُوَ أَوْرَانِ كَىٰ هَمَارَىٰ بِهٖ حَسَابِ

مَغْفِرَتِ هُوَ - اٰمِیْنِ بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلٰی مُحَمَّدٍ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت میں ان لوگوں کے لئے درسِ عظیم

ہے جو رشوت، سُود خوری اور جوئے جیسے ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرتے ہیں اور

اسی میں سے حج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، ایسوں

کو سنبھل جانا چاہئے کہ یہ کامیابی نہیں بلکہ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہے اور اس

کا انجام بہت بھیانک ہے، ایک عبرت ناک حکایت ملاحظہ ہو:

نوٹ کے مال سے حج کرنے والے کا انجام

ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مسافر چل بسا، قافلے والوں

نے کسی سے ایک پھاوڑا اُدھار لیا اور اس سے قبر کھود کر اسے وہیں دفن کر دیا۔ جب قبر

بند کر چکے تو انہیں یاد آیا کہ پھاوڑا بھی قبر ہی میں رہ گیا۔ انہوں نے اسے نکالنے کے

لئے قبر کھودی۔ اب جو اندر دیکھا تو اس شخص کے ہاتھ پیر پھاوڑے کے حلقہ

میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر قبر فوراً بند کر دی اور پھاوڑے والے کو

کچھ پیسے دے کر جان چھڑائی۔ حج سے واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے اعمال کے

بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ اس کے ہمراہ ایک مال دار شخص نے

سفر کیا۔ راستے میں اس نے اس کو مار ڈالا، اب تک یہ حج اور جہاد سب کچھ اسی کے مال سے کرتا رہا ہے۔“ (شرح الصدور، ص ۱۷۴)

مٹا دے ساری خطائیں مری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب
اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تُو ناراض ہو گیا یا رب
گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب
(وسائلِ بخشش، ص ۹۳)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلِي مُحَمَّد

امیر المؤمنین کی تبرکات سے محبت

نبیِّ مُحَمَّدْتَشْم، شَافِعِ اُمَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تبرک یادگاروں میں سے گدا مبارک، پیالہ، چادر، چکی، ترکش اور عصا شریف کو حضرت سپدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے ایک کمرے میں حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور روزانہ اس کی زیارت کرتے تھے۔ اگر کبھی قریش ان کے پاس جمع ہوتے تو ان کو لے جا کر ان مقدس تبرکات کی زیارت کرواتے اور کہتے کہ یہ اُس مقدس ذات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے تبرکات ہیں جس کے ذریعے سے اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے تم لوگوں کو عزت دی ہے۔ (سیرت ابن جوزی ۲۵۳) آپ کا انتقال ہونے لگا تو سب سے زیادہ فکر اسی زاوِدِ بَابِ رَكْتِ کی ہوئی چنانچہ وصیت کی کہ کفن میں نُورِ مُجَسَّم، نبیِّ مُحَمَّدْتَشْم، شَافِعِ اُمَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے چند مومئے مبارک و ناحنِ پاک رکھے جائیں۔

قبر میں میت کے ساتھ تبرکات رکھنے

جب کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کا انتقال ہو جائے تو تدفین کے وقت کچھ نہ کچھ تبرکات میت کے ساتھ رکھ دیجئے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ یہ عمل میت کے لئے سکون و اطمینان اور نکیرین کے سوالات کے جواب دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔

حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی وصیت

کاتبِ وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بھی اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی: ”ایک دن حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں لوٹا لے کر ہمراہ رکابِ سعادت مآب ہوا۔ حضور پر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنا پہنا ہوا ایک گرتا مجھے بطور انعام عطا فرمایا، وہ گرتا میں نے آج کے لئے سنبھال رکھا تھا۔ اور ایک روز حضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ناخن و مومے مبارک تراشے، وہ میں نے لے کر اس دن کے لئے سنبھال رکھے تھے، جب میں مرجاؤں تو قمیص پر تقدیس کو میرے کفن میں رکھنا اور مومے مبارک و ناخن ہائے مقدسہ کو میرے منہ اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ مواضع سجود پر رکھ دینا۔“ (الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، معاویہ بن سفیان، ج ۳ ص ۷۳-۷۴)

تبرکات رکھنے کا طریقہ

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”شجرہ طیبہ (اور دیگر تبرکات) قبر میں طاق بنا کر رکھیں خواہ سرہانے کہ نکیرین

پابندی کی طرف سے آتے ہیں اُن کے پیش نظر ہو، خواہ جانبِ قبلہ کہ میت کے پیش رو (یعنی سامنے) رہے اور اس کے سکون و اطمینان و اعانتِ جواب کا باعث ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج ۹، ص ۱۳۴)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
میں بھی غلامِ علی ہوں

ایک بار امیرُ المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کے آزاد شدہ غلام یزید بن عمر بن مرق ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے دریافت فرمایا: تم کس طبقہ سے تعلق رکھتے ہو؟ بولے: میں مولیٰ بنی ہاشم میں ہوں اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کا نام لیا، تو آپ رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کا غلام ہوں کیونکہ رسولُ اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے کہ میں جس کا مولیٰ ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔ پھر اپنے وزیرِ مزاحم سے پوچھا کہ اس قسم کے لوگوں کو کیا وظیفہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: 100 یا 200 درہم۔ فرمایا: ولایتِ علی کی بنا پر اس کو پچاس دینار دیا کرو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

امیر المؤمنین کا رضائے الہی پر راضی رہنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے ایک مرتبہ پوچھا گیا:

مَا تَشْتَهِيٰ دِينِي يَا أُمِّيَّةَ؟ فَرَمَا يَا: مَا يَقْضِي اللَّهُ لِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا حَكَمَ هُوَ۔
(احیاء العلوم، ج ۱ ص ۶۶)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سعادت مندوں

کا شیوہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے آقائے اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم یہ دُعا مانگا کرتے تھے: یا اللہ میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق

اور تقدیر پر راضا مانگتا ہوں۔ (کتاب الادب للبجاری، ص ۸۶، الحدیث ۳۰۷)

اس پر میری رحمت ہے

رضائے الہی پر راضی رہنے والے کو بیش بہا برکتیں ملتی ہیں! چنانچہ حضور اکرم،

شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے،

اسی جستجو میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ فلاں میرا بندہ مجھے راضی کرنا

چاہتا ہے آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں:

فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، یہی بات حاملین عرش فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد

کے فرشتے کہتے ہیں حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر یہ رحمت اس شخص

کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ (مسند احمد، الحدیث ۲۲۳۶۳، ج ۸ ص ۳۲۸)

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ ان اس

حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: (بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے) اس طرح کہ اپنے دینی و دنیاوی کاموں سے رب تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے کہ کھاتا پیتا، سوتا جاگتا بھی ہے تو رضائے الہی کیلئے، نماز و روزہ تو بہت ہی دُور ہے خدا تعالیٰ اس کی توفیق نصیب کرے۔“ حدیثِ پاک کے اس حصے کہ ”اس پر میری رحمت ہے“ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یعنی اس پر میری کامل رحمت ہے اس طرح کہ میں اس سے راضی ہو گیا، خیال رہے کہ اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے، جب رب تعالیٰ بندے سے راضی ہو گیا تو کوئی نین (یعنی دونوں جہان) بندے کے ہو گئے، آسمانوں میں اس کے نام کی دھوم مچ جاتی، شور مچ جاتا ہے کہ ”رحمة اللہ علیہ“ یہ کلمہ دُعائیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، یہ دُعایا تو فرشتوں کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خود فرشتے اپنے قُربِ الہی بڑھانے کے لیے یہ دُعائیں دیتے ہیں، اچھوں کو دُعائیں دینا قُربِ الہی کا ذریعہ ہے جیسے ہمارا دُرود شریف پڑھنا۔ (مراۃ ج ۳ ص ۳۸۹)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

تَزْمِي كَا فَا تَدَه

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ فرمایا کرتے تھے: وَمَا رَفَقَ عَبْدٌ بَعْدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو شخص دنیا میں دوسروں پر تَزْمِي کرتا ہے بروز قیامت اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس پر تَزْمِي فرمائے گا۔

(سیرت ابن جوزی، ص ۲۲۳)

”نِزْمِی“ کے چار حروف کی نسبت سے نِزْمِی کی فضیلت پر 4 فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

{1} إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ یعنی نِزْمِی جس چیز میں ہوتی ہے اُسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے نِزْمِی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔“ (مسلم، کتاب البر والصلة، الحدیث ۲۵۹۲، ص ۱۳۹۸)

{2} إِنَّ اللہَ عَزَّ وَجَلَّ لِيُعْطِيَ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الخُرْقِ وَإِذَا أَحَبَّ اللہُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُونَ الرِّفْقَ إِلَّا قَدْ حُرِمُوا یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ نِزْمِی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت و حماقت پر عطا نہیں فرماتا ہے اور جب اللہ عَزَّ وَجَلَّ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نِزْمِی عطا فرماتا ہے اور جو گھر نِزْمِی سے محروم رہا وہ محروم ہی ہے۔“

(المعجم الکبیر، مسند جریر بن عبداللہ، الحدیث ۲۲۷۴، ج ۲، ص ۳۰۶)

{3} {3} أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ یعنی سرکارِ والا التبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیعِ روزِ شُما رِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم پر حرام ہے، (یایہ فرمایا کہ) جس پر جہنم حرام ہے؟ جہنم ہر نِزْمِی خُو نِزْمِی دل اور اچھی خُو والے شخص پر حرام ہے۔“ (ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، رقم باب ۴۵،

الحدیث ۲۳۹۶، ج ۴، ص ۲۲۰

{4} مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ یعنی ”جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اُسے بھلائی میں سے حصہ دیا گیا اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا۔“

(ترمذی، کتاب البر والصلة، باب فی الرفق، الحدیث ۲۰۲۰، ج ۳، ص ۴۰۷)

س ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں

ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

والدین کے نافرمان کے ساتھ تعلق نہ جوڑنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے ایک مرتبہ کسی کو

نصیحت فرمائی: والدین کے نافرمان سے ہرگز دوستی نہ کرنا کیونکہ جس نے اپنے ماں

باپ سے قطع رحمی کی وہ تم سے کیونکر حُسنِ سَلُوكِ کرے گا؟ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۶)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس مدنی پھول میں والدین کے نافرمانوں

کے لئے عبرت ہی عبرت ہے، والدین کی فرمانبرداری کا انعام اور نافرمانی کا انجام

ملاحظہ ہو، چنانچہ

جنت یا جہنم کا دروازہ

سلطانِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے:

”جس نے اس حال میں صُح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہے، اُس کیلئے صُح ہی کو جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ ﷻ دَوَجَل کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے صُح ہی کو جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور (ماں باپ میں سے) ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی: اگرچہ ماں باپ اُس پر ظلم کریں۔ فرمایا: اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔“^۱

(شُعَبُ الْإِيمَان ج ۶ ص ۲۰۶ حدیث ۷۹۱۶)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

غفلت بھی ایک طرح سے نعمت ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْغَفْلَةَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ رَحْمَةً كَيْلَا يَمُوتُوا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي اللہ تعالیٰ نے غفلت کو اپنے خائفین (یعنی خوف رکھنے والے بندوں) کے دلوں کے لئے رحمت بنایا ہے تاکہ وہ خوفِ خدا سے مرہی نہ جائیں۔ (احیاء العلوم، ج ۴ ص ۲۲۸)

مدینہ

۱: والدین کے حقوق کے بارے میں ضروری معلومات کے لئے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ”سمندری گنبد“ کا مطالعہ کیجئے۔

حقیقی معنوں میں خوفِ خدا رکھنے والے کو کھانے پینے اور سونے میں لطف آ ہی نہیں سکتا، شاید اسی وجہ سے ان کی توجُّہ کچھ دیر کے لئے دنیاوی کاموں کی طرف کر دی جاتی ہے، اس مدنی پھول کی وضاحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ”ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت“ کے صفحہ 496 پر ہے: اکابر اولیاء پر بھی اَکَل و شَرِب و نَوَم (یعنی کھانے، پینے، اور سونے) کے وقت ایک گونہ (یعنی چند لمحوں کے لئے) غفلت دی جاتی ہے ورنہ کھانے پینے پر قادر نہ ہوں۔ (ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت ص ۴۹۶)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

اعترافِ ذہانت

ایک وفد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ کی خدمت میں آیا، ایک نوجوان گفتگو کرنے کے لئے کھڑا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کسی بڑے کو بات کرنے دو۔ اس نے عرض کی: یا امیر المؤمنین! اگر عمر کا زیادہ ہونا ہی مغیار ہے تو آپ کی جگہ بھی کسی بڑی عمر والے کو ہونا چاہئے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذہانت بھرا جواب سن کر اُسے بولنے کی اجازت دے دی۔ (احیاء العلوم، ج ۴ ص ۱۰۴)

جلدِ اطاعت کا انعام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کو سجدہ کریں تو سب سے پہلے

حضرت سیدنا اسرافیل عَلَیْهِ السَّلَام نے سجدہ کیا اس کا انعام یہ ملا کہ ان کے پیشانی پر قرآن کریم لکھا گیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۴)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

امیر المؤمنین اور زبان کا قفلِ مدینہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيز نے فرمایا: مَنْ لَمْ يَعُدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ یعنی جو شخص اپنے کلام کو عمل میں شمار نہیں کرتا اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۹)

طنز و مزاح کرنے والوں پر انفرادی کوشش

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيز مذاقِ سُخْرٰی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، ایک بار خاندانِ بَنُو اُمَیَّہ کے چند لوگ جمع ہوئے اور ان کے سامنے نظرافت آمیز گفتگو شروع کر دی تو فرمایا: ”کیا تم لوگ اسی لئے جمع ہوئے ہو؟ اپنی محفلوں میں قرآن مجید کے متعلق گفتگو کرو، ورنہ کم از کم شریفانہ باتیں تو ضرور ہونا چاہئیں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۷۷ ملخصاً) ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: آپس میں ہنسی مذاق سے بچو کیونکہ یہ دل میں کینہ اور کھوٹ پیدا کرتا ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم، ص ۱۱۴)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! سنجیدگی کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیجئے اور مذاق

سُخْرٰی کی عادت پالنے سے پرہیز کریں۔ لیکن یاد رہے کہ روئی صورت بنائے رکھنے کا نام سنجیدگی نہیں اور نہ ہی بَقْدَرِ رِضْرُوتِ گفتگو کرنا یا کبھی کبھار (جائز) مزاح کر لینا اور

مسکرا کر سنجیدگی کے مُنافی ہے۔ ہاں! کثرتِ مزاح اور زیادہ ہنسنے سے پرہیز کریں کہ اس سے وقار جاتا رہتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص زیادہ ہنستا ہے، اس کا دَبدَبہ اور رُغْب چلا جاتا ہے اور جو آدمی (کثرت سے) مزاح کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔“ (احیاء العلوم ج ۳، ص ۲۸۳)

مزاح بھی ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے مثلاً کسی کا دل دکھانا یا غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا وغیرہ۔ سُرَّوْر کو نین صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ”ایک شخص کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، لیکن وہ اُسے آسمان کے زمین سے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے تک دُور جہنم میں لے جائے گی۔“ (مجمع الزوائد ج ۸، ص ۱۷۹، رقم: ۱۳۱۳۹)

شور و غل کو ناپسند فرماتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ مَنَانَتْ اور سنجیدگی کی وجہ سے شور و غل کو نہایت ناپسند کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کے پاس بلند آواز سے گفتگو کی تو فرمایا: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّمَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْكَلَامِ قَدْرَ مَا يَسْمَعُ یعنی اپنی آواز پست رکھو کیونکہ انسان کے لئے اتنی آواز سے بات کرنا کافی ہے کہ اس کی بات اس کا ہم نشین سن لے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۷)

شرم و حیا کا پیکر

جن اعضاء کے نام لینے سے شرم آتی ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ أَنْ كَانَا نَمِينِينَ لِيْتِي تَحْتِي، اِيك بار بَئِغْل ميں پھوڑا نکلا، لوگوں نے پوچھا:
کہاں پھوڑا نکلا ہے؟ فرمایا: میرے ہاتھ کے بطن میں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۸)

خاموش طبع کی صحبت میں رہو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: جب تم کسی
خاموش طبع اور لوگوں سے دُور رہنے والے شخص کو دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ
وہ حکیم (یعنی حکمت والا) ہوگا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۸)

زبان خزانے کی چابی ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: الْقُلُوبُ
أَوْعِيَةُ السَّرَائِرِ وَالْأَلْسِنُ مَفَاتِيحُهَا، فَلْيَحْفَظْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ مِفْتَاحَ وَعَاءِ سِرِّهِ
یعنی دل رازوں کا خزانہ اور زبان اس کی چابی ہے یعنی لہذا ہر ایک کو چاہئے کہ وہ
خزانے کی چابی کی حفاظت کرے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۷)

بولنے والا فائدے میں رہا

ایک عالم دین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے پاس
تشریف لے گئے تو دورانِ گفتگو فرمانے لگے کہ علم ہونے کے باوجود خاموش رہنے والا
اور علم ہوتے ہوئے بولنے والا دونوں برابر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ
رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: مگر میرا خیال یہ ہے کہ بولنے والا افضل ہے کیونکہ اس نے

لوگوں کو نفع پہنچایا جبکہ خاموش رہنے والے کا فائدہ صرف اسی کی ذات کو پہنچا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۲۰)

بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ ہے: تنہائی بُرے ہم نشین سے بہتر

ہے، اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے اور برائی کی

تعلیم سے خاموشی بہتر ہے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الادب، رقم ۴۸۶۳، ج ۳، ص ۴۵)

کلام کو اپنے عمل میں شمار کرنے کا فائدہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ نے ایک خط میں

حمد و صلوة کے بعد لکھا: مَنْ عَدَّ کَلَامَهُ مِنْ عَمَلٍ، قَالَ کَلَامَهُ إِلَّا فِيمَا يَنْفَعُهُ، یعنی جو

اپنے کلام کو عمل میں شمار کرتا ہے وہ صرف نفع بخش گفتگو کرتا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۲)

زبان کی حفاظت

حضرت سیدنا ابوعبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر

بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ سے بڑھ کر اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا شخص

نہیں دیکھا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۳)

دُعا دینے کو بھی سلیقہ چاہیے

ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ کے پاس آیا اور

کہا: تَصَدَّقْ عَلَیَّ، تَصَدَّقَ اللّٰہُ عَلَیْكَ بِالْجَنَّةِ یعنی آپ مجھ پر صدقہ کیجئے،

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جنت میں آپ پر صدقہ کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَصَدَّقُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ نہیں کرتا بلکہ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ (درمنثور ج ۴ ص ۵۷۷)

طویل نہیں پاکیزہ زندگی کی دُعا دو

حضرت سیدنا طلحہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: أَبْقَاكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامَ الْبُقَاءُ خَيْرًا لَّكَ يَعْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اللہ تعالیٰ آپ کو اُس وقت تک زندہ رکھے جب تک زندہ رہنے میں آپ کے لئے بھلائی ہو۔“ مگر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: مجھے یوں دُعا دو: ”أَحْيَاكَ اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَتَوَفَّاكَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى تَمَهِّينَ پاكيزه زندگي عطا كره اور اچھوں كے ساتھ خشر كره۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۷۷)

یکسوئی سے دُعا مانگو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے ہاتھ میں موجود کنکریوں سے کھیلتے ہوئے یہ دُعا کر رہا تھا تھا: اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ یعنی يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! حوران عین سے میرا نکاح کروا

دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا: کنکریاں پھینک کر خالص اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو کر دُعا کیوں نہیں کرتے؟ (سیرت ابن جوزی ص ۷۹)

بولنے میں رکاوٹ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے کاتب نعیم بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے: فخر و مہابات میں مُبتلا ہونے کا خوف مجھے زیادہ بولنے سے روک دیتا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۹۵)

تین نقصان دہ عادتیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا: کونسی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کثرتُ کلامہ، وإفشاءُ سرِّہ، والثقةُ بکلِّ واحدٍ یعنی بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا اور ہر ایک پر اعتماد کر لینا۔

(باب السک فی طبائع الملک، السیاسة الثانیة، ۲۷۹)

جاہل کون؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: جب بھی کسی جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے گا تم اس میں دو خصلتیں ضرور پاؤ گے: کثرتُ الالتفاتِ

دینہ

۱: دُعا کے آداب و فضائل جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب ”فضائل دُعا“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

وَسُرْعَةُ الْجَوَابِ یعنی بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھنا اور ہر بات کا جلدی جلدی جواب دے دینا۔ (آداب الشرعیۃ، فصل فی حسن الخلق، ج ۲ ص ۳۱۱)

بیان روک دیا

حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بیان فرما رہے تھے کہ ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو بیان سے متاثر ہو کر زار و قطار آنسو بہا رہا تھا، یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دم خاموش ہو گئے، میں نے عرض کی: **یا امیر المؤمنین!** آپ بیان جاری رکھئے تاکہ سننے والوں کو فائدہ پہنچے تو فرمایا: میمون! کلام کرنا بھی ایک آزمائش ہے اور کچھ کہنے سے کر کے دکھانا افضل ہے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵ ص ۲۸۸، ملخصاً)

کم گوئی کی عادت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اکثر فرمایا کرتے: مجھے یہ پسند نہیں کہ بولنے کے بدلے مجھے اتنا کچھ مل جائے (یعنی مجھے خاموشی پسند ہے)۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۲۴)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے زبان کی حفاظت (قفلِ مدینہ) کے

حوالے سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے عطا کردہ مَدَنی پھول ملاحظہ کئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ عَزَّوَجَدَّ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جاسکتی ہیں اور یہی

زبان ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ افسوس! فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً مفقود ہو چکا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں اور 32 دانتوں کے پہرے میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دُنیوی و اُخروی مصائب میں مبتلا کروا سکتا ہے، جیسا کہ مدینے کے سلطان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ حکمت نشان ہے کہ ”بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ عزوجل قیامت تک اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے، اور بیشک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک بُرا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ عزوجل اس کی بناء پر اس کے لئے قیامت تک کی اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔“

(ترمذی، کتاب الزہد، باب فی قلۃ الکلام، ج ۴، ص ۱۴۳، الحدیث ۲۳۲۶)

خاموشی باعثِ نجات ہے

نبیوں کے سرور، شاہِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: ”مَنْ صَمَّتْ نَجَاتٍ عِنِّي جَوْ خَامُوشٍ رَهَا اس نے نجات پائی۔“

(ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، رقم: ۲۵۰۹، ج ۴، ص ۲۲۵)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! واقعی کم بولنے والا فائدے میں رہتا ہے، ہم

میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہئے کہ ہم بول کر بار بار ہا بچھتائے ہوں گے کیا کبھی خاموش

رہ کر بھی بچھتائے؟ اے کاش! ہمیں زبان کا قفلِ مدینہ نصیب ہو جائے۔

آپ خاموش کیوں ہیں؟

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی کثیر اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے سب آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہو کر باتیں کرنے لگے مگر حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کیوں نہیں فرماتے، خاموش کیوں ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”میرے بچو! جب سے اللہ عزوجل نے مجھے اپنے بچوں سے زمین کی طرف اتارا ہے، اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ ”اے آدم! کم بولنا یہاں تک کہ تم میرے بچوں کی طرف جنت میں لوٹ آؤ۔“

(تاریخ دمشق ج ۷ ص ۷۷۷)

کلام کی اقسام

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! زبان کی مکمل حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں کلام کی اقسام اور ان کے احکام معلوم ہوں۔ ہر کلام کی بنیادی طور پر چار اقسام ہوتی ہیں: (۱) وہ کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہے، جیسے کسی کو گالی دینا، فحش کلامی کرنا وغیرہ (۲) وہ کلام جس میں نفع ہی نفع ہو مثلاً تلاوت قرآن کرنا، دُرود پاک پڑھنا، نعت پڑھنا، ذکر اللہ عزوجل کرنا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ، (۳) وہ کلام

جو بعض صورتوں میں نفع بخش ہے اور بعض صورتوں میں نقصان دہ جیسے کسی مُقْتَدِء (مثلاً) بیویا ستان) کا اپنی نیکیوں کو اس نیت سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی پیروی میں ان نیکیوں کو اپنانے کی طرف راغب ہوں گے لیکن اگر اس نے اپنی واہ واہ کروانے کی نیت سے نیکیاں ظاہر کیں تو یہ کلام اُسے نقصان پہنچائے گا۔ (۴) وہ کلام جس میں نہ تو کوئی نفع ہو اور نہ ہی نقصان، اسے فُضُولِ گوئی بھی کہا جاتا ہے مثلاً موسم وغیرہ پر تبصرہ کرنا مثلاً آج بڑی گرمی ہے، یا ایسے سُوالا ت کرنا جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو اور نہ ہی اُخْرَوِی مثلاً اُٹریک سکنل نہ جانے کب کھلے گا؟

خاموش رہنے کی عادت کیسے بنائیں؟

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! خاموش رہنے کی عادت بنانے کے لئے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنا بے حد مفید ہوگا: (1) لکھ کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں نفس کے لئے مَشَقَّت ہے اور نفس مَشَقَّت سے بہت گھبراتا ہے۔ چنانچہ ہماری گفتگو محض ضرورت تک محدود رہے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَمَّار فرماتے ہیں: ”اگر لوگوں کو لکھ کر گفتگو کرنے کا مُکَلَّف بنایا جاتا تو یہ بہت کم گفتگو کرتے۔“ (موسوعۃ ابن ابی الدینار، ج ۷، ص ۵۸) اس سلسلے میں ایک مدنی پیڈ اور قلم ہر وقت اپنی جیب میں رکھئے اور کم بولنے کی عادت بنانے کے لئے روزانہ کچھ نہ کچھ بات چیت لکھ کر کیجئے۔ (2) اشارے سے گفتگو کرنا بھی زبان کو کثرت کلام کا عادی ہونے سے بچانے کے لئے بے حد مفید ہے۔ (3) اگر کبھی زبان سے فُضُولِ بات نکل جائے تو

اس پر نادم ہو کر دُرودِ پاک پڑھئے اور نفع سے محرومی کا ازالہ کرنے کی کوشش کیجئے،
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ دُرودِ پاک کی بَرَکت سے فضول گوئی سے نجات مل ہی جائے گی۔

اللّٰهُ ہمیں کر دے عطا قُفُلِ مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا قُفُلِ مدینہ
 یارب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللّٰهُ زباں کا ہو عطا قُفُلِ مدینہ

(وسائلِ بخشش، ص ۱۱۴)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

حاسدِ ظالم بھی مظلوم بھی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: میں نے
 حاسد کے علاوہ کوئی ایسا نہیں دیکھا جو ظالم بھی ہو اور مظلوم بھی کیونکہ وہ طویل غم
 اور اپنے آپ کو تھکا دینے والے کام (یعنی حَسَد) میں مصروف ہو جاتا ہے۔

(الرسالۃ القشیریۃ، باب الحسد، ج ۱ ص ۷۲)

حَسَد کسے کہتے ہیں؟

”حَسَد“ کا معنی ہے کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۴ ص ۴۲۸)

حَسَد نیکیوں کو کھا جاتا ہے

سرکارِ والا اتبار، بے کسوں کے مددگارِ صلی اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان
 عالیشان ہے: ”حَسَد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی

ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، نماز مؤمن کا نور ہے اور روزے ڈھال ہیں۔“ (ابن ماجہ ج ۳ ص ۷۳، الحدیث ۴۲۱۰)

حَسَدِ كے چار درجے

مفسر شہیر، حکیمہ الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ

لکھتے ہیں: حسد کے چار درجے ہیں: پہلا یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے کہ خواہ مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے جاتی رہے، اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے اور کافر، فاسق کے حق میں جائز مثلاً کوئی مالدار اپنے مال سے کُفر یا ظلم کر رہا ہے اُس کے مال کی اس لئے بربادی چاہنا کہ دُنیا کُفر و ظلم سے بچے، ”جائز“ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے کہ فلاں کا باغ یا اُس کی جائیداد میرے پاس آجائے یا اُس کی ریاست کا میں مالک بنوں، یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے اس لئے آرزو کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ نہ جائے یہ بھی منع ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے یعنی اوروں کا زوال نہ چاہتا اپنی ترقی کا خواہش مند ہے اسے غِبْطَہ یا تَعَانُفَس کہتے ہیں یہ دُنوی باتوں میں منع اور دینی باتوں میں اچھا اور کبھی واجب بھی ہے، رَبَّ عَزَّ وَجَلَّ فرماتا ہے وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْبِئْتَانِ فُسُوْنٌ ﴿۳۱﴾ (پ 30، المطففين 26) (ترجمہ کنز الایمان: اور اسی

پر چاہئے لپچائیں لپچانے والے) حدیث شریف میں ہے کہ دو شخصوں پر حسد یعنی غِبْطَہ جائز ہے، ایک وہ عالم دین جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، دوسرا وہ سخی مالدار جس کے مال سے فیض جاری ہو۔

(بخاری ج ۱ ص ۴۳، الحدیث ۷۳ ملتقطاً)

حَسَد کا علاج

خیال رہے کہ حسد ایک عالمگیر مَرَض ہے جس سے بہت کم لوگ خالی ہیں، اس لئے اس کا علاج بہت ضروری ہے، اس کے صرف دو ہی علاج ہیں: ایک علمی علاج دوسرا عملی علاج (۱) علمی علاج: یہ ہے کہ حاسد یہ عقیدہ رکھے کہ ہر ایک چیز تقدیر سے ہوتی ہے اور میں حسد کر کے اپنی بد نصیبی اور دوسروں کی نیک بختی کو بدل نہیں سکتا اور یہ بھی جانے کہ حسد ایمان کی آنکھ کا تیکا اور خاک ہے جیسے کہ دماغ کی آنکھ ان چیزوں سے گدلی ہو جاتی ہے ایسے ہی حاسد کا ایمان بلکہ اس کے دین و دنیا حسد سے مُکَدَّر (اور خراب) ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں رنج اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملتا (۲) عملی علاج: یہ ہے کہ حاسد (یعنی حسد کرنے والا)، مَحْسُود (یعنی جس سے حسد ہو اُس) کے ساتھ طبیعت کے خلاف برتاؤ کرے مثلاً اگر دل چاہتا ہے کہ مَحْسُود کی غیبت کروں تو فوراً اُس کی تعریف کرنے لگ جائے، اگر نفس کہتا ہے کہ مَحْسُود کے سامنے اکڑ کر بیٹھوں تو فوراً اُس کے سامنے عاجزی و تَزَمُّی کرے، اگر دل یہ کہتا ہے کہ اس سے نفرت کروں تو تکلُفاً اُس سے مَحَبَّت کرے، اِنْ شَاءَ اللّٰہ

صبرِ نعمت سے افضل ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: جس شخص کو کوئی نعمت ملی پھر اس سے واپس لے لی گئی اور اُسے صبر کی توفیق دی گئی تو یہ صبر اس نعمت سے افضل ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْبٍ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا حساب ① (پ ۲۳، زمر: ۱۰) ثواب بھر پور دیا جائے گا بے گنتی -

(سیرت ابن جوزی ص ۲۲۳)

سب سے بہتر بھلائی

آقائے مظلوم، سزورِ معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ رَبِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: مَنْ يُصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٍ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ یعنی جو صبر کرنا چاہے گا اللہ عزوجل اسے صبر کی توفیق عطا فرمادے گا اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔“

(صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، باب فضل التعفف والصبر، الحدیث ۱۰۵۳، ص ۵۲۳)

صبر کی تین قسمیں

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ”صبر“ کی تین قسمیں ہیں: (۱) مصیبت میں صبر (۲) عبادت اور اطاعت کی مشقتوں پر صبر (۳) نفس کو گناہ کی طرف جانے سے

روکنے پر صبر، مثلاً مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جی چاہا مگر دل کو قابو میں رکھا اور کوئی شکوہ و شکایت زبان پر نہ لائے بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پر راضی رہے تو یہ پہلی قسم کا صبر ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی یا نماز فجر میں اُٹھنے کو جی نہیں چاہتا مگر دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرے یہ دوسری قسم کا صبر ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے عیش کر رہا ہے ہمارا بھی دل عیش کو چاہتا ہے مگر دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لیا، یہ تیسری قسم کا صبر ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۳ ص ۸۲)

دل کے لئے مفید شے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: دل کے لئے

وہی بات مفید ہے جو دل سے نکلے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۲۱)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

سانپ اور بچھو سے بچنے کا وظیفہ

افریقہ کے گورنر نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی

خدمت میں بچھو وغیرہ کی شکایت لکھ کر بھیجی تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جوابی مکتوب

میں لکھا تم روزانہ صبح وشام اس آیت مبارکہ کو اپنا وظیفہ بنا لو:

مدینہ

۱: سینکڑوں اوراد و وظائف اور دُعاؤں کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ”مدنی پنج سورہ“ کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ
 قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَ لَنَصْبِرَنَّ
 عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ
 فَيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٧﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہمیں کیا ہوا کہ
 اللہ پر بھروسہ نہ کریں اس نے تو ہماری راہیں
 ہمیں دکھادیں اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم
 ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے
 والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہئے۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۱۲)

(سیرت ابن جوزی ص ۱۱۵)

احسان قبول نہ کرو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: لَا تَقْبَلِ
 الْمَعْرُوفَ مِمَّنْ لَا يَصْطَنَعُهُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، یعنی ایسے شخص کا احسان قبول نہ کرو جو
 اپنے گھر والوں سے حُسنِ سُلُوك نہ کرتا ہو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۶)

کامیاب کون؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: وہ شخص
 کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو مسائل میں الجھنے، غصہ کرنے اور حرص سے دُور
 رکھا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۲۳)

حرص کسے کہتے ہیں؟

مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان لکھتے ہیں: کسی چیز سے سیر
 نہ ہونا (یعنی جی نہ بھرنا)، ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنا حرص ہے۔ (مرآة المناجیح، ج ۷، ص ۸۶)

انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے

دوسروں کی دولتوں اور نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خود بھی اُس کو حاصل کرنے کے چکر میں پریشان حال رہنا اور اس مقصد کے حصول کے لئے غلط و صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنے کے پیچھے حرص و لالچ کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور یہ درحقیقت انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ منورہ سردارِ مملکتِ مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: **لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بُتْغَىٰ وَادِيًّا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ** یعنی اگر انسان کے لئے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“ (صحیح مسلم ص ۵۲۲، حدیث ۱۰۵۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

قناعت فقہ اکبر ہے

حُرَیثُ بْنُ عُمَانَ اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا: اپنے بیٹے کو فقہ اکبر سکھاؤ۔ عرض کی: فقہ اکبر کیا ہے؟ فرمایا: **الْقَنَاعَةُ وَكَفُّ الْأَذَىٰ** یعنی قناعت کرنا اور تکلیف پہنچانے سے باز رہنا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۶)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! قناعت یہ ہے کہ جو تھوڑا سا مل جائے اُسی کو کافی

سمجھے، اُسی پر صَبْر کرے۔ جو قناعت کرے گا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْغَفَّارُ عَزَّوَجَلَّ خوشگوار زندگی گزارے گا۔ دل میں دنیا کی حرص جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں بدمزگی بڑھے گی، مقولہ ہے: الْحِرْصُ مِفْتَاحُ الدُّلِّ یعنی حرص، ذلت کی کنجی ہے اور الْقِنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّاحَةِ یعنی قناعت، راحت کی کنجی ہے۔

کامیابی کا راز

نبی محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ كَفَافًا وَقَنِعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیئے ہوئے پر قناعت دی۔

(مسلم، الحدیث ۱۰۵۴، ص ۵۲۴)

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ ان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: یعنی جسے ایمان و تقویٰ بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا۔ وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ (مرآة المناجیح ج ۷ ص ۹)

امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی نصیحت

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، عیش چند گھڑیوں کا ہے جو گزر جائے گا اور چند دنوں میں حالت بدل جائے گی۔ اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر، راضی رہے گا اور اپنی خواہش ترک کر دے،

آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ کئی مرتبہ موت سونے، یا قوت اور موتیوں کے سبب (ڈاکوؤں کے ذریعے) آتی ہے۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۹۸)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

امیر المؤمنین کے گھر میں خاص ساز و سامان نہ تھا

ایک بار عراق سے ایک غریب عورت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے گھر آئی، جب دیکھا کہ ان کے اپنے گھر میں کسی قسم کا ساز و سامان نہیں ہے تو بولی: میں اس ویران گھر سے اپنا گھر آباد کرنے آئی ہوں؟ زوجہ محترمہ نے کہا: تمہیں جیسے لوگوں کی گھر کی آبادی نے ہی اس گھر کو ویران کر رکھا ہے۔

(سیرت ابن عبدالملک ص ۱۳۵)

دَابِق کی راتیں

ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: فاطمہ! آج کی بہ نسبت دابِق کی راتوں میں ہم زیادہ عیش و راحت میں تھے۔ عَرْض کی: ”آج آپ کو جتنے اختیارات حاصل ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے (یعنی عیش و راحت کا سامان کیا مشکل ہے؟) یہ سن کر امیر المؤمنین کی چیخ نکل گئی اور غم ناک لہجہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے یَا فَاطِمَةُ! إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی فاطمہ! اگر میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے

ڈرتا ہوں۔ وہ اس پر دزدِ دجلے کو سن کر رو پڑیں اور دُعا کرنے لگیں: **اللَّهُمَّ اَعِذْهُ مِنِ النَّارِ** یعنی **یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! ان کو دوزخ سے نجات دے۔**

(سیرت ابن جوزی ص ۲۲۷)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت کو سن کر فقط نعرہ داد و تحسین بلند کر کے دل کو خوش کر لینے کے بجائے ہمیں بھی تقویٰ اور قناعت کا درس حاصل کرنا چاہئے۔ بالخصوص اربابِ اقتدار و حکومتی افسران اور مختلف اسلامی شعبہ جات سے وابستہ ذمہ داران کیلئے اس حکایت میں قناعت و خودداری اپنانے، حرص و طمع سے خود کو بچانے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کیلئے خوب خوب خوب سامانِ عبرت ہے۔ کاش! ہم قلیل آمدنی پر قناعت کرتے ہوئے نیکیوں میں کثرت کے تمتائی بن جائیں۔

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

زاهد تو عمر بن عبدالعزیز ہیں

کسی نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ”اے زاهد!“ کہہ کر پکارا تو انہوں نے فرمایا: ”زاهد“ تو عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں کیونکہ دنیا کا مال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود زہد کو اختیار کئے ہوئے ہیں، میں ”زاهد“ کہلانے کے لائق نہیں۔ (احیاء العلوم، ج ۳ ص ۲۶۸)

اسی طرح کا قول حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے بھی منقول ہے کہ فرمایا: **النَّاسُ يَقُولُونَ مَالِكُ زَاهِدٌ! إِنَّمَا الزَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي أَتَتْهُ**

الدُّنْيَا فَتَرَكَهَا یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار ”زہد“ ہے، ”زہد“ تو عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں جس کے پاس دنیا آئی بھی تو انہوں نے ترک کر دی۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۹۱)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ أَنْ كَفَّ صَدَقَةَ هِمَارِي مَغْفِرَتِ هُوَ

اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاٰمِیْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

زُہد کسے کہتے ہیں؟

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

”دنیا سے بے رغبتی مال کو ضائع کر دینے اور حلال کو حرام کر دینے کا نام نہیں، بلکہ دنیا سے کنارہ کشی تو یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد نہ ہو جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے پاس ہے۔“

(جامع الترمذی، کتاب الزہد، الحدیث: ۲۳۳۷، ج ۴، ص ۱۵۲)

دُنْيَا سے بے رغبتی کا انعام

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: ”يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْاِكْرَامِ! تُوْنِي نِيكَ بِنْدُوْنَ كَلِّ لِيْ كِيَا تِيَا رِكِيَا هِيْ اُوْر تُوَا نِيْسِيْ كِيَا بَدَلِهٖ عَطَا فَرَمَائِيْ

گا؟“ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا: ”دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لئے تو میں اپنی

جنت کو مباح کر دوں گا وہ اس میں جہاں چاہیں ٹھکانا بنالیں اور اپنی حرام کردہ

میں خلیفہ رہوں گا ایک اینٹ بھی دوسری اینٹ پر نہ رکھوں گا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۶)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ أَنْ يَكْفُرَكَ هُوَ

مَغْفِرَتِ هُوَ - آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

غَيْرَ ضَرُورِي تَعْمِيرَاتِ كَى حَوْصَلِهِ شَكْنِي

حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مالِ کون و

مکان، رسولِ ذیشان، محبوبِ رحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے:

”مَا أَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أُجِرَ فِيهَا إِلَّا نَفَقَتَهُ فِي هَذَا التُّرَابِ لِعِنِّي مُسْلِمَانُ كَوْهَرِ

خَرْجِ كَيْ عَوْضِ أَجْرٍ يَأْتِيهِ سَوَاءٌ أَسْمَىٰ كَيْ“ (مشکوٰۃ المصابیح، ج ۲، ص ۲۴۶، حدیث ۵۱۸۲)

مفسر شہیر، حکیم الامت، حضرت علامہ مولانا الحاج، مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ

اللہ المنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”(اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق)

کھانے پینے، لباس وغیرہ پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے کہ یہ چیزیں عبادت کا

ذریعہ ہیں مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں، لہذا عمارت سازی کا

شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے۔ خیال رہے! یہاں دُنیوی

عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مُراد ہیں۔ مسجد، مدرسہ (مد۔ر۔سہ)، خانقاہ، مسافر

خانے (اچھی نیت کے ساتھ) بنانا تو عبادت ہے کہ یہ تو صدقاتِ جاریہ ہیں۔ یوں ہی

(اچھی نیت کے ساتھ) بقدرِ ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے کہ اس میں سکون سے رہ

کَرَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي عِبَادَتِ كَرَّ رَغَا۔ بَعْضُ لُؤْكَ دَكِيحَ كُنَّ هِي كَوَّ هِمِيشَه مَكَانِ كِ تَوْرُ
 پھوڑ، ہر سال نئے نمونے کے مکانات بنانے ہی میں مشغول رہتے ہیں یہاں یہی مراد
 ہیں۔“ (مرآة شرح مشکوٰۃ، ج ۷، ص ۱۹)

اُونچے اُونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے
 آج وہ ہیں نہ ہیں مکاں باقی نام کو بھی نہیں ہیں نشاں باقی

(ماخوذ از جنتی محل کا سودا، ص ۳۲)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 ہر سفر کے لئے توشہ لازمی ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ نے ایک خطبے میں
 فرمایا: ہر سفر کے لئے زادِ راہ ضروری ہوتا ہے لہذا تم دنیا سے سفرِ آخرت کے لئے
 سامان تیار کرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی منزل نہیں اور
 تمہیں ان دونوں میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۱۷)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دنیاوی سفر کے لئے مختلف پہلو سامنے رکھ کر سفر کی
 تیاری کی جاتی ہے کہ کہاں جانا ہے؟ کب جانا ہے؟ کس چیز پر جانا ہے؟ کتنی دُور جانا
 ہے؟ کتنے دن کے لئے جانا ہے؟ اے کاش اسی طرح ہم اپنے سفرِ آخرت کے لئے
 بھی خوب سوچ بچار کیا کریں اور نیکیاں اکٹھی کرنے کے لئے کوشاں رہیں کہ اس سفر

میں دنیاوی ساز و سامان نہیں بلکہ نیکیاں کام آئیں گی۔

کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنالے

کچھ نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

امیر المؤمنین کا عفو و درگزر

بدلے کی بھرپور طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کے نازیبا رویے، نامناسب

سُلوک یا زیادتی کو برداشت کر جانا بڑے دل والوں کا ہی حصہ ہے اور اس کی بڑی

فضیلت ہے، چنانچہ كُنْزُ الْعَمَالِ میں ہے کہ سرکارِ مدینہ منورہ، سلطانِ مکہ

مکرمہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ معظم ہے: جو عُصَّہ پی جائے گا حالانکہ

وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا

سے معمور فرما دیگا۔ (کنز العمال ج ۳ ص ۱۶۳ حدیث ۱۶۰)

دو بہترین عادتیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: علم کے ساتھ

عادتِ حلم اور قدرت کے ساتھ عَفْو (یعنی معاف کر دینے) کی عادت مل جانے سے بہتر

کوئی شے نہیں ہے۔ (آداب الشریعہ، فصل فی حسن الخلق، ج ۲ ص ۳۱۶)

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ

الْعَزِيزِ میں یہ دونوں عادتیں بخوبی موجود تھیں، آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے عَفْو و دَرَّگُور

اور سبّ و تحمّل کی 13 حکایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ:

(۱) سر جھکا لیا

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں: کسی شخص نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر سے سخت کلامی کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا: ”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصّہ آجائے اور شیطان مجھے تَکْبُر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور روز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔“ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ (کیسے سعادت ج ۲ ص ۵۹۷)

(۲) سزا دینے میں احتیاط

حضرت سیدنا اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا معمول تھا کہ جب کسی شخص کو سزا کا حکم سناتے تو اس اندیشے کے تحت اُسے تین دن تک قید میں رکھتے کہ کہیں میں نے سزا کا حکم غیظ و غصّب کی حالت میں تو نہیں دیا۔ (تاریخ دمشق، ج ۴ ص ۲۰۶)

(۳) میں تم سے قصاص لیتا

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے عامل عبدالحمید بن عبدالرحمن نے ان کو لکھا کہ میرے سامنے ایک شخص اس جرم میں پیش کیا

گیا ہے کہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گالیاں دیتا ہے، میں نے اس کی گردن اڑا دینی چاہی تھی لیکن پھر اس خیال سے قید کر دیا کہ پہلے اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے لے لوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے جواب میں لکھا کہ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میں تم سے قصاص لیتا، نبیِّ مَعْظَمِ رَسُوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سوا کسی اور کو گالی دینے پر کوئی شخص قتل نہیں کیا جاسکتا، اس لیے اگر تمہارا جی چاہے تو اس کو گالی دے کر بدلہ لو ورنہ رہا کر دو۔

(تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۲۰۷ ملتقطاً)

(۴) تقویٰ نے منہ میں لگام ڈال دی ہے

کسی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو ایک موقع پر نامناسب کلمات کہے، لوگ بولے: آپ چپ کیوں ہیں؟ فرمایا: إِنَّ التَّقِيَّ مُلْجَمٌ یعنی تقویٰ نے منہ میں لگام ڈال دی ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۸)

(۵) گالی دینے والے کو پکھنہ کہا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو کسی نے ایک شخص کے بارے میں نشاندہی کی کہ یہ آپ کو گالی دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، بتانے والے نے پکھنہ کہا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظر انداز کیا، جب اس نے تیسری بار کہا تو فرمایا: ”عمر“ اس (یعنی گالی دینے والے) کو اس طرح ڈھیل دے رہا ہے کہ اس کو خیر تک نہیں ہوتی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۸)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اگر کوئی ہماری دل آزاری کر دے یا گالی بھی دے دے تو بھی بحث و تکرار سے اجتناب کر کے دُزگُزر سے کام لیتے ہوئے جھگڑے سے بچنے میں ہی بھلائی ہے۔ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے، ”جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کیلئے جنت کے گرد ایک گھر کا ضامن ہوں۔“ (سنن ابی داؤد، ج ۴، ص ۳۳۲، الحدیث ۴۸۰۰)

(۶) بُرا بھلا کہنے والے سے حسنِ سلوک

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سواری پر کہیں جا رہے تھے کہ ایک پیدل چلنے والا شخص سواری کی جھپٹ میں آ گیا اور اس نے غصے سے کہا: دیکھ کر نہیں چل سکتے! جب سواریاں آگے نکل گئیں تو اس شخص نے کہا: کوئی ہے جو مجھے اپنے پیچھے بٹھائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر چشمے تک لے چلو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۰۸)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ اللہ عزَّوَجَلَّ کے نیک بندوں کے اخلاق نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں اور وہ تکلیف پہنچنے پر بھی غصہ میں نہیں آتے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور نہ صرف خطا کار کی خطا معاف کر دیتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو حُسنِ سلوک سے نوازدیتے ہیں۔

(۷) میں پاگل نہیں ہوں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ رات کے وقت مسجد میں گئے، وہاں ایک شخص سو رہا تھا، اندھیرے میں اس کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں کی ٹھوکری لگ گئی، تو اس نے جھلکا کر کہا: اَمْ جُنُونٌ اَنْتَ یعنی کیا تم پاگل ہو؟ فرمایا: نہیں۔ خادم نے اس گستاخی پر اُس کو سزا دینی چاہی لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ نے روک دیا اور فرمایا: اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم پاگل ہو؟ میں نے جواب دے دیا: ”نہیں۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۹)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! ہمارے بزرگانِ دین کا اخلاق کس قدر پاکیزہ تھا، مُقابل کوئی کمزور ہوتا تو اُن کے لہجے میں نرَمی آ جاتی تھی مگر ہمارا غصّہ بڑا ”عقل مند“ ہے کہ ”کمزور“ کو سامنے دیکھ کر خوب پھھلتا پھھولتا اور سر چڑھ کر بولتا ہے۔

(۸) گالوں سے خون نکل آیا

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ قَبِيلُوہ (یعنی دو پہر کا مختصر آرام) کرنے کے لیے اٹھنے لگے تو ایک آدمی ہاتھ میں کاغذات کی ایک بڑی فائل لئے ہوئے آگے بڑھا اور جلد بازی میں وہ فائل ان کی طرف پھینک دی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مُڑ کر دیکھا تو فائل منہ پر جا لگی جس کی وجہ سے گالوں سے خون نکلنے لگا لیکن سب سے پہلے ہونے کے بجائے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ نے نہایت خاموشی کے ساتھ اُس کی درخواست پڑھی اور اس کی حاجت کو پورا کیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۸)

(۹) سزا کے بجائے وظیفہ مقرر کر دیا

ایک بچے نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے بیٹے کو مارا، لوگ اس بچے کو پکڑ کر ان کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے کمرے میں تھے، شور سنا تو کمرے سے نکل آئے۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور کہنے لگی: یہ میرا بچہ ہے اور یتیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: اس یتیم کو وظیفہ ملتا ہے؟ عرض کی: نہیں۔ خادم سے فرمایا: اس کا نام وظیفہ خوار بچوں میں لکھ لو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۷)

سچ ہے کہ ہر بلند مرتبہ شخص منکسر المزاج اور دوسروں کی دلجوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اُس کی مثال تو اُس درخت کی سی ہوتی ہے، جس پر جتنے زیادہ پھل آتے ہیں اُس کی شاخیں اُسی قدر جھک جاتی ہیں، جو خوش نصیب کمزوروں کے ساتھ نرمی اور مروت کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شاداں و فرحاں ہونگے، لیکن مغزوروں کو شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

(۱۰) غصے کی حالت میں سزا نہ دو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے ایک گورنر کو لکھا کہ غصے کی حالت میں کسی مجرم کو سزا مت دو بلکہ اسے قید کر دو جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے اُس کے جُرم کے مطابق سزا دو۔ (احیاء العلوم، ج ۳ ص ۲۰۵)

(۱۱) بلا و جد اغنا نہیں چاہئے

چند خارجی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں آئے اور مناظرہ شروع کر دیا۔ کسی نے مشورہ دیا: یا امیر المؤمنین! ان کو ذرا جلال دکھا کر مرعوب کیجئے مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت نرمی سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک خاص شرط پر راضی ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشورہ دینے والے سے فرمایا: جب تک دوا سے شفا کی اُمید ہو کسی کو داغنا نہیں چاہئے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۷)

(۱۲) بُرا بھلا نہ کہو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اگرچہ حجاج بن یوسف کو اس کی ظالمانہ روش کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے اور یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے روز اُمتوں کا خباثت میں مقابلہ ہو اور ہر اُمت اپنے خبیث لائے تو اگر ہم حجاج کو لائیں تو اُن پر غالب رہیں گے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۵۹) یہی وجہ تھی کہ حجاج کے خاندان کو جلا وطن کر دیا تھا مگر اس کے باوجود جب کسی نے آپ کے سامنے حجاج بن یوسف کو گالی دی تو فوراً روکا اور فرمایا: جب مظلوم ظالم کو خوب بُرا بھلا کہہ کر اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو ظالم کو اس پر ایک طرح سے برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۹)

(۱۳) سزا معاف کر دی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک شخص پر کسی وجہ سے

سخت بڑھم ہوئے یہاں تک کہ اسے کوڑے مارنے کا حکم دے دیا لیکن جب کوڑے لگانے کا وقت آیا تو خدا ام سے فرمایا: خَلُّوا سَبِيلَهُ یعنی اس کو رہا کر دو، اور اس شخص سے فرمایا: اگر میں غصے میں نہ ہوتا تو تمہیں ضرور سزا دیتا، پھر یہ آیت پڑھی،

وَالْكٰظِمِيْنَ الْعَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ

النَّاسِ ۝ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۷﴾ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک

(پ ۴، ال عمران: ۱۳۷) لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۰۷)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ

رحمۃ اللہ العزیز کے عفو و درگزر کے انوار دیکھے یقیناً غصہ اپنے ساتھ تباہ کاریوں کی طویل داستان لے کر آتا ہے کیونکہ غصہ ہی اکثر دکھ کا سدا، دو بھائیوں میں افتراق، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں منافرت اور قتل و غارت کا موجب ہوتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے اور مار دھاڑ اور توڑتاڑ کر ڈالنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے: مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل بھی ہے تو اس سے بے حد زیادہ اللہ عزوجل مجھ پر قادر ہے اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یا حتیٰ تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ عزوجل کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟^۱

مدینہ

۱: غصے کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ”غصہ کا علاج“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

امیر المؤمنین کی رحم دلی

ایک بار ایک دیہاتی آیا اور اپنی حاجت کو ایسے پُر دزد الفاظ میں پیش کیا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے گردن جھکا لی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے حتیٰ کہ سامنے کی زمین گیلی ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا: تم گل کتنے افراد ہو؟ اس نے کہا: ایک میں اور آٹھ بیٹیاں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ نے بیت المال سے سب کے وظائف مقرر کر دیئے اور سو ذہم ذاتی طور پر اپنی جیب سے دیئے۔ (سیرت ابن جوزی ۹۱ ملخصاً) اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ اَنْ پَر رَحْمَتِ هُو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مَغْفِرَتِ هُو۔ اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاُمِیْنِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

جانور کو تین دن آرام کرنے دو

یہ رحم صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو جانوروں تک کی تکلیف گوارا نہ تھی، ان کے پاس ایک خچر تھا جس کو ان کا غلام کرائے پر چلاتا تھا۔ کرایہ کی آمدنی روزانہ ایک ذہم تھی۔ ایک دن غلام ڈیڑھ ذہم لایا تو دریافت کیا: یہ اضافہ کیونکر ہوا؟ اس نے کہا: آج بازار تیز تھا۔ فرمایا: نہیں! تم نے جانور سے زیادہ کام لیا، اب اس کو تین دن آرام کر لینے دو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۹۷)

جانوروں کے بارے میں ہدایات

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے بازاروں کے نگران کے نام باقاعدہ یہ حکم نامہ تحریر فرمایا: ”جانوروں کو بھاری لگام نہ دی جائے اور نہ انہیں ایسی چھڑی سے ہانکا جائے جس پر لوہے کا خول چڑھا ہو۔“ اور گورنر مضر کو لکھا: ”مجھے اطلاع ملی ہے کہ مضر میں بوجھاٹھانے والے اونٹوں پر ہزار رطل (تقریباً 500 سیر) تک بوجھ لادا جاتا ہے، جب میرا یہ خط ملے تو اس کے بعد کسی اونٹ پر چھ سو رطل (تقریباً 300 سیر) سے زیادہ بوجھ لادنے کی اطلاع نہ آئے۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۶)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

صلح کروائی

بڑی عمر کا ایک شخص اپنے بھتیجے کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القَدِیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دونوں کا کسی بات میں تنازع تھا، بڑے میاں پہلے پہلے تو صلح صفائی کی طرف مائل تھے، پھر اچانک انہیں غصہ آیا اور ان کے نفس نے انہیں قطع رحمی کی پٹی پڑھائی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القَدِیر نے بوڑھے پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا: ”بڑے میاں! میں نے نہ تم سے زیادہ شیریں کسی کو دیکھا نہ تم سے زیادہ تلخ، نہ تم سے زیادہ قریب کسی کو دیکھا نہ تم سے زیادہ بعید، ابھی ابھی تم صلح صفائی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک تمہارے نفس نے تمہیں قطع رحمی اور ظلم کی راہ پر لگا دیا۔“ بڑے میاں کی لہیں (موچھیں) اتنی بڑھی

ہوئی تھیں کہ منہ ڈھک رہا تھا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے اپنے حجام سے فرمایا: ”اسے لے جاؤ اور اس کی لہیں کاٹ کرو واپس لاؤ۔“ وہ لہیں بنوا کر واپس آیا تو فرمایا: ”دیکھو! یہ کیسی اچھی لگتی ہیں، اس سے نظافت بھی حاصل ہوتی ہے اور فطرتِ صحیحہ سے مطابقت بھی۔“ پھر بڑی نرمی سے فرمایا: ”بڑے میاں! آؤ اب اپنے بھتیجے سے صلح کر لو۔“ اس نے عرض کی: ”بہت بہتر۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دونوں کے مابین صلح کرادی اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ۔“

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور انہیں آپس

میں محبت و اتفاق سے رہنا چاہئے مگر شیطان کو یہ کیونکر گوارا ہو سکتا ہے چنانچہ وہ مردود مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا، لڑواتا اور قتل و غارتگری تک کرواتا ہے، بعض اوقات دشمنی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے، جس سے ہو سکے ان کے بیچ میں پڑ کر صلح کروانے کی کوشش کرے، ہمارا پیارا رب عَزَّوَجَلَّ پارہ 26 سورہ حجرات کی دسویں آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: مسلمان مسلمان بھائی ہیں
اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو
کہ تم پر رحمت ہو۔

صلح کروانا سنت ہے

صلح کروانا تاجدارِ حرم، نبی مکرم، رسول محترم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی مقدّس سنت بھی ہے، چنانچہ خزائنِ العرفان میں ہے، سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم دراز گوش پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ انصار کے پاس سے گزر ہوا، وہاں کچھ دیر توقف فرمایا، اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مُشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تو تشریف لے گئے۔ ان دونوں کی بات بڑھ گئی اور دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھ پائی تک توبت پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم واپس تشریف لائے اور دونوں میں صلح کروادی۔ اس معاملہ میں یہ آیت نازل ہوئی:

وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ سَائِلٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 اِقْتَتَلُواْ أَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا
 ترجمہ کنز الایمان : اور اگر مسلمانوں
 کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان
 میں صلح کراؤ۔ (پ ۲۶، الحجرات: ۹)

صلح کروانے کا ثواب

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ

أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ
وَرَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ يَعْنِي جَوْشَخُصَ لُؤْكَوْنَ كَے دَرْمِيَانِ صَلَاحِ كِرَائِے
كَاللَّهِ عَزَّ وَجَدَّ اس كَا مَعَالِمُهُ دُرُوسَتِ فَرَمَادِے كَا اُور اَسِے هَر كَلِمَةُ بُولِنِے پَر اِيَكِ غَلَامِ آزَادِ
كَرْنِے كَا ثَوَابِ عَطَا فَرَمَائِے كَا اُور وَهْ جَب لُوٹِے كَا تُو اِنِے پِچھلِے كِنَا هُوْنَ سِے مَغْفِرَتِ

يَافِتَةُ هُو كِر لُوٹِے كَا۔ (الترغيب والترهيب، كتاب الادب، الحدیث ۹، ج ۳، ص ۳۲۱)

صَلُّوا عَلَي الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَي عَلِي مُحَمَّد

عِيَادَتِ وَتَعْرِيزَتِ

أَمْرَاءُ وَسُلَاطِينِ عِيَادَتِ وَتَعْرِيزَتِ كِے لِنِے بَهْتِ كَم كِهْرِ سِے بَا هَر قَدَمِ نَكَالْتِ
هِيں لِيَكِنِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَمْرُ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ دُوسْتِ دُشْمَنِ كِي عِيَادَتِ وَ
تَعْرِيزَتِ كُو بَے تَكْلَفِ جَايَا كِرْتِے اُور اِنِ كُو تَسْلِي دِيْتِے تَهْ۔ چُنَا نِچْ اِيَكِ بَارِ حَضْرَتِ
سَيِّدِنَا الْبُقْلَا بَہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ شَامِ مِيں بِيَارِ هُوئے تُو حَضْرَتِ عَمْرُ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ
رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ اِنِ كِي عِيَادَتِ كُو تَشْرِيفِ لَے كِنِے اُور بَے تَكْلَفِي سِے كِهَا: يَا أَبَا قِلَابَةَ
تَشَدَّدْ وَلَا تَشْمِتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ يَعْنِي الْبُقْلَا بَہ! چَا كِ وَچُو بِنْدِ هُو جَايِے اُور هَمِ پَرِ
مُنَافِقِينَ كُو بَهْنِے كَا مَوْقِعِ نَهْ دِيْتِجِے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۰۶)

مُرْدِے كِي تَعْرِيزَتِ كِرْتَا هِے

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَمْرُ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِے وَالدِّصَاحِبِ كَا اِنْتِقَالِ هُوَا
تُو حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَمْرُ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نِے اِنِ كِے پَاسِ اِيَكِ تَعْرِيزَتِ نَامِے

بھیجا جس میں لکھا: ”ہم آخرت میں رہنے والی قوم کے افراد ہیں مگر ہم نے دنیا کو اپنا ٹھکانا بنا لیا ہے، ہم مُردے ہیں اور مر جانے والوں کی اولاد ہیں، حیرت ہے ایک مُردے پر کہ وہ مُردے کو خط لکھتا ہے اور مُردے کی تعزیت کرتا ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۰)

تعزیت کا انداز

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمٰہِ کا ایک دوست فوت ہو گیا تو آپ اس کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لئے گئے۔ وہ آپ کو دیکھ کر شدید آہ و زاری کرنے لگے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمٰہِ نے ان سے فرمایا: دنیا سے جانے والا تمہارا رازق نہ تھا، تمہارا رازق زندہ ہے جس پر موت نہیں آئی اور مرحوم نے تمہارے نہیں بلکہ اپنے رِزق کا راستہ بند کیا ہے، اور تم میں سے ہر آدمی پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا رِزق بند ہو جائے گا، اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا اس کے لئے فنا لکھ دی، اس کے باسیوں پر بھی فنا ہونا مقرر کر دیا، جو یہاں جمع ہوئے بالآخر مُنْتَشِر ہو گئے، اس لئے تم اپنی فکر کرو کیونکہ جس طرف آج تمہارا یہ عزیز گیا ہے تم سب کل اُسی (یعنی موت کی) طرف جانے والے ہو۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۶۳)

صبر اور رضا میں فرق

ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمٰہِ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی ہمراہی میں اس کے ہاں تعزیت کے لئے تشریف لے گئے۔

وہ شخص بڑی خاموشی سے اس صدمے کو سہہ رہا تھا، اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کسی نے آواز لگائی: رضاً پر راضی ہونا تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بول اٹھے: رضاً پر راضی ہونا کہیں گے یا صبر کرنا؟ سلیمان نے اس کی وضاحت کی: واقعی صبر اور رضاً میں فرق ہے، رضاً کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبت نازل ہونے سے پہلے اپنا ذہن بنائے کہ کیسی ہی مصیبت ٹوٹ پڑے میں اللہ عزوجل کی رضاً پر راضی رہوں گا، جبکہ صبر مصیبت نازل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۰۶)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ

امیر المؤمنین کی آشک باریاں

پر نالے سے آنسو بہہ نکلے

حضرت سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھیک اسی جگہ کبھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بھی قیام کیا تھا۔ وہاں ایک راہب کی حضرت سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) میں کوئی منفرد بات دیکھی ہو تو بتاؤ۔ راہب کہنے لگا: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے یہاں چھت پر قیام کیا تھا، رات کے وقت پر نالے سے مجھ پر پانی کے چند قطرے گرے، میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا مگر وہاں

بارش کے کوئی آثار نہ تھے، میں نے چھت پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت سیدنا عمر بن عبد
العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سجدے میں گرے ہوئے تھے، وہ رورہے تھے اور ان کی آنکھوں
سے نکلنے والے آنسو پر نالے کے ذریعے نیچے گر رہے تھے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۸)

داڑھی آنسوؤں سے تر تھی

جسّر ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے خناصرہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبد
العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو خطبہ دینے کے لئے منبر پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور جب منبر سے نیچے اترے تو بھی رو
رہے تھے۔ (موسوع ابن ابی الدنیا، کتاب الرقۃ والبرکاء، ج ۳، ص ۱۹۱)

آنسوؤں کو غنیمت سمجھو

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اغْتَنِمْ
الدَّمْعَةَ تُسِيلُهَا عَلٰی خَدِّكَ لِلّٰهِ یعنی رضائے الہی کے لئے اپنے رخساروں پر بہنے
والے آنسوؤں کو غنیمت سمجھو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۶)

سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر تھی

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نماز پڑھا کر
فارغ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سجدہ کرنے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۱۸)

آنسوؤں میں خون

حضرت سیدنا میمون بن مهران اور حضرت سیدنا حسن بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے ہیں: ہم نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو روتے ہوئے دیکھا تھی کہ آپ کے آنسوؤں میں خون بہنے لگا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۹)

دُنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پڑوسی حضرت سیدنا حارث بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور ستارے روشن ہو جاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریض کی طرح بے چین و مضطرب ہو جاتے اور غم زدہ انسان کی طرح رونے لگتے اور فرماتے ”اے دُنیا! تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے؟ جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو دھوکا دے، میں تو تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں، اب تجھ سے رُجوع نہیں ہو سکتا۔ تیری عمر کم، تیری لذتیں حقیر اور تیرے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے افسوس! میرے پاس زادِ راہ کم، سفر طویل اور راستہ پُر خطر ہے۔“ (الروض الفائق، ص ۲۰۰)

سب رونے لگے

بعض اوقات دورانِ خطبہ منبر شریف پر ایسا روتے کہ خطبہ جاری رکھنا دشوار ہو جاتا، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے

دورانِ بیان سورہ تکویر کی یہ آیات پڑھیں:

ترجمہ کنزالایمان: جب دھوپ لپیٹی

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا

جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب

النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ

پھاڑ چلائے جائیں اور جب تھلکی اونٹنیاں

سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِّلَتْ ④

چھوٹی پھیریں اور جب وحشی جانور جمع کئے

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا

جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور

الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ

جب جانوں کے جوڑ بنیں اور جب زندہ

رُوجَتْ ⑦ وَإِذَا الْبُوعُودُ سُيِّتَتْ ⑧

دبائی ہوئی سے پوچھا جائے: کس خطا پر ماری

بِأَمْرِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ

گئی؟ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور

نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَ

جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب

إِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ ⑫

جہنم بھڑکایا جائے۔

(پ ۳۰، التکویر: ۱۲ تا ۱۱)

جب آیت 13 پر پہنچے:

ترجمہ کنزالایمان اور جب جنت پاس لائی

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِتْ ⑬

جائے۔

(پ ۳۰، التکویر: ۱۳)

تو اگلی آیت:

ترجمہ کنزالایمان: ہر جان کو معلوم

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭

ہو جائے گا جو حاضر لائی۔

(پ ۳۰، التکویر: ۱۴)

نہ پڑھ سکے تو فکرِ آخرت سے مغلوب ہو کر رو دیئے، مسجد میں موجود لوگ بھی رونے لگے یہاں تک کہ آہ و بکا سے مسجد گونجنے لگی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۱۸)

خلیفہ کا اثر رعایا پر

مشہور ہے کہ ”خر بوزے کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے“، اسی طرح حکمرانوں کے طرز زندگی کا اثر رعایا پر بھی پڑتا ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی عبادت و ریاضت کا رنگ عوام میں بھی منتقل ہوا چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: خلیفہ ولید بن عبدالملک عمارات وغیرہ کا بانی تھا، لوگ جب اس کے زمانے میں آپس میں ملتے تھے تو صرف عمارتوں کو بنانے خریدنے کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی تھی، پھر جب سلیمان بن عبدالملک کا دور آیا تو وہ کھانے پینے اور نکاح کا شوقین تھا اس لئے اس کے عہد میں لوگ شادیوں اور کنیروں کی باتیں کیا کرتے اور جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا دور مبارک آیا تو آپ نے اپنی حکومت کا ستون روحانیت کو بنایا چنانچہ اس وقت جب لوگ آپس میں ملتے تو عبادت کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ تم کونسا وظیفہ پڑھتے ہو؟ تم نے کتنا قرآن پاک یاد کر لیا؟ تم قرآن کریم کب ختم کرو گے؟ اور کب ختم کیا تھا؟ اور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ

(البدایہ و النہایہ ج ۶ ص ۲۹۹ ملخصاً)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

مناجات عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز

{1} {اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي قُدْرِكَ حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعَجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ} یعنی: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو مجھے اپنی قضا پر راضی رہنے والا بنا اور اپنی تقدیر میں مجھے بڑکت عطا فرما یہاں تک کہ جس چیز کو تو مؤخر کر دے میں اس کی تعجیل کو پسند نہ کروں اور جو کچھ تو مجھے جلدی دے میں اس کی تاخیر کو پسند نہ کروں۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے: یہ دعا مجھے اس قدر راسخ ہو گئی ہے کہ اب میرے لیے قضا و قدر کے علاوہ کسی چیز کی کوئی خواہش ہی نہیں رہی۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۰ و سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۳)

{2} {اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي فَإِنَّ رَحْمَتَكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا شَيْءٌ فَتَسَعِنِي رَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ} یعنی: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر میں تیری رحمت کا اہل نہیں ہوں مگر تیری رحمت تو مجھ تک پہنچنے کی اہل ہے کیونکہ تیری رحمت نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے اور میں بھی ”شے“ ہوں لہذا تیری رحمت مجھے بھی اپنے گہرے میں لے لے، یا اَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ عَزَّوَجَلَّ! (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۹)

{3} {اللَّهُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَطَاعُكَ فِيمَا أَمَرْتَهُمُ وَأَنْتَهُمُ أَعْمَاءُ نَهَيْتَهُمُ اللَّهُمَّ وَإِنَّ تَوْفِيقَكَ أَيُّهُمْ كَانَ قَبْلَ طَاعَتِهِمْ أَيَّاكَ فَوْقَنِي} یعنی: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! بلاشبہ جو خوش نصیب لوگ تیرے حکم کی اطاعت اور تیری نافرمانی سے بچتے ہیں، یقیناً ان کے اطاعت کرنے سے پہلے تیری توفیق انہیں ملتی ہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے بھی (اپنی اطاعت) کی

توفیق عطا فرما۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۹)

{4} {اللَّهُمَّ أَصْلِحْ مَنْ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ أَهْلِكَ

مَنْ كَانَ فِي هَلَاقِهِ هَلَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ یعنی: یا اللہ عزوجل! ہر اس شخص کو سلامت رکھ جس کی سلامتی میں امت سرکار کی سلامتی ہے اور ہر اس شخص کو تباہ کر دے جس کی ہلاکت میں امت

سرکار کی سلامتی ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۹)

{5} {اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَلَمْ

أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ فَأَغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا یعنی: یا اللہ عزوجل! میں نے تیری سب سے محبوب شے یعنی توحید میں تیری اطاعت کی ہے اور تیری سب سے

ناپسندیدہ شے یعنی ”کفر“ کے معاملے میں تیری نافرمانی نہیں کی (یعنی کفر کو اختیار نہیں کیا) تو اے میرے مالک عزوجل جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس میں مجھے معاف فرما دے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۰)

{6} {اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ یعنی: یا اللہ عزوجل! عافیت و سلامتی عطا فرما۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۰)

{7} {جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو یہ دُعا پڑھا کرتے: اللَّهُمَّ إِنَّكَ

وَعَدْتِ الْأَمَانَ دُخَالَ بَيْتِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فِي بَيْتِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَمَانَ مَاتُومِنِّي بِهِ أَنْ تَكْفِينِي مَوْنَةَ الدُّنْيَا حَتَّى تَبْلُغَنِيهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ یعنی: یا اللہ عزوجل! تُو نے اپنے گھر میں داخل ہونے والوں کے لئے امن کا وعدہ کیا

ہے اور تو اپنے گھر میں آنے والوں کے لیے سب سے بہتر مہمان نواز ہے، یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے ایسا پروانہ امن عطا فرما جس کے ذریعہ مجھے امن و امان حاصل ہو، وہ یہ کہ تو دنیا کی مشقتوں سے میری کفایت فرما یہاں تک کہ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ عَزَّوَجَلَّ! تو مجھے اپنی رحمت کے طفیل جنت میں پہنچا دے۔

نیز یہ دُعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَلْبَسْنِیْ الْعَافِیَةَ حَتّٰی تَهْنِئِنِّی الْمَعِیْشَةُ وَاُخْتِمَ لِیْ بِالْمَغْفِرَةِ حَتّٰی لَا تُضْرِبُنِی الدُّوْبُ وَاَكْفِیْنِیْ کُلَّ هُوْلٍ دُوْن الْجَنَّةِ حَتّٰی تَبْلُغْنِیْ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ یعنی: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے لباسِ عافیت عطا فرماتا کہ میری زندگی خوشگوار ہو اور بخشش پر میرا خاتمہ فرماتا کہ گناہ مجھے نقصان نہ دے سکیں اور جنت سے پہلے جتنی ہولناکیاں ہیں ان سے میری کفایت فرما یہاں تک کہ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ عَزَّوَجَلَّ! تو مجھے اپنی رحمت کے طفیل جنت میں پہنچا دے (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۴)

{8} عرفات کے میدان میں یہ دُعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ دَعَوْتَ

اِلَیْ حَجِّ بَیْتِکَ وَوَعَدْتَ بِہِ مَنَفْعَةً عَلٰی شَہُوْدٍ مَّنَاسِکِکَ وَقَدْ جِئْتَنَا اللّٰهُمَّ اَجْعَلْ مَنَفْعَةً مَّا تَنْفَعُنِیْ بِہِ اَنْ تُؤْتِیْنِیْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً یعنی:

یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے اپنے گھر کی زیارت (یعنی حج) کے لیے بلایا اور ان مقاماتِ عبادت کی حاضری پر بہت سے منافع عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے یہ منفعت عطا فرما کہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھلائی ملے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۴)

{9} اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ فِي الدُّنْيَا عَطَاءً يُّبْعِدُنِيْ مِنْ رَّحْمَتِكَ فِي

الْآخِرَةِ یعنی: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے دنیا میں ایسی چیز نہ دے جو مجھے آخرت میں تیری رحمت سے دور کر دے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۴)

{10} ”يا ربِّ عَزَّوَجَلَّ! تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھے کچھ کاموں کے کرنے کا

حکم فرمایا اور کچھ کاموں سے منع فرمایا اور حکم ماننے کی صورت میں مجھے ثواب کی ترغیب دی اور نافرمانی کی سزا سے ڈرایا اور مجھ پر ایک دشمن (شیطان) مُسَلِّط کیا، میں اگر برائی کا قصد کرتا ہوں تو وہ مجھے ہمت دلاتا ہے اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو حوصلہ شکنی کرتا ہے، میں غافل ہو جاتا ہوں مگر وہ چوکنا رہتا ہے اور میں بھول جاتا ہوں مگر وہ نہیں بھولتا، وہ مجھے شہوتوں میں لاکھڑا کرتا ہے اور مجھے شبہات میں ڈالتا ہے اگر تو اس کے منکر و فریب سے میری حفاظت نہ فرمائے گا تو مجھے وہ پھسلا کر رہے گا۔ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو اسے مغلوب کر دے اور مجھے کثرتِ ذکر کی توفیق دے کر اسے ذلیل کر دے تاکہ میں ان پاکیزہ لوگوں کی صحبت میں کامیابی حاصل کروں جو تیری توفیق کے طُفَّیلِ شیطان کے شَرِّ سے محفوظ ہیں، برائی سے بچنے اور نیکی پر جمنے کی توفیق تیری ہی جانب سے ہے۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۴)

{11} جب کبھی کسی نعمت پر نگاہ پڑتی تو یہ دُعا مانگا کرتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُبَدِّلَ کُفْرًا وَّ اَوْ کُفْرًا بِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا اَوْ اَنْسَاهَا فَلَا اَتْنِيْ بِهَا یعنی یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ناشکری کروں یا میں اس نعمت کو

پہچاننے کے بعد اس کا انکار کروں یا میں اس نعمت کو فراموش کر دوں اور اس پر تیری حمد و ثناء نہ کروں۔ (تاریخ دمشق، ج ۲۵، ص ۲۲۸) **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرَحْمَتِ هُوَ أَوْر**
ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ 'امین بجاہ النبی الامین صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

امیر المؤمنین کی ذمہ داران

پر انفرادی کوششیں

ایک اہم مکتوب

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے حکومتی ذمہ داران کے نام ایک اہم خط تحریر فرمایا تھا، جس میں ہمارے لئے بے شمار مدنی پھول ہیں، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کے بندے عمر بن عبدالعزیز، **امیر المؤمنین** کی طرف سے **امراء الشکر** کے نام **أَمَّا بَعْدُ!** جو شخص حکمرانی و سلطنت میں **مُتَبَتِّلًا** ہوا اُسے بہت سی ناگوار یوں اور بڑی مصیبتوں و آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے اگر وہ ایک دن پیش نہ آئیں تو دوسرے دن **لازماً** پیش آ کر رہیں گی، صاحبِ سلطنت سے بڑھ کر کوئی شخص اپنے نفس کی جانب سے مشغول اور گنج روی کے درپے نہیں ہوتا **إِلَّا يَه كِه اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ہی کسی کو عافیت میں رکھے اور اس پر اپنا رحم فرمائے، اس لئے جتنا ہو سکے **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** سے ڈرتے رہو اور اپنے اس منصب کو جس پر تم فائز ہو اور ان

ذمہ داریوں کو جو تم پر ڈالی گئی ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھو، اپنے نفس سے اسی طرح جہاد کرو جس طرح کہ تم اپنے دشمن سے لڑتے ہو اور جب کوئی ناگوار معاملہ پیش آئے تو اپنے نفس کو اس پر ثابت قدم رکھو محض اُس ثواب کی خاطر جو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے یہاں ملے گا اور جس کا وعدہ مُتَّقِین سے موت کے بعد کیا گیا ہے، جب تمہارے پاس کوئی ایسا جاہل اور نادان فریق آئے جس کا معاملہ تقدیر الہی نے تمہارے سپرد کر دیا ہے اور تم اس کی جانب سے بد خُلقی اور بد تمیزی کا مظاہرہ دیکھو تو جہاں تک ممکن ہو اسے راہِ راست پر لانے کی کوشش کرو، اس سے نرمی کا برتاؤ کرو اور اسے سمجھاؤ پس اگر وہ سمجھ جائے اور عِلْم و بصیرت سے کام لینے لگے تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اِنْعَام و فَضْل ہوگا اور اگر اسے عِلْم و بصیرت حاصل نہ ہو سکے تو تم نے حُجَّت تو پوری کر دی۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کا مُسْتَحِق ہے تو اسے اپنے نفسیاتی غیظ و غُصْب کی بناء پر سزا نہ دو بلکہ خوب غورو فکر کے بعد یہ دیکھو کہ اس کا گناہ کتنا ہے اور بتقاضائے انصاف اس پر اسے کتنی سزا ملنی چاہیے، سزا گناہ کے بقدر رہونی چاہئے اگر گناہ کی سزا صرف ایک کوڑا بنتی ہے تو ایک ہی کوڑا لگاؤ اور اگر گناہ اس سے بڑا ہے اور تمہارے خیال میں وہ اس کی سزا میں قَتْل کا یا اس سے کم سزا کا مُسْتَحِق ہے تو اسے فی الحال جیل بھیج دو۔ اس بات کا خوب خیال رکھو کہ جو لوگ تمہاری مجلس میں آتے ہیں کہیں ان کی حاضری تمہیں ملزم کی سزا میں جلدی کرنے پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاکم محض اپنے ہم

نشینوں کی موجودگی میں شہریوں کو اَدَب سکھانے اور اُن کو مَرعوب کرنے کی خاطر سزائیں جاری کرتا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں کہ وہ حاکم کے کسی فیصلے کو سننے اور پھر اس کے پاس اپنی خواہش کے موافق مختلف سفارشیوں لے کر نہ آئے البتہ اس سے وہ لوگ مُسْتَنْتَفِعِیْنَ ہیں جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رحم ہو، کیونکہ جن لوگوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رحم فرمایا ہو وہ حق و انصاف کے فیصلے میں اختلاف نہیں کرتے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝۱۸ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ** (ترجمہ کنز الایمان: اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں

گے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ (پ ۱۲، ہود: ۱۱۸، ۱۱۹)

اگر کوئی معاملہ مجہول اور مُبہم ہو تو اُس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، اور جب تمہارے گرد و پیش کے لوگ یہ دیکھیں کہ تم اپنی رعایا کے کسی بے وقوف آدمی کے ساتھ جس نے حماقت یا غلطی کی ہو کیا برتاؤ کرتے ہو تو اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرو جو تمہارے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہو اور جو موت کے بعد تمہارے لیے بہتر ہو، محض لوگوں کا تم کو دیکھنا اور تمہارے کارناموں کا تذکرہ کرنا تمہارے لئے اترانے کا باعث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات بھی ان کے دل میں ہو خواہ وہ اسے پسند کریں، یا ناپسند، کم و بیش اسے ظاہر کر کے رہتے ہیں۔ تم ہر اس دن اور رات کو غنیمت سمجھو جو عافیت و سلامتی سے گزر جائے اور کسی کو ناجائز سزا دینے کا وبال تمہاری گردن پر نہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنے اور اپنی رعایا کے لئے بکثرت عافیت کی دُعا کیا کرو، کیونکہ رعایا کے ٹھیک ہونے سے جو فائدہ تمہیں حاصل ہوگا وہ ان میں سے کسی کو بھی

حاصل نہیں ہوگا اور رعایا کے صرف ایک آدمی کے بگاڑ سے جو تمہیں نقصان ہوگا وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا، اگر تم نے رعایا سے بھلائی کی یا ان کی اصلاح و درستی کی تو اس سے صلہ مت چاہو، اگر رعایا کے لئے تم نے کوئی نیک عمل اور اچھا کارنامہ انجام دیا ہو تو ان سے جزا و ثواب کی خواہش رکھو نہ کسی مدح و ثنا اور مادی منفعت کی بلکہ جزا و ثواب کی توقع صرف رب تعالیٰ سے رکھی جائے جو ہر خیر کو عطا کرنے اور شر کو دور کرنے والا ہے۔ اور ہاں! اپنے دربان، پولیس اور تمام ماتحت حکام پر کڑی نظر رکھو، وہ تمہارے زیر دست کسی قسم کا ظلم اور دھاندلی نہ کرنے پائیں، ان کے بارے میں لوگوں سے بکثرت دریافت کرتے رہو۔ پس ان میں سے جو شخص نیک سیرت ثابت ہو اس میں اُسی کا فائدہ ہے اور جو شخص بدخصلت ہو اسے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اچھے آدمی کو رکھو۔

ہم اللہ عزَّوَجَلَّ سے اس کی رحمت اور اس کی قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام کاموں کو آسان کر دے، نیکی و تقویٰ اور اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے ہمارے سینے کھول دے، تمام ناپسندیدہ کاموں سے بچائے رکھے اور ہمیں ان متقیوں میں شامل کرے جن کا انجام بخیر ہے۔ والسلام علیک (سیرت ابن عبدالحکم ص ۷۳)

سپہ سالار کے نام خط

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے اپنے ایک لشکر کے سپہ سالار منصور بن غالب کے نام جو خط تحریر فرمایا اس میں یہ بھی تھا: تمہیں اللہ عزَّوَجَلَّ

کے حُکْم سے جو حالت بھی پیش آئے اس میں تقویٰ کو لازم پکڑ لو کیونکہ تقویٰ سب سے بہتر سامان، سب سے عمدہ تدبیر اور سب سے بڑی قوت ہے، اپنے رفقاء کے لئے کسی دشمن سے بچنے کا جس قدر اہتمام کرتے ہو اس سے کہیں بڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرو کیونکہ میرے نزدیک گناہ دشمن کی سازشوں سے زیادہ خوفناک ہیں، کسی انسان کی عداوت سے بڑھ کر اپنے گناہوں سے ڈرو اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے تم پر فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں، اپنے سفر و حضر میں ان سے حیا کرو اور انکی اچھی صحبت کا حق ادا کرو اور انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانیوں سے ایذا نہ دو۔ اپنے نفس کے مقابلہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مدد کی اسی طرح دُعا کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی دُعا کرتے ہو۔ والسلام علیک۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۷۳)

تقویٰ بہترین توشہ ہے

ایک بیان میں مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا: دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں، یہ ایسا گھر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فنا مقرر کر دی ہے اور یہاں سے اس کے رہنے والوں پر گونج کر نافرمانی کر دیا، بہت سے آباد کرنے والے یقیناً عنقریب خراب کرنے والے ہیں اور بہت سے اقامت پذیر حصص کرنے والے تھوڑی دیر بعد رحمتِ سفر باندھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اس جگہ سے جتنا جلد ہو سکے اچھا سفر کرو اور توشہ لے جاؤ، بہتر توشہ تقویٰ ہے، دنیا تو بٹنے والے سائے کی طرح

ہے جو تھوڑا چل کر ختم ہو جاتا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۲۵)

ہماری حیثیت زرخیرید غلام کی سی ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے عمّال (یعنی حکومتی

عہدیداران) کے نام تحریر فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف

سے حکام کے نام، اَمَّا بَعْدُ! میں تو صاحبِ سلطنت کی حیثیت اس زرخیرید غلام کی سی

پاتا ہوں جسے آقائے اپنی زمین کی نگرانی پر مقرر کر دیا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس

زمین کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرے اگر وہ عمدہ کارکردگی دکھائے گا تو اچھے اجر کا

مُسْتَحَقّ ہوگا۔ پس تم اپنے آپ کو تمام معاملات میں اسی مرتبہ میں سمجھو، اپنی پسند کے

حصول اور ناپسند کے دفع کرنے میں صبر سے کام لو اور ہر پوشیدہ اور ظاہری معاملے

میں اپنے نفس کو اس چیز پر مجبور کرو جس کے ذریعہ تمہیں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے

یہاں نجات کی اُمید ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جب تم اپنی اس دنیا سے جدا ہو اور ممکن

ہے کہ یہ جدائی بہت جلد ہو جائے تو نیکو کار اور مُسْتَحَقِّ اجر ٹھہرو، اپنے گذشتہ زمانے کے

اعمال کا محاسبہ کیا کرو پھر ان میں جو ناپسندیدہ ہوں ان کی اصلاح کر لو قبل اس کے کہ

کسی دوسرے کو ان کی اصلاح کرنا پڑے اور اس سلسلہ میں تمہیں لوگوں کی چہ میگوئیوں

کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے کہ تم یہ کام اس کی خاطر

کر رہے ہو تو اس پر دنیا میں پیش آنے والے خطرات سے وہ خود ہی تمہاری کفایت

فرمائے گا، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے جس رعایا کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے دین اور عزت

کے معاملات میں ان کے خیر خواہ بن کر رہو، جہاں تک ممکن ہو ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرو البتہ ایسی چیز جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ظاہر کر دیا ہو اس کی پردہ پوشی تمہارے لیے رَوَا (یعنی جائز) نہیں ہوگی۔ اپنی چاہت اور اپنے غصہ کے وقت ضبطِ نفس سے کام لو، تاکہ حتی الامکان وہ معاملہ بہتری اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، اور جب تم سے کوئی فیصلہ جلدی میں ہو جائے یا کسی معاملہ میں اپنی چاہت یا اپنے غصہ کا دخل ہو تو اس فیصلے سے رجوع کر لیا کرو۔ یہ نصیحتیں جو میں نے تم کو لکھی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق حق سمجھ کر لکھی ہیں، ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ والسلام

حجاج کی روش سے بچنا

گورنر عدی بن اِراطۃ کو لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم حجاج بن یوسف کے طریقے کو اپناتے ہو، اُس کی رَوشِ اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھتا تھا، ناحق زکوٰۃ لیتا تھا اور اس کے علاوہ کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والا تھا۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۷۹-۸۰)

یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو 20 کوڑے مارے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمَا اگرچہ خلیفہ کے انتخاب کے متعلق اسلام کے نظام کو دوبارہ قائم نہ کر سکے اور انہیں مجبوراً سلیمان بن عبدالملک کی وصیت کے موافق اس امانت کو یزید بن عبدالملک کے سپرد کرنا پڑا، تاہم وہ دل

سے اس شخصی نظام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ قَاتِلِ حَسِينِ ”یزید پلید“ کو خلیفہ نہیں تسلیم کرتے تھے، چنانچہ ایک بار دوران گفتگو کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو اس سے فرمایا: تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو؟ پھر اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۶۶)

برائی کو نہ روکنے کا انجام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے نیکی کی دعوت کی اہمیت اُجاگر کرتے ہوئے اپنے بعض گورنروں کو خط میں لکھا: ”اما بعد! کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی قوم میں کوئی برائی ظاہر ہو اور اس قوم کے نیک لوگ اس پر روک ٹوک نہ کریں پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس قوم کو کسی عذاب میں نہ پکڑا ہو۔ یہ عذاب کبھی براہ راست اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے آتا ہے اور کبھی بندوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا ہے اور لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی گرفت اور سزا سے اسی وقت تک محفوظ رہتے ہیں جب تک کہ اہل باطل کو دبا کر رکھا جائے اور گناہ علانیہ نہ ہونے پائیں، لوگوں میں یہ صلاحیت ہو کہ جو نہی کسی سے ارتکابِ حرام کا ظہور ہو فوراً اس کی روک تھام کریں، لیکن جب حرام کاموں کا ارتکاب کھلے بندوں ہونے لگے اور معاشرے کے نیک اور صالح افراد بھی روک ٹوک کرنے میں سستی کریں تو آسمان سے زمین پر عذابوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے جو گنہگاروں اور تساہل پسند دینداروں دونوں کو اپنی پلیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید مُرْقَانِ حمید میں جہاں ایسے

عذاب کا ذِکر فرمایا، وہاں میں نے یہ نہیں سنا کہ ایک کو ہلاک کر دیا ہو اور ایک کو بچا لیا ہو سوائے ان لوگوں کے جو برائی سے روکتے تھے۔ اگر بالفرض اللہ عَزَّوَجَلَّ گنہگاروں کو نہ تو آسمانی عذاب سے پکڑے، نہ بندوں کے ہاتھوں کوئی عذاب نازل کرے تب بھی یہ ضرور ہوگا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارتکابِ گناہ میں مُبتلا ان لوگوں پر خوف و ہراس اور ذلت مُسلَّط کر دے گا، بسا اوقات وہ ایک فاجر سے دوسرے فاجر کے ذریعہ اور ایک ظالم سے دوسرے ظالم کے ذریعہ انتقام لیتا ہے، پھر دونوں فریق اپنے اعمالِ بد کے ساتھ جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ کہ ہم ظالم یا ظالموں کے ظلم پر خاموش رہنے والے بنیں، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے ہاں بدکاری عام ہو رہی ہے اور فسق و بدکارشہروں میں مامون اور بے خوف ہیں اور وہ علانیہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کو نہایت ناپسند ہے اور وہ اس پر پشیم پوشی کو برداشت نہیں کرتا۔

واللہ! اہل محارم پر ہاتھ اور زبان سے سختی کرنا اور ان کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا بھی جہادِ فِی سَبِيلِ اللہ ہے، خواہ وہ باپ ہو بیٹے ہوں یا قبیلے اور برادری کے لوگ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا راستہ، اس کی فرمانبرداری ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے لوگ، ملامت کے اندیشہ سے اُمْر بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے) میں سُستی کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں خوش اخلاق، بے تکلف اور صرف اپنی فکر کرنے والا سمجھیں، مگر یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے نزدیک خوش اخلاق نہیں بد اخلاق ہیں اور انہوں نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ اپنے آپ سے منہ پھیر لیا ہے اور یہ تکلف سے بری نہیں بلکہ اس میں بری طرح گھر چلے ہیں، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ کے حکم سے جو حالت ان کے لئے تجویز کی تھی اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسری رُوشِ اختیار کر لی ہے۔ ہاں! بہت سے لوگوں کی زبان پر ایک آیت بار بار آتی ہے، جسے وہ بے محل پڑھتے ہیں اور اس کی غلط تاویل کرتے ہیں یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ ارشاد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُكُمْ مَن ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ^ط (پ ۷، المائدہ ۱۰۵) جب کہ تم راہ پر ہو۔
ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا

بلاشبہ کسی گمراہ کی گمراہی ہمارے لئے مُضر نہیں جب کہ ہم ہدایت پر ہوں، نہ کسی کی ہدایت ہمارے لئے مُفید ہے جبکہ خدا نخواستہ ہم گمراہ ہوں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مگر جو چیز خود اپنی ذات پر اور ان لوگوں پر لازم ہے اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم بھی تو شامل ہے، یعنی جب کچھ لوگ حرام کا ارتکاب کریں تو خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں رہتے ہوں مگر لازم ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”ہمارے لئے اپنا مشغلہ کافی ہے“ اور یہ کہ ”ہمیں لوگوں سے کیا پڑی؟“ اگر سب اسی نظریے پر چل پڑیں تو نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی حکم پر عمل ہوگا نہ کسی معصیت سے بچاؤ کی کوئی صورت ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ باطل

پرست، حق پرست پر غالب آجائیں گے اور یہ دنیا انسانوں کی نہیں بلکہ چوپایوں اور جانوروں کی ہو جائے گی۔

اس لئے فاسقوں پر تسلط رکھو خواہ تمہاری اور ان کی حیثیت کیسی بھی ہو، اپنی سچائی سے ان کے باطل کو اور اپنی بینائی سے ان کے اندھے پن کو دور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فاجر اور بدکاروں کے مقابلے میں نیکو کاروں کو گھلا غلبہ دیا ہے اور ان پر ان کا دبدبہ رکھا ہے، خواہ یہ نہ حاکم ہوں نہ رئیس اور جو شخص اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے برائی کو روکنے سے عاجز ہو اسے امام (خلیفہ) سے کہنا چاہئے کیونکہ یہ بھی نیکی اور تقویٰ میں تعاون کی ایک صورت ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۷)

عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا جذبہ

میں بس دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ (وسائل بخشش ص ۱۳۷)

غیر مسلموں کی مناصب سے معزولی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے عمّال (یعنی گورنروں) کو لکھا: اما بعد: مشرکین ناپاک ہیں، اللہ عزوجل نے ان کو شیطان کا لشکر ٹھہرایا ہے اور انہیں ایسے لوگ قرار دیا ہے جو اعمال کے لحاظ سے سراسر خسارے میں ہیں، جن کی ساری محنت دُنویٰ زندگی میں کھپ گئی اور وہ بزعم خود اچھے کام کر رہے ہیں۔ واللہ! یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی محنت کی وجہ سے اللہ عزوجل کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ گذشتہ دور میں مسلمان جب ایسی بستی

میں جاتے جہاں مشرک آباد ہوتے، تو ان سے (بھی کاروبارِ مملکت میں) مدد لیا کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ تحصیلداری، کتابت اور نظم و نسق سے واقف ہوتے تھے اور اس سے مسلمانوں کو مدد ملتی تھی مگر اب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے امیر المؤمنین کے ذریعہ یہ ضرورت پوری کر دی، اس لئے اگر تمہارے زیر سلطنت علاقے میں کوئی غیر مسلم کاتب (کلرک) یا کوئی اور منصب دار ہو تو اُسے معزول کر کے اس کی جگہ مسلمانوں کو مقرر کرو کیونکہ غیر مسلموں کے عہدے اور منصب کا مٹانا درحقیقت ان کے دینوں کا مٹانا ہے، تحقارت و ذلت کا جو مقام اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے لئے تجویز کیا ہے انہیں اُسی مقام پر رکھنا مناسب ہے، اس لئے اس حکم کی تعمیل کرو اور اپنی کارگزاری کی اطلاع مجھے دو اور دیکھو کوئی نصرانی زین پر سوار نہ ہو بلکہ وہ پالان پر سوار ہو کریں۔ ان کی کوئی عورت اُونٹ کے گجاوے میں سوار نہ ہو بلکہ پالان پر بیٹھیں اور یہ لوگ چوپاؤں پر ٹانگیں گشادہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ دونوں پاؤں ایک طرف کو کر کے بیٹھیں اور اس سلسلے میں اپنے تمام ماتحت افسران کو بھی پابند کرو اور انہیں سختی سے اس کی تاکید کرو، میرے لئے صرف تمہیں لکھنا کافی ہونا چاہیے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۵)

نو مسلم پر چڑیہ نہیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے دل میں یہ جذبہ موجزن رہتا تھا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ راہِ کُفْر چھوڑ کر صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں۔ آپ نہایت زور و شور سے علماء کرام رَحْمَتُہُمُ اللّٰهُ السَّلَام اور اپنے

گورنروں کو لکھتے کہ: ”ذمّیوں کو اسلام کی خوب دعوت دو۔“ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۰۱) ذمّیوں کے مسلمان ہونے کی صورت میں اگر کوئی گورنر جزیے کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے خزانہ خالی ہونے کی شکایت کرتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے گورنر عبدالحمید بن عبدالرحمن کو لکھا: ”تم نے مجھے لکھا ہے کہ حیرہ کے بہت سے یہودی، عیسائی اور مجوسی مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے ذمے جزیہ (شرعی محصول) کی بھاری رقم واجب الادا ہے، تم نے ان سے جزیہ وصول کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے جزیہ وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا لہذا اگر غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کے مال میں صدقہ ہے جزیہ نہیں۔“

(الکامل فی التاريخ، ج ۴، ص ۳۲۱ ملتقطاً)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلِي مُحَمَّدٍ

نظام سلطنت کی بنیاد خوفِ خدا پر تھی

سیاسی کام عموماً مصلحت اور ضرورت کے تحت انجام دیئے جاتے ہیں لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے نظام سلطنت کی بنیاد صرف خوفِ خدا پر قائم تھی، وہ جو کچھ کرتے تھے خدا عَزَّ وَجَلَّ کے ڈر، قیامت کی پکڑ اور موت کے خوف سے کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز مگہ

مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً حاضر ہوئے، جب واپس آرہے تھے تو گورنر سمیت کچھ لوگ الدواع کہنے کے لئے آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اسی دوران ایک شخص نے عرض کی: اللہ عزوجل امیر المؤمنین کو بھلائی سے نوازے، مجھ پر ظلم ہوا ہے اور مشکل یہ ہے کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ گورنر نے مجھ سے قسم لی ہوئی ہے۔ آپ نے گورنر کو مخاطب کر کے فرمایا: ”بڑے افسوس کی بات ہے تم نے اس سے قسم لے رکھی ہے؟ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا: ”اگر تم سچے ہو تو بلا خوف و خطر ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔“ اس نے ڈرتے ڈرتے گورنر کی طرف اشارہ کر کے عرض کی: اس نے مجھ سے میرے مال کا 6000 درہم میں سودا کرنا چاہا مگر میں اتنی رقم پر فروخت کرنے پر آمادہ نہ تھا، اسی دوران میرے ایک قرض خواہ نے اس کے پاس دعویٰ دائر کیا، اسے تو گویا بدلہ چکانے کا موقع ملا گیا اور اس نے پکڑ کر مجھے جیل میں ڈال دیا، پھر جب تک میں نے اپنا مال اسے تین ہزار میں نہیں بیچا، اس نے مجھے رہا نہیں کیا اور اس نے مجھ سے شکایت نہ کرنے کی طلاق کی قسم لے رکھی ہے (یعنی اگر کبھی میں نے اس کی شکایت کی تو میری بیوی کو طلاق ہو)۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے غصے سے گورنر کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کی چھڑی اس کی آنکھوں کے درمیان نشان میں چھوتے ہوئے فرمایا: ”تمہاری اس محراب نے مجھے فریب دیا۔“ پھر اس شخص سے فرمایا: جاؤ! تمہارا مال واپس کیا جاتا ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۴)

گورنر نہیں بنوں گا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے پاس ان کے ایک گورنر کی کوئی شکایت پہنچی تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ نے اسے مکتوب روانہ کیا جس میں موت اور عذابِ نار کی یاد تھی، اس نے جیسے ہی وہ مکتوب پڑھا، طویل سفر کر کے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جب آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی علیہ نے دریافت فرمایا: کیسے آنا ہوا؟ عمرؓ کی: آپ کے مکتوب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے اب میں مرتے دم تک کبھی گورنر نہیں بنوں گا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۰)

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ اَنْ پَر رَحْمَتِ هُو اور ان كے صَدَقَةِ هَمَارَى بے حَسَاب

مَغْفِرَتِ هُو۔ اَمِینِ بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاُمِیْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ذمہ داران کو مختلف نصیحتیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اپنے ذمہ داران کو مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿﴾ اپنی ذمہ داریوں کی بجا آوری میں رب تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی گرفت میں تاخیر کی وجہ سے اس کی ٹھفہ تدبیر سے بے خوف نہ رہو کیونکہ گرفت کرنے میں جلدی وہی کرتا ہے جو موت سے ہمکنار ہونے والا ہو (اور رب تبارک و تعالیٰ موت سے پاک ہے) ﴿﴾ جب تمہارے اختیارات تمہیں لوگوں پر ظلم ڈھانے پر آمادہ کریں تو خود پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کو یاد کر لیا کرو۔ ﴿﴾ اِعْمَلْ

لِلدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَأَعْمَلٌ لِلْآخِرَةِ عَلَى قَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا يَعْنِي دُنْيَا
 کے لئے اتنی تیاری کرو جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی تیاری کرو
 جتنا وہاں رہنا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۱)

امین کیسے ہوں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے گورنر عدی بن
 أَرْطَاةَ کو لکھا: تمہارے امین درمیانے طبقہ کے لوگ ہونے چاہئیں کیونکہ وہ بہترین
 لوگ ہوتے ہیں نہ حق کو چھوڑتے ہیں نہ باطل کھاتے ہیں۔ (سیرت ابن عبدالحمص ص ۱۴۲)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

یہ ہمارے لئے رشوت ہے

ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے دورانِ گفتگو
 سب کی خواہش ظاہر کی، ان کے خاندان کا ایک شخص اٹھا اور ان کی خدمت میں ایک
 سبب ہدیہ بھیج دیا۔ جب آدمی سبب لے کر آیا تو اس کو قبول تو نہیں کیا لیکن اخلاقاً قافر مایا:
 جا کر کہہ دو کہ آپ کا ہدیہ قبول ہوا۔ اس نے کہا: یہ تو گھر کی چیز ہے کیونکہ آپ کے
 رشتہ دار نے بھیجی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رسولُ اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہدیہ
 قبول فرماتے تھے۔“ فرمایا: رسولُ اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے ہدیہ بلا
 شبہ ہدیہ ہی تھا لیکن ہمارے حق میں رشوت ہے۔ (تاریخ دمشق، ج ۴۵ ص ۲۲۰)

سیبوں کے طباق

مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل بین الاقوامی شہرت یافتہ

کتاب ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ 541 پر ہے: حضرت سیدنا فرات بن مسلم

علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا بیان ہے: ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ

العزیز کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی مگر گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کے بدلے

سیب خرید سکیں۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ سوار ہو کر نکلے۔ دیہات کی جانب کچھ لڑکے

ملے جنہوں نے سیبوں کے طباق (تحفہ پیش کرنے کیلئے) اٹھائے ہوئے تھے۔

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک طباق اٹھا کر سونگھا اور پھر

واپس کر دیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں عرض کی تو فرمایا، مجھے اس کی حاجت

نہیں۔ میں نے عرض کی، کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم،

سیدنا ابوبکر صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تحفہ قبول نہیں

فرمایا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا، بلاشبہ یہ ان کے لئے تحائف ہی تھے مگر ان کے

بعد کے عمال (یعنی حکام یا ان کے نمائندوں) کے لئے رشوت ہیں۔

(عمدۃ القاری ج ۹ ص ۴۱۸)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز

علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے تحفے کے سیب قبول فرمانے سے انکار کر دیا کیوں کہ آپ

جانتے تھے کہ یہ تحفہ بحیثیت خلیفہ وقت دیا جا رہا ہے اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو کوئی کیوں

دیتا؟ اور یہ بات تو ہر ذی شعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وُزراء، قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران یا دیگر حکومتی افسران و منتخب نمائندگان نیز جج صاحبان حتیٰ کہ پولیس وغیرہ کو لوگ کیوں ٹخھ دیتے ہیں اور ان کی کس سبب سے خصوصی دعوتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یا تو ”کام“ نکلوانا مقصود ہوتا ہے یا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑنے کی صورت میں آسانی سے ترکیب بن جائے گی۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر ایسے لوگوں کو ٹخھ دینا اور ان کی خصوصی دعوت کرنا رشوت کے حکم میں ہے اور رشوت دینے اور لینے والا جہنم کا حقدار ہے۔ ایسے موقع پر عیدی، مٹھائی، چائے پانی یا خوشی سے پیش کر رہا ہوں، مَحَبَّت میں دے رہا ہوں وغیرہ خوبصورت الفاظ رشوت کے گناہ سے نہیں بچا سکتے۔ اگرچہ واقعی اخلاص کے ساتھ پیش کیا گیا ہو اور رشوت کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تب بھی ایسوں کا اپنے ماتحتوں سے ٹخھ یا خصوصی دعوت قبول کرنا ”مِظَنَّةٌ تُہْمِتُ“ یعنی تہمت کی جگہ کھڑا ہونا ہے، جبکہ سردارِ مملہ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ حفاظت نشان ہے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ تہمت کی جگہ کھڑا نہ ہو۔ (کشف الخفاء ج ۲ ص ۲۲۷ حدیث ۲۴۹۹) اس لئے یہاں مِظَنَّةٌ تُہْمِتُ سے بچنا واجب ہے لہذا دینا بھی ناجائز اور لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر عہدہ ملنے سے قبل ہی آپس میں تحائف کے لین دین اور خصوصی دعوت کی ترکیب تھی تو اب حرج نہیں مگر پہلے کم تھا اور اب مقدار بڑھادی تو زائد حصہ ناجائز ہو جائیگا۔ اگر دینے والا پہلے کی نسبت مالدار ہو گیا ہے اور اُس نے

اس وجہ سے بڑھایا ہے تو لینے میں حرج نہیں۔ اسی طرح پہلے کے مقابلے میں اب جلدی جلدی خصوصاً دعوت ہونے لگی ہے تب بھی ناجائز ہے۔ اگر دینے والا ذوی الدارِ حاکم یعنی خونی رشتے والوں میں سے ہے تو دینے لینے میں حرج نہیں۔ (والدین، بھائی، بہن، نانا، نانی، دادا، دادی، بیٹا، بیٹی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، وغیرہ حرم رشتے دار ہیں جبکہ پھوپھا، بہنوی، چچی، تائی، ممانی، بھابھی، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد وغیرہ ذی رحم یعنی حرم رشتہ داروں سے خارج ہیں) مثلاً بیٹا یا بھتیجا حج ہے اس کو والد یا چچا نے تحفہ دیا یا خصوصاً دعوت دی تو قبول کرنا جائز ہے۔ ہاں بالفرض باپ کا مقدمہ حج بیٹے کے یہاں چل رہا ہو تو اب مَظَنَّةٔ تہمت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ بیان کردہ احکام صرف حکومتی افراد کیلئے ہی نہیں ہر سماجی، سیاسی اور مذہبی لیڈر و قائد کیلئے بھی ہیں۔ حتیٰ کے دعوتِ اسلامی کی تمام تنظیمی مجالس کے جملہ نگران و ذمہ داران بھی اپنے اپنے ماتحتوں سے تحفہ یا خصوصاً دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ چھوٹا ذمہ دار اپنے سے بڑے ذمہ دار سے قبول کر سکتا ہے۔ مثلاً دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کارکن، نگرانِ شوریٰ سے قبول کر سکتا ہے مگر دیگر دعوتِ اسلامی والوں سے قبول نہیں کر سکتا اور نگرانِ شوریٰ اپنے کسی بھی ماتحت دعوتِ اسلامی والے کا تحفہ نہیں لے سکتا۔ مدرس اپنے شاگردوں یا اُس کے سرپرست کا بلا اجازتِ شرعی تحفہ نہیں لے سکتا۔ ہاں تعلیم سے فراغت کے بعد اگر شاگرد تحفہ یا خصوصاً دعوت دے تو قبول کر سکتا ہے۔ وہ علماء و مشائخ جن کو لوگ علم و فضل کی تعظیم کے سبب نذرانے پیش کرتے ہیں اور وہ قبول بھی

کرتے ہیں اور لوگ ان پر رشوت کی ٹہمت بھی نہیں لگاتے چنانچہ ایسے حضرات کا ٹکھہ قبول کرنا مظنہ ٹہمت سے خارج ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔

سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی
نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی (وسائل بخشش ص ۶۶۸)
صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
قلم باریک کر لو

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دفتری اخراجات میں کمی کر دی، دفتر کے لئے بیت المال سے کاغذ کے لئے جو رقم ملتی تھی، اس کی نسبت گورنر ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ قلم کو باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھو اور تمام ضروریات میں کفایت شعاری سے کام لو کیونکہ میں مسلمانوں کے خزانے میں سے ایسی رقم صرف کرنا پسند نہیں کرتا جس کا فائدہ ان کو نہ پہنچے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۱)

شمع کی جگہ چراغ جلاؤ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید نے ابو بکر بن حزم جو مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً کے گورنر تھے، لکھا: اما بعد! میں نے تمہارا وہ خط پڑھا جو تم نے سلیمان بن عبدالملک (خلیفہ سابق) کو لکھا تھا، اس میں تھا کہ تم سے پہلے گورنروں کو شمع کی مد میں اتنی رقم ملتی تھی جس سے وہ اپنی آمدورفت کے راستوں میں روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ (سلیمان کا چونکہ انتقال ہو چکا ہے اس لئے) اس کے

جواب کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، اے ابوبکر! مجھے تمہارا وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب تم سردیوں کی سخت اندھیری راتوں میں روشنی کے بغیر اپنے گھر سے نکلتے تھے، آج تمہاری حالت اس دن سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہذا اپنے گھر کے چراغوں سے کام چلاؤ۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۰)

عَدْل کا قلعہ بنا دو

ایک گورنر نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں خط لکھا: ہمارا شہر خستہ حال ہو چکا ہے، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اگر امیر المؤمنین کی اجازت ہو تو کچھ رقم مخصوص کر کے اس کی از سر نو تعمیر و مرمت کر دیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں لکھا: حَصِّنْهَا بِالْعَدْلِ وَنَقِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ مَرْمَتُهَا یعنی تم اپنے شہر کو عدل کا قلعہ بنا لو اور اس کے راستوں کو ظلم سے پاک کرو، یہی اس کی تعمیر و مرمت ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۱۰)

گواہیوں پر فیصلہ کرو

بچی عسائی کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھے شام کے شہر مُوَصَّل کا حاکم مقرر کیا تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ چوری اور نَقَب زنی کی وارداتیں بکثرت ہوتی ہیں، میں نے یہ تمام احوال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو لکھ کر بھیجے اور دریافت کیا کہ میں چوریوں کے ان مقدمات میں لوگوں کی ٹہمت پر انحصار کر کے اپنی رائے کے مطابق سزا دوں یا

گواہیوں پر فیصلہ کروں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً تحریر فرمایا: گواہیوں پر فیصلہ کرو، اگر حق و عدل نے اُن کی اصلاح نہیں کی تو رب تعالیٰ کبھی ان کی اصلاح نہیں فرمائے گا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی ہدایت کے مطابق ہی مقدمات کے فیصلے کئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میرا موصل سے تبادلہ ہوا تو وہ پُر امن شہر بن چکا تھا جہاں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۰)

قاضی کیسا ہونا چاہئے؟

مُراحم بن زُفر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو فرماتے سنا: قاضی میں پانچ خصلتیں ہونی چاہئیں: (۱) قرآن و سنت کا عالم ہو (۲) حلم والا ہو (۳) خود دار ہو (۴) پرہیزگار ہو (۵) مشورہ کرنے والا ہو۔ جب یہ پانچ چیزیں قاضی میں پائی جائیں تو وہ قاضی ہے ورنہ انصاف کے نام پر دَھبہ ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۵)

خوفِ خدار کھنے والے کو قاضی مقرر کر دیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے زمانہ خلافت سے پہلے سلیمان بن عبدالملک کے پاس اہلِ مضر کا ایک وفد آیا، جس میں ابنِ خُدامر نامی ایک شخص بھی شریک تھا، خلیفہ سلیمان نے ان لوگوں سے اہلِ مغرب کے حالات پوچھے تو ابنِ خُدامر کے سوا سب نے وہاں کے حالات بیان کئے اور ”سب اچھا ہے“ کی

رپورٹ دی۔ جب وفد رخصت ہونے لگا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ابن خُذامر سے خاموشی کی وجہ پوچھی، اس نے کہا: جھوٹ بولتے ہوئے مجھے خدا کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس واقعہ کو یاد رکھا، یہاں تک کہ جب خلیفہ ہوئے تو ”ابن خُذامر“ کو مضر کا قاضی مقرر کر دیا۔ (تاریخ دمشق، ج ۳۳، ص ۳۸۵)

گورنر بنانے سے پہلے ٹھوک بجا کر دیکھا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز جب کسی کو قاضی یا گورنر مقرر کرتے تو اس کے بارے میں تحقیق کروا کر ساری معلومات جمع کرتے کہ یہ تقویٰ و طہارت میں کیسا ہے؟ علم و عمل میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق تو نہیں؟ یہ تحقیق اس لئے کرتے کہ کہیں آپ کسی کے ظاہری حالات سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جب پورا پورا اطمینان ہو جاتا تو پھر آپ اس کو قاضی یا گورنر مقرر فرماتے چنانچہ بلال بن ابی بردہ کو آپ نے اسی تحقیق و تفتیش سے رد کیا تھا۔ بلال بن ابی بردہ ایک ہوشیار ذہین، ذکی اور نہایت عقلمند شخص تھا۔ یہ ”خناصرہ“ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان الفاظ میں خلافت کی مبارکباد دی: ”امیر المؤمنین! اگر خلافت کو کسی سے شرف حاصل ہوا تو آپ سے حاصل ہوا ہے اور اگر خلافت کو کسی سے زینت ملی ہو تو آپ سے ملی ہے۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی تعریف کرنے کے بعد یہ

شخص مسجد میں گیا اور ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے مُعتمدِ خاص سے کہا کہ اگر اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح ہے تو یہ واقعی عراق کا گورنر بننے کا اہل ہے اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ رفیقِ خاص نے کہا: ابھی تحقیق کر کے اس کے مکمل حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسجد میں گئے اور بلال بن ابی بردہ سے بات کا آغاز اس طرح کیا: ”آپ کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں میرا کیا مقام ہے اگر میں امیر المؤمنین کے سامنے عراق کی گورنری کے لیے آپ کا نام پیش کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ بلال نے انہیں ضمانت دیتے ہوئے کہا: میں اس بدلے میں آپ کو بہت سامال دوں گا۔ انہوں نے سارا ماجرا امیر المؤمنین کے سامنے کہہ سنایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُسے گورنر بنانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اہل عراق کو لکھ کر بھیجا: اس شخص کو بولنا تو بہت آتا تھا مگر عقل کم تھی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۱۳ ملتقطاً)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

کسی کام کا فیصلہ کیسے کرے؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ

أَمْرٌ اسْتَبَانَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ اسْتَبَانَ ضِدُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اشْكَلَ فَرُدَّهُ إِلَى

اللَّهِ یعنی کام تین قسم کے ہوتے ہیں: (۱) جس کا دُرست ہونا بالکل واضح ہو، اس کام کو

کر ڈالو (۲) جس کا غلط ہونا یقینی ہو، اس کام سے بچو اور (۳) وہ جس کا دُرست یا غلط

ہونا واضح نہ ہو تو ایسے کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو (یعنی ہدایت چاہو)۔ (باب السلک فی طبائع الملک، مشورۃ ذوی رأی، ج ۱ ص ۶۷)

اُسی وقت اصلاح کرتے

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے کسی مقدمے کا فیصلہ سنایا تو حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہیں موجود تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: یا امیر المؤمنین! میری رائے میں آپ نے دُرست فیصلہ نہیں دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: آپ کو اسی وقت کہنا چاہئے تھا۔ غرض کی: مجھے اچھا نہیں لگا کہ لوگوں کے سامنے آپ کو شرمندہ کروں۔ فرمایا: پھر بھی آپ کو کہہ دینا چاہئے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہی حق کی ہے۔

(تاریخ دمشق، ج ۴ ص ۲۰۰)

نصیحت کرنے کا حق

حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھے تاکید کی: قُلْ لِي فِي وَجْهِ مَا أُكْرَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَنْصَحُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فِي وَجْهِ مَا يُكْرَهُ یعنی جو بات مجھے ناپسند ہو وہ میرے منہ پر کہہ دیا کریں کیونکہ انسان اپنے بھائی کو اُس وقت تک حقیقی معنوں میں نصیحت نہیں کر سکتا جب تک اس کے سامنے ناگوار گزرنے والی بات کہنے

کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ (باب السلك فی طبایح الملك، مشورۃ ذوی رأى، ج ۱ ص ۷۱)

میرے غیر شرعی حکم کو دیوار پر دے مارنا

حضرت سیدنا میمون بن مهران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے مجھے کسی چیز کی ذمہ داری دی اور فرمایا: **إِنْ جَاءَكَ كِتَابِي بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاصْرِبْ بِهِ الْحَائِطُ** یعنی اگر آپ کے پاس میرا کوئی غیر شرعی حکم آئے تو اسے دیوار پر دے ماریے گا۔ (تاریخ دمشق، ج ۴۵ ص ۲۰۰)

معاف کرنے میں خطا سزا دینے میں خطا سے بہتر ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: شبہ کی صورت میں سزا میں حتی المقدور نرمی اختیار کرو، کیونکہ حاکم کا معاف کرنے میں خطا سزا دینے میں خطا سے بہتر ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۳)

عادل عدالت کا عادل فیصلہ

سمرقند کے ذمیوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کے پاس ایک وفد بھیجا جس نے شکایت کی کہ مسلم سپہ سالار نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کیا تھا، لہذا ہمیں انصاف دلایا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمرقند کے گورنر سلیمان بن ابی سزای کو خط لکھا کہ سمرقند والوں نے مجھ سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کی ہے، میرا خط ملتے ہی ان کا مقدمہ سننے کے لئے قاضی مقرر کرو، اگر قاضی ان کے حق میں فیصلہ کر دے تو یہ لوگ

اپنی چھاؤنی میں رہیں گے اور مسلمان پہلے والی جگہ پر واپس آجائیں۔“ گورنر نے حسبِ حکم قاضی کا تقرر کر دیا اسلامی عدل کے مدنی پھولوں (یعنی اصولوں) کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیدر کی ہدایت کے موافق ذمیوں کو چھاؤنی میں رہنے اور مسلمانوں کو چھاؤنی سے باہر نکل جانے کا حکم دیا نیز جدید مصالحت یا جنگ کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ عدل و انصاف کے شاہکار فیصلے کو سن کر سمرقندی پکار اٹھے: نہیں، ہم پہلے والی حالت میں ہی رہنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے کیونکہ مسلمان ہمارے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے، اگر ہمیں جنگ میں دھکیل دیا گیا تو نہ جانے کامیابی کس کی ہو؟ اس لئے ہمیں حسبِ سابق مسلمانوں کے تحت رہنا قبول ہے۔ (تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۵۱)

ذمی کو انصاف دلایا

ایک بار کسی مسلمان نے حیرہ کے کسی ذمی کو قتل کر ڈالا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دو، چنانچہ وہ قتل کرے چاہے وہ معاف کر دے، چنانچہ قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا گیا جسے اس نے بدلے میں قتل کر دیا۔

(نصب الرایۃ فی تاریخ احادیث الھدایۃ ج 5 ص 90)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

حجاج کے ساتھ کام کرنے والے کو گورنر نہ بنایا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک شخص کو گورنر بنایا ، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حجاج بن یوسف کا گورنرہ چکا ہے تو اسے معزول کر دیا۔ وہ معذرت کے لئے آپ کے پاس آیا اور کہا: میں بہت تھوڑے عرصے کے لئے ہی حجاج کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا: بُرے آدمی کی ایک آدھ دن کی صحبت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۸)

کیا یہ نافرمانی تھی؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک شخص کو گورنر بنانا چاہا تو اس نے معذرت کر لی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصرار بڑھا تو اس نے قسم کھالی: میں یہ کام نہیں کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: نافرمانی مت کرو۔ وہ کہنے لگا: **یا امیر المؤمنین! اللہ عزَّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:**

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا
ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے امانت
پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر

(پ ۲۲، احزاب: ۷۲) اور اس سے ڈر گئے۔

اب یہ بتائیے کہ کیا زمین و آسمان کا انکار کرنا نافرمانی تھی؟ یہ سن کر حضرت

سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اسے جانے دیا۔ (حلیۃ الاولیاء، ج ۵، ص ۳۰۴)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت سے ہمیں ایک زبردست مدنی پھول

ملا اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے ماتحت سے ”نہ“ سننے کا بھی حوصلہ رکھنا چاہئے، ہو سکتا ہے کہ وہ بے چارہ کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے ہمارے کہے پر عمل نہ کر سکتا ہو۔

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

کھلی آزمائش

ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدير کی خدمت میں

حاضر ہوا، عرض کی: یا امیر المؤمنین! مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ فرمایا: ”کس نے کیا؟“ وہ

شخص خاموش رہا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بار بار دریافت فرمایا مگر اس شخص کی

زبان سے ظلم کرنے والے کا نام نہیں نکل پاتا تھا جو غالباً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا

کوئی عزیز تھا، بالآخر اس نے کہا کہ فلاں شخص نے میرا اتنا مال زبردستی لے لیا ہے۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً غلام سے قلم، دوات اور کاغذ طلب کیا اور اپنے گورنر

کے نام لکھا: فلاں آدمی نے میرے پاس یہ شکایت کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو مجھے اطلاع

دینے سے پہلے اس کا مال اسے واپس مل جانا چاہیے۔ تحریر لکھنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ملتے ہوئے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک یہ روشن جانچ

(پ ۲۳، الصفات: ۱۰۶) تھی۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۳)

چالیس کوڑے لگوائے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کا حُکْم تھا کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کے مال پر دست درازی نہ کرے، اس ہدایت کے اثرات تھے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے مال اور زمین پر دست درازی نہیں کر سکتا اگر ایسا کرتا تو اسے قرا واقعی سزا ملتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مسلمان ربیعہ نے ایک سرکاری ضرورت کے تحت کسی کا گھوڑا بیگار (بلا اجرت محض سرکاری دباؤ) میں پکڑ لیا اور اس پر سواری کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے یہ ایک معمولی بات ہو کرتی تھی لیکن جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس عہدے دار کو چالیس کوڑے لگوائے تاکہ دوسروں کے لئے باعث عبرت ہو۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۱)

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ اَنْ يَّرْحَمْتَ هُوَ اَوْ اَنْ يَّعَذَّبَكَ هُوَ اَوْ اَنْ يَّغْفِرَ هُوَ

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ملزوم اور مجرم کافرق

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی طرف سے مقرر ہونے والے اعمال بعض اوقات خود اطلاع دیتے کہ ہم سے پہلے جو عتال تھے، انہوں نے مال غصب کیا تھا، اگر امیر المؤمنین کا ارشاد ہو تو یہ مال اُن سے ضبط کر لیا جائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ ان کو حُکْم لکھوا کر بھیجتے کہ اس معاملہ

میں مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر شہادت ہو تو شہادت کی رُو سے اور اقرار ہو تو اقرار کی رُو سے مال واپس لو، ورنہ حلف لے کر چھوڑ دو جیسا کہ بصرہ کے گورنر عدی بن اُرطاة کو لکھا: اما بعد! تم نے خط کے ذریعے بتایا تھا کہ تمہارے علاقے میں اہل کاروں کی خیانت کا انکشاف ہوا ہے اور انہیں سزا دینے کے لئے مجھ سے اجازت مانگی تھی، گویا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی گرفت سے بچنے کے لئے مجھے ڈھال بنانا چاہتے تھے، جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو اگر ان کے خلاف شہادت موجود ہو تو ان سے مؤاخذہ کرو اور سزائیں دو ورنہ نمازِ عصر کے بعد ان سے یہ قسم لے لو: اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے مسلمانوں کے مال میں ذرا بھی خیانت نہیں کی۔“ اگر وہ یہ قسم کھالیں تو انہیں چھوڑ دو کیونکہ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، واللہ! ان کا اپنی خیانتیں لے کر بارگاہِ الہی میں پہنچنا میرے لئے آسان ہے بجائے اس کے کہ میں ان کے خون کا وبال اپنی گردن پر لے کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۵)

۷ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں

بچانا ظلم و ستم سے مجھے سدا یارب (وسائل بخشش ص ۹۶)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت سے ہمیں یہ درس بھی ملا کہ بلا ثبوت

شُرعی کسی کی طرف گناہ کی نسبت نہ کی جائے یعنی کسی کو اس وقت تک خائن، راشی، سُودخور نہ قرار دیا جائے جب تک ہمارے پاس شرعی ثبوت نہ ہو، حجۃ الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: ”اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو شرعی حد لگانا جائز نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کھٹی کر دی ہو یا کسی نے اسے زبردستی شراب پلا دی ہو، جب یہ سب احتمال موجود ہیں تو (ثبوت شرعی کے بغیر) محض قلبی خیالات کی بنا پر تصدیق کر دینا اور اس مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔“ (احیاء علوم الدین، کتاب آفات اللسان، ج ۳ ص ۱۸۶)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

دِکھاوے کا اَنجَام

ولید بن ہشام نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو خط میں لکھا: ”میں نے اپنے ماہانہ اخراجات کا حساب لگایا ہے تو پتا چلا ہے کہ میری تنخواہ میری ضروریات سے زیادہ ہے اگر آپ منظور فرمائیں تو اس زائد رقم کو میری تنخواہ سے کم کر دیا جائے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: لَوْ كُنْتُ عَازِلًا أَحَدًا عَلٰی ظَنِّ لَعَزَلْتُهُ یعنی اگر میں محض گمان کی بنا پر کسی کو معزول کرتا تو اسے کر دیتا۔ پھر اس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے تنخواہ کم کر دی مگر اپنے ولی عہد یزید بن عبد الملک کے نام یہ تحریر لکھوائی: ولید بن ہشام نے مجھے اس مضمون کی درخواست بھیجی ہے، اگرچہ مجھے اطمینان قلب نہیں مگر میں نے ظاہر پر عمل کیا ہے کیونکہ غیب کا علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے

پاس ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آجائے اور تم مسندِ خلافت پر بیٹھو اور ولید تم سے یہ درخواست کرے کہ اس کی وہی پرانی تنخواہ بحال کی جائے جس میں میں نے کمی کر دی تھی تو اُسے ہرگز اسکی مُراد نامراد میں کامیاب نہ ہونے دینا۔ چنانچہ یہی بات ہوئی کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا وصال ہوا اور خلافت یزید بن عبدالملک کے سپرد ہوئی تو ولید کا خط آپہنچا کہ عمر نے مجھ پر ظلم کیا اور میری تنخواہ میں کمی کر دی تھی لہذا میری تنخواہ بحال کی جائے۔ یزید بن عبدالملک اُس کی دعا بازی پر اتنا غصب ناک ہوا کہ اُسے معزول کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے زمانے سے اب تک جتنی تنخواہ وصول کر چکا تھا وہ بھی واپس لے لی اور ولید کو مرتے دم تک پھر کبھی کوئی عہدہ نہ ملا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۱)

جو شریف کا دلیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ ایک ہزار دہم ہے۔ اس خمیر و حشت اثر سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سخت افسوس ہوا۔ اس کی اصلاح کیلئے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور اس کو اپنے یہاں مدعو فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پُر تکلف کھانے کے ساتھ ہی جو شریف کا دلیا بھی تیار کیا جائے۔ سپہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصداً کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرمادی کہ سپہ سالار بھوک سے بے تاب ہو گیا۔ بالآخر امیر المؤمنین نے پہلے جو

شریف کا دلِیا منگوا یا۔ سہ سالار چو نکہ بہت بھوکا تھا اس لئے اُس نے **جَو** **شریف کا دلِیا** کھانا شروع کر دیا اور جب پُر تکلف کھانے دسترخوان پر آئے اُس وقت اس کا پیٹ بھر چکا تھا۔ دانا خلیفہ نے پُر تکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: آپ کا کھانا تو اب آیا ہے کھائیے! سہ سالار نے انکار کیا اور کہا کہ حضور! میرا پیٹ تو دلِیا ہی سے بھر چکا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا: سُبْحَانَ اللّٰہ! دلِیا بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور ہے بھی اتنا سستا کہ ایک درہم میں دس آدمیوں کو سیر کر دے! یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا: جب آپ دلِیا سے بھی گزارہ کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ ایک ہزار درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سہ سالار صاحب! خدا سے ڈریئے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجئے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی عَزَّوَجَلَّ کیلئے بھوکوں، حاجتمندوں اور غریبوں کو دے دیجئے۔ متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سہ سالار لشکر کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اُس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپنائوں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا۔

(معنی الواعظین ص ۱۹۴)

اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد امیر اہلسنت وامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں:

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اُسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا۔ آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکھی ہے نیز تنگدستی

اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے ”پورا نہیں ہوتا!“ یقین مانئے، مہنگائی، بے برکتی اور تنگدستی کافی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات بھی ہیں۔ ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے نیز اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں، مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے، تو ان کاموں کیلئے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی اور پھر ”بے برکتی“ اور ”پورا نہیں ہوتا“ کی راگنیاں بھی جاری ہی رہیں گی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ الرحمۃ الزائق کا فرمان ہدایت نشان ہے، جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا، اب کہتا ہے اے رب! مجھے اور دے۔ اللہ تعالیٰ (ایسے شخص سے) فرماتا ہے، کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ کیا تو نے میرا (یہ) ارشاد نہ سنا تھا؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿۱۹﴾ (پ ۱۹ فرقان ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ (ملخصاً احسن الوعاء لآداب الدعاء ص ۵۷) بہر حال اگر قناعت اور سادگی کے ساتھ سستے کھانوں اور سادہ لباسوں کو اپنا لیا جائے۔ فقط حسب ضرورت مکانات رکھے جائیں، بے جا سجاوٹوں اور نمائشی دعوتوں کے معاملے میں خود پر پابندی ڈالی جائے تو خود بخود مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غرُوبت رخصت ہو جائے۔ (فیضان سنت، ج ۱، ص ۶۳، ۶۴ ملتقطاً)

ایک جشن کنیز کا خط خلیفہ کے نام اور مستلے کا فوری حل

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے زمانے میں سرکاری ڈاک لانے والے کا یہ دستور تھا کہ جب وہ ڈاک لے کر چلتا تو راستہ میں جو لوگ اسے کوئی خط دیتے ان سے وصول کر لیتا، ایک بار وہ مضر جا رہا تھا کہ ”ذی الصَّحِّح“ کی آزاد کردہ ”فَرْتُونَه“ نامی جشن کنیز نے اسے خط دیا جس میں خلیفہ کے نام تحریر تھا کہ اس کے احاطے کی دیواریں چھوٹی ہیں لوگ انہیں پھلانگ کر اندر آ جاتے ہیں اس کی مرغیاں چوری ہو جاتی ہیں۔ قاصد نے جب یہ خط لا کر امیر المومنین کو دیا تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے جواب میں تحریر فرمایا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، امیر المومنین! عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے ذی الصَّحِّح کی کنیز فرتونہ کے نام! تمہارا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے مکان کی دیواریں نیچی ہیں اور لوگ انہیں پھلانگ کر تمہاری مرغیاں چُرا لیتے ہیں، میں نے ایوب بن شَرَحْبِيل کو جو مضر میں نماز کے امام اور جنگ کے افسرِ اعلیٰ ہیں لکھ دیا ہے کہ وہ تمہارے مکان کی مرمت کرا کر اسے پوری طرح محفوظ کرا دیں۔ والسلام

اور ایوب بن شَرَحْبِيل کو خط لکھا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے بندے امیر المومنین عمر کی جانب سے ابن شَرَحْبِيل کے نام، اما بعد! ذی الصَّحِّح کی کنیز ”فرتونہ“ نے مجھے لکھا ہے کہ اس کے مکان کی دیواریں چھوٹی ہیں اور اس کی مرغیوں کی چوری ہو جاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا مکان محفوظ کر دیا جائے، جب میرا یہ خط ملے تو خود سوار ہو کر وہاں

پہنچو اور اپنی نگرانی میں اس کا مکان مرمت کرو، والسلام۔“

جب ایوب بن شُرْحَبِیل کو خلیفہ کا یہ فرمان پہنچا تو انہوں نے فوراً اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مذکورہ علاقے کا رخ کیا وہاں پوچھتے پوچھتے ”فرتونہ“ نامی کنیر کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بے چاری نہایت مسکین قسم کی بڑھیا ہے۔ ایوب بن شُرْحَبِیل نے اسے بتایا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے بارے میں مجھے یہ حکم نامہ بھیجا ہے، پھر اس کے مکان کی مرمت کروادی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۶)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت میں حاجت روائی اور دلجوئی کا

تذکرہ ہے، یقیناً مسلمانوں کی دلجوئی کی اہمیت بہت زیادہ ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے: ”فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ عزوجل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔“ (المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ۵۹ حدیث ۱۱۰۷۹) واقعی اگر ہم سب ایک دوسرے کی غمخواری و غمگساری میں لگ جائیں تو آناً فاناً دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رہ جائے۔ لیکن آہ! اب تو بھائی بھائی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، آج مسلمان کی عزت و آبرو اور اُس کے جان و مال مسلمان ہی کے ہاتھوں پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ عزوجل ہمیں نفرتیں مٹانے اور محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

امیر المومنین کی تمکا دینے والی مصروفیات

انسان میں مختلف قابلیتیں بہت کم جمع ہوتی ہیں مثلاً جو لوگ دماغی اور عقلی حیثیت سے ممتاز ہوتے ہیں ان میں اخلاقی اوصاف عموماً بہت کم پائے جاتے ہیں اور جو لوگ ملکی و سیاسی کاموں کو نہایت سرگرمی کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہ انفرادی عبادت و ریاضت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے پاتے لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز جس پابندی اور مستعدی کے ساتھ خلافت کے فرائض انجام دیتے تھے، اسی شوق و شغف کے ساتھ انفرادی عبادت و ریاضت بھی کیا کرتے تھے، عام معمول یہ تھا کہ دن بھر رعایا کے معاملات اور مقدمات کے فیصلہ میں مشغول رہتے، نمازِ عشاء کے بعد چراغِ جلا کے بیٹھتے اور پھر یہی کام شروع ہو جاتا، اس کے بعد آراب رانے سے اُمورِ خلافت کے متعلق مختلف مشورے لیتے، پھر جو وقت بچتا وہ عبادت و ریاضت اور استراحت میں صرف کیا کرتے۔ ان کی تمکا دینے والی مصروفیات کو دیکھ کر بعض حضرات خرس کھاتے تھے اور ان کو آرام کرنے کی ترغیب دیتے لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز پر ان کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جوان کے مشیر خاص تھے، کہا: امیر المومنین! دن بھر آپ کے اوقات رعایا کے معاملات میں صرف ہوتے ہیں، رات گئے فرصت کا تھوڑا سا جو وقت ملتا ہے اس کو ہماری صحبت میں صرف کر دیتے

ہیں! جواب دیا: لوگوں کی ملاقات سے عقل بڑھتی ہے۔ (تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۲۲۷)

سیر و تفریح کا مشورہ دینے والے کو جواب

ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے بھائی ریان بن عبدالعزیز نے انہیں مشورہ دیا کہ کبھی کبھی سیر و تفریح کے لئے بھی نکل جایا کیجئے۔ فرمایا: ”کَيْفَ لِي بِعَمَلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ یعنی پھر اس دن کا کام کس طرح انجام پائے گا؟ انہوں نے کہا: ”يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ یعنی دوسرے دن ہو جائے گا۔“ فرمایا: حَسْبِي عَمَلُ يَوْمٍ فِي يَوْمِهِ فَكَيْفَ بِعَمَلِ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ یعنی میرے لئے یہی بہت ہے کہ روز کا کام روز انجام پا جائے، دو دن کا کام ایک دن میں کیونکر پورا ہوگا؟ (سیرت ابن جوزی ص ۲۲۵) بعض حضرات نے ان سے فرصت کے اوقات میں فیض یاب ہونے کی خواہش ظاہر کی تو فرمایا: مجھے فرصت کہاں! اب تو صرف خدا عزوجل کے یہاں ہی فرصت نصیب ہوگی۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۱۰)

وقت کی قدر

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! وقت ایسی انمول دولت ہے جو امیر و غریب کو یکساں ملتی ہے مگر ہماری اکثریت وقت کی اہمیت سے نا آشنا ہے اور اس اہم ترین نعمت (یعنی وقت) کو فضولیات میں برباد کرتی ہے مثلاً کئی لوگ آنکھ کھلنے کے باوجود بلاوجہ کافی دیر تک بستر نہیں چھوڑتے، غسل خانے میں بے کار کافی وقت نکال دیتے ہیں، کھانا کھانے میں بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، کافی دیر آئینے کے حضور

حاضری دیتے ہیں، کہیں چائے پینے بیٹھے تو فضول و لغو گفتگو مثلاً ملکی و سیاسی حالات، میچوں پر تبصرے وغیرہ میں گھنٹوں وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو غیبت، پُغلی، موصی، بدگمانی، دل آزاری، ٹہمت و بہتان، مخلوط تفریح گاہ و ہوٹل، ٹی وی وغیرہ پر فلمیں ڈرامے، کھیل کود کے غیر شرعی پروگرام دیکھ کر وقت جیسی عظیم نعمت کو برباد کرتے اور اپنی دُنیا و آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں۔

پیارے آقا صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھائلے میں ہیں تندرستی اور فراغت۔“ (بخاری، کتاب الرقاق، ج ۴، ص ۲۲۲، الحدیث: ۶۱۲۱) لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ دولتِ وقت کو اللہ

ورسول عَزَّوَجَلَّ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری والے کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اور اس مختصر زندگی کے قیمتی لمحات کو فضول و حرام خواہشات کی تکمیل میں صرف کرنے سے بچیں کیونکہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔

دِن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے

شَرَمِ نبی خوفِ خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(حدائقِ بخشش از امام اہلسنت علیہ رحمۃ ربِّ العزیز)

دینہ

۱۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ”انمول ہیرے“ کا مطالعہ فرمائیے۔

وقت برف کی مانند ہے

امام فخر الدین رازی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِي فرماتے ہیں کہ میں نے سُورَةُ الْعَصْرِ کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا، جو بازار میں صدالگار ہا تھا کہ رحم کرو اُس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلنا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلنا جا رہا ہے اُس کی یہ بات سن کر میں نے کہا: یہ ہے ”وَالْعَصْرِ ۝۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَفِي خُسْرٍ ۝۲“ کا مطلب، جو زندگی انسان کو دبی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ (تفسیر کبیر، ج ۱۱، ص ۲۷۸)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بیت المال کی اصلاح

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيز نے جن جن شعبوں کی اصلاح کی، ان میں بیت المال (یعنی قومی خزانہ) بھی ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

(۱) بیت المال مختلف قسم کی آمدنیوں کے مجموعے کا نام ہے جن میں ہر ایک کے مصارف و مداخل جُدا جُدا ہیں، غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيز کے زمانے سے پہلے یہ تمام آمدنیاں ایک ہی جگہ جمع ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے آمدنیوں کے متعلق الگ الگ شعبہ جات قائم کئے، اور ہر ایک قسم کی آمدنی کو الگ الگ جمع کیا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۱۲ ملخصاً)

(۲) بیت المال درحقیقت مسلمانوں کا مشترکہ خزانہ ہے جس سے ہر مسلمان برابر فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دور سے پہلے تمام خاندان شاہی کو عام مسلمانوں سے الگ الگ مخصوص وظیفہ ملتا تھا، جس کو وظیفہ خاصہ کہتے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا۔

(۳) قصائد (یعنی تعریفی اشعار کہنے) کے صلے میں شعراء کو بیت المال سے جو انعامات ملتے تھے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بالکل موقوف کر دیا۔

(۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دور سے پہلے یہ دستور تھا کہ گورنر عشاء اور فجر کے وقت نماز کو جاتے تھے تو آدمی ساتھ ساتھ شمع لے کر چلتا تھا اور اس کے مصارف کا بار بیت المال پر پڑتا تھا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس کی رقم بند کر دی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۵ ملخصاً)

(۵) بیت المال کی آمدنیوں میں خمس کے پانچ مصارف متعین ہیں جن کے علاوہ ان کو کسی دوسری جگہ صرف نہیں کیا جاسکتا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے پہلے کے خلفاء ان مصارف کا لحاظ نہیں کرتے تھے، مصارف خمس میں سب سے مقدم مضرّف اہل بیت ہیں، لیکن ولید اور سلیمان بن عبد الملک نے باوجود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے سمجھانے بجھانے کے ان کو

بالکل اس حق سے محروم کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ بنتے ہی خمس کو ان کے صحیح مصارف میں صرف کیا اور اہل بیت کو ان کا حق دیا۔

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۰۵ ملخصاً)

آپ قسم کھائیے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے نزدیک بیت المال (قومی خزانے) کی حفاظت کی بہت اہمیت تھی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود ایک متقی پرہیزگار بزرگ تھے، بیت المال کے منتظم تھے اور بیت المال سے کچھ رقم کم ہوگئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو لکھا کہ بیت المال میں چند دینار کم ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان کو جواب میں لکھا: ”میں آپ کو الزام نہیں دیتا، مجھ سے اس مال کے بارے میں مسلمان پوچھ چکے کرنے والے ہیں، انہیں آپ کی قسم ہی مطمئن کر سکتی اس لئے آپ حلف اٹھائیے۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۸)

مَحَاصِل کی اصلاح

ملکی محاصِل کی وجہ سے قومی خزانے کو اچھی خاصی رقم وصول ہوا کرتی تھی لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے عہدِ خلافت سے پہلے ان تمام چیزوں کا نظام اس قدر اتر ہو گیا تھا کہ یہ محاصِل رعایا کے لئے بالکل ایک جبری چیز بن گئے تھے۔ اسلام میں جزیہ صرف غیر قوموں کے لیے مخصوص تھا اس لیے اگر

کوئی عیسائی، یہودی یا مجوسی مذہبِ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا تو وہ اس سے بالکل بری ہو جاتا، لیکن حجاج بن یوسف نے اس فرق و امتیاز کو بالکل مٹا دیا تھا، اور وہ نو مسلموں سے بھی جڑیہ وصول کرتا تھا۔ اس کی نسبت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے حیان بن شریح کو لکھا کہ ذمیوں میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کا جڑیہ ساقط کر دیا جائے کیونکہ پروردگار عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَفُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾ (پ ۱۰، التوبہ: ۵)

ترجمہ کنز الایمان: پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

سورہ توبہ کی آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے:

فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: لڑوان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے یعنی وہ جو کتاب دئے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جڑیہ نہ دیں ذلیل ہو کر

(پ ۱۰، التوبہ: ۲۹)

اس حکم کی بناء پر اتنی کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ جڑیہ کی آمدنی اچانک

کم ہو گئی، چنانچہ حیان بن شریح نے ان کو اطلاع دی کہ ذمیوں کے اسلام نے جزیہ کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ میں نے تیس ہزار اشرفیاں قرض لے کر مسلمانوں کے عطیے تقسیم کیے، لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی، اور لکھا کہ میں نے جب تمہیں مضر کا عامل مقرر کیا تھا۔ اسی وقت تمہاری کمزوری سے واقف تھا، میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ تمہارے سر پر کوڑے لگائے جزیہ کو موقوف کرو۔ (المواعظ والاعتبار، ج ۱، ص ۹۷)

جزیہ نہ لو

”حیرہ“ کے یہودی، عیسائی اور مجوسی جن سے جزیہ کی رقم وصول ہوتی تھی، جب اسلام لائے تو گورنر عبدالحمید بن عبدالرحمن نے ان سے جزیہ وصول کرنا چاہا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے اس کی اجازت طلب کی، انہوں نے لکھا کہ خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اسلام کی دعوت کے لئے بھیجا تھا نہ کہ خراج جمع کرنے کے لئے، ان مذاہب کے لوگوں میں جو لوگ اسلام لائیں ان کے مال میں صرف صدقہ ہے جزیہ نہیں۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۹ ملخصاً)

نو مسلموں سے جزیہ لینے والے گورنر کو معزول کر دیا

گورنر جراح کی نسبت جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ نو مسلموں سے جزیہ وصول کر رہے ہیں تو ان کو معزول کر دیا۔ نو مسلموں کے جزیہ کی موقوفی پر ان کو اس قدر اصرار تھا کہ ایک بار لکھا کہ اگر ایک ذمی کا جزیہ ترازو کے پلڑوں میں رکھا جا چکا ہو اور

اسی حالت میں وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے، اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا: اگر سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے بھی کوئی ذمی مسلمان ہو جائے تو اس سے جزیہ نہ لیا جائے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۷۵)

ٹیکس ختم کر دیئے

پہلے خلفاء کے دور میں رعایا پر مختلف قسم کے ٹیکس لگائے گئے تھے: روپیہ ڈھالنے پر ٹیکس، چاندی پگھلانے پر ٹیکس، عرائض نویسی پر ٹیکس، دوکانوں پر ٹیکس، گھروں پر ٹیکس، پن چکیوں پر ٹیکس، الغرض کوئی چیز ٹیکس سے بری نہ تھی اور یہ تمام ٹیکس ماہوار وصول کئے جاتے تھے اور اس لئے اس کو مالِ ہلالی (یعنی ماہانہ حاصل ہونے والا مال) کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز تختِ خلافت پر متمکن ہوئے تو دیکھا کہ ان میں بعض قسم کی آمدنیاں شرعاً ناجائز ہیں اور بعض سے رعایا پر غیر معمولی بار پڑ رہا ہے، اس لئے انہوں نے ان کو یک لخت موقوف کر دیا۔ عربی زبان میں اس قسم کے ٹیکسوں کو مکس کہتے ہیں مگر آپ نے فرمایا: یہ مکس نہیں بلکہ نجس ہے، وہ نجس جس کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 ترجمہ کنز الایمان: اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ

(پ ۱۹، الشعراء ۱۸۳) پھر۔

لہذا جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے وہ قبول کر لو جو نہ دے اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب

لے گا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۸ ملتقطاً)

بیٹ المال میں برکت

یہ عجیب بات ہے کہ اس قدر زخمی کے باوجود حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے زمانہ میں جو مال گزاری و وصول ہوئی، اس سے حجاج کے پُر مظالم زمانہ کو کوئی نسبت نہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ فخریہ فرمایا کرتے تھے کہ ”حجاج کو نہ دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی، اس نے کاشت کاروں کو 20 لاکھ ڈھم زمین کی آبادی کے لیے بطور قرض کے دیئے تو محصولات کی مد میں ایک کروڑ 60 لاکھ اور وصول ہوئے، لیکن باوجود اس ویرانی کے عراق میرے قبضہ میں آیا تو میں نے 10 کروڑ 24 لاکھ ڈھم وصول کیے، اور اگر زندہ رہا تو اس سے بھی زیادہ وصولی کروں گا۔ (معجم البلدان، باب السین والواو وایلیھما، ج ۳ ص ۸۷ ملخصاً)

سرکاری عہدوں پر تقرری کا طریقہ کار

زمانہ قدیم کا نظام سلطنت موجودہ زمانہ کے نظام حکومت سے بالکل مختلف تھا آج کے دور میں حکومت کی شخصیتیں بدل جاتی ہیں، نظام حکومت الٹ پلٹ جاتا ہے لیکن سلطنت کے اعضاء و جوارح یعنی عمال (یعنی گورنر وغیرہ) پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن قدیم زمانہ میں سلاطین کی شخصیت کا تغیر و تبدل گویا نظام سلطنت کی تبدیلی تھا، اور یہ انقلاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے انہوں نے تختِ خلافت پر متمکن ہونے کے

ساتھ ہی تمام مفاسد کی اصلاح کرنی چاہی لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ان پُر زوں کی تھی جو نہایت نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ سلطنت کی کُل کو چلائیں اور ان کے زمانہ میں اس قسم کے اہل افراد تقریباً مفقود ہو چکے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کو صاف نظر آتا تھا کہ انہیں جس قسم کے مددگاروں کی ضرورت ہے وہ سرکاری دفاتروں میں نہیں مل سکتے، اس لیے وہ اپنی نگاہ کو دُور دُور تک دوڑاتے تھے اور جہاں کہیں کوئی مرغ بلند آشیاں نظر آتا تھا اس کو اس جال میں پھنسانا چاہتے تھے جس میں خود گرفتار ہو چکے تھے۔ اہل افراد میں نہ ملیں عُمال سلطنت کا تقریباً فوری طور پر کرنا ضروری تھا اس لئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے تختِ حکومت پر بیٹھتے ہی مختلف اشخاص کو ذمہ داری کے مختلف عہدے دیئے جن کے ناموں کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ابوبکر بن محمد بن حزم کو سلیمان بن عبدالملک نے مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد کو مکہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عدی بن اَراطاة کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ مسح بن مالک خولانی کو اندلس کا گورنر مقرر کیا۔ عمر بن مہیر کو جزیرہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسماعیل بن عبداللہ مخزومی کو افریقہ کا گورنر مقرر کیا۔ جراح بن عبداللہ الحکمی کو خراسان کا گورنر مقرر کیا۔

(اکمال فی التاریخ، ج ۴، ص ۳۱۶، ۳۲۳ و تاریخ طبری، ج ۴، ص ۲۲۱ ملتقطاً)

ذمہ داران کی تقرری کے مدنی پھول

عُمّال کی تقرری اور معزولی کا دار و مدار جن مدنی پھولوں (یعنی اصولوں) پر تھا

ان کی تفصیل ملاحظہ ہو:

(۱) کوئی شخص جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا

قربت دار ہوتا اس کو کبھی عامل مقرر نہیں کرتے تھے، بیٹے سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا

ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان میں سے کسی کو کوئی

عہدہ نہیں دیا۔ (تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۱۹۸ ملتقطاً) ایک بار جراح بن عبداللہ حکمی نے

عبداللہ بن اہتم کو عامل مقرر کیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو

خبر ہوئی تو لکھا کہ اس کو ہٹا دو، کیونکہ اور باتوں کے علاوہ وہ خود میرا رشتہ دار ہے۔ (ابن

جوزی ص ۱۰۵)

(۲) جو لوگ کسی عہدہ کے خواستگار ہوتے تھے حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ان کو وہ عہدے نہیں دیتے تھے اور مدنی آقا صلی اللہ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔

(۳) جو لوگ سفاک اور ظالم ہوتے تھے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ

رحمۃ اللہ العزیز ان کو بھی کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے، ایک بار جراح بن عبداللہ حکمی نے

عمارہ کو عامل مقرر کیا، تو انہوں نے لکھا کہ مجھ کو نہ عمارہ کی ضرورت ہے نہ عمارہ کی مار

پیٹ کی، نہ اس شخص کی جس نے اپنے ہاتھ کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا ہے، اس

لیے اس کو معزول کر دو۔ (ابن جوزی ص ۱۰۵) خود جراح اور یزید بن مہلب کی معزولی کا سبب بھی یہی ظلم و عدوان تھا یہی وجہ ہے کہ حجاج کے ملازموں اور اس کے قبیلہ کے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں دیتے تھے۔ ابو مسلم جو حجاج کا جلا داد اور ہم قبیلہ تھا، ایک فوج میں شریک ہوا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس کو واپس بلا لیا۔ (ابن جوزی ص ۱۰۸)

(۴) حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز عمال کے تقرر میں یہ لحاظ بھی رکھتے تھے کہ قرآن و حدیث کا عالم ہو چنانچہ اس وصف کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے تمام عمال کے نام ایک عام فرمان بھیجا کہ اہل علم کے سوا اور کوئی شخص کسی عہدے پر مامور نہ کیا جائے لیکن تمام عمال کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے ان سے کام لیا، مگر وہ خائن نکلے لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اب بھی اس پر اصرار رہا، اور لکھا کہ خبردار مجھے یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ تم نے اہل علم کے سوا اور کسی کو عامل بنایا، اگر اہل علم میں بھلائی نہیں ہے تو کسی اور میں کیونکر ہوگی؟ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۰)

(۷) اگرچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی نیک شہرت نے جیسا کہ میمون بن مہران نے ان کو یقین دلایا تھا، ان کے تحت حکومت کے گرد بہترین اشخاص جمع کر دیئے تھے، لیکن یہ تمام شخصیتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر تھیں اور انہی کے اشاروں سے یہ تمام پُرزے حرکت

کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا قاعدہ تھا کہ بات بات پر عمال کو ہدایتیں کرتے رہتے تھے، احکام بھیجتے رہتے تھے، ان کو کام کرنے کی ترغیب و ترہیب دیتے رہتے تھے، اس لیے طبیعتوں پر خواخواہ ان کا اخلاقی اثر پڑتا تھا مثلاً گورنر ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لئے دن رات ایک کر دیتے تھے اور یہ صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ترغیب و ترہیب کا اثر تھا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۰۲)

حجاج کی رِوْش اپنانے سے روکا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے عمال کو سخت تاکید کی تھی کہ حجاج کی رِوْش اختیار نہ کریں، ایک بار عدی بن اَراطا کو لکھا کہ میں تمہیں حجاج کی رِوْش سے روکتا ہوں کیونکہ حجاج ایک مصیبت تھا، ایک قوم نے اپنے عمل سے اس کی غلط کاریوں کی مُوافقت کی، اس لیے اپنے زمانے میں اس نے جو چاہا کیا لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا اور سلامتی کے دن واپس آ گئے اور اگر صرف ایک ہی دن رہے تب بھی یہ خدا کا عطیہ ہوگا، میں نے تمہیں نماز کے متعلق اس کی پیروی سے روکا ہے کیونکہ وہ وقت میں تاخیر کرتا تھا، میں نے زکوٰۃ کے متعلق اس کی تقلید سے روکا ہے کیونکہ وہ بے محل لیتا تھا اور بے محل صرف کرتا تھا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۷) ایک اور عامل نے ذمیوں کے کھلیانوں (یعنی گوداموں) کی حد بندی کی تو اس کو لکھا کہ ایسا نہ

کرو، یہ حجاج کا طریقہ تھا اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۸)

کارکردگی کی تحقیقات بھی کرتے تھے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو صرف ان ہدایات ہی پر قناعت نہ تھی بلکہ مناسب طریقوں سے وہ عُمَال کے طرزِ عمل کی تحقیقات بھی کرتے رہتے تھے تاکہ وہ راہِ اعتدال سے ہٹنے نہ پائیں۔ ریح بن عبیدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے کہا کہ عراق میں میری جائیداد اور میرے اہل و عیال ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کو دیکھ آؤں؟ انہوں نے پہلے تو مجھے روکا مگر میرے اصرار کے بعد اجازت دی جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے؟ بولے: میری ضرورت صرف یہ ہے کہ اہل عراق اور ان کے ساتھ حُکام و عُمَال کے طرزِ عمل کے متعلق حالات دریافت کرو۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق سوال کیا تو سب کو عُمَال کا مداح پایا، واپس آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کی اطلاع دی، تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا: اگر تم نے اس کے خلاف خبر دی ہوتی تو میں ان کو معزول کر دیتا۔

ذمیوں کے حقوق کی حفاظت

ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے جس طرح ان تمام چیزوں کی نگہداشت کی اس کی نظیر خلافتِ راشدہ کے سوا اور خلفاء کے دور میں بہ مشکل مل سکتی

ہے، انہوں نے ذمیوں کی جائیداد کی حفاظت میں خاندانی تعلقات کی بھی پروا نہیں کی، ان کے عہد میں ذمیوں کی تمام چیزیں اس قدر محفوظ تھیں کہ ان سے ذرہ برابر بھی تعرض نہیں کیا جاسکتا تھا، جان جائیداد سے بھی زیادہ عزیز شے ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذمیوں کی جان کو مسلمانوں کی جان کے برابر سمجھا۔

گر جاگھر کا مقدمہ

دمشق میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، جو خاندان بنونصر کی جاگیر میں آ گیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں اس کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اس کو واپس دلادیا۔ ایک اور مسلمان نے ایک گرجے کی نسبت دعویٰ کیا کہ وہ اس کی جاگیر میں ہے لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اگر یہ عیسائیوں کے معاہدے میں داخل ہے تو تم اس کو نہیں پاسکتے۔

(فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۳۷ تا ۱۳۹)

جزیرہ کی وصولی میں تخفیف

جزیرہ کی تخفیف اور وصولی میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ہمیشہ ذمیوں کے ساتھ نہایت نرمی کا برتاؤ کیا۔ وہ پہلے اپنے جزیرہ میں مصالحت سالانہ کپڑے دیا کرتے تھے، اس کے بعد جب ان کی تعداد میں کمی واقعی ہونا شروع ہوئی تو حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑوں کی تعداد میں کمی کر دی۔ عراق میں جب ابن الاشعث نے حجاج سے بغاوت

کی، تو اس نے وہاں کے ذمہ داروں پر اس کی اعانت کا الزام قائم کیا اور اس کے خراج و جزیہ کو بہت زیادہ سخت کر دیا اور اس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا، یعنی سالانہ آٹھ سو نکلین کپڑے ان پر لازم کر دیئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے دورِ خلافت میں ان لوگوں نے اپنے مصائب کا اظہار کیا تو انہوں نے گھٹا کر دو سو کپڑے کر دیئے جن کی قیمت آٹھ ہزار درہم تھی۔ (فتوح البلدان، ج ۱، ص ۸۰، ملخصاً)

تُزْمِی کُرو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ عُثْمَال کو حُکْم بھیجتے رہتے تھے کہ ذمیوں کے ساتھ ہر قسم کی اخلاقی رعایتیں کی جائیں، چنانچہ ایک بار عدی بن اَرطَاة کو لکھا کہ ذمیوں کے ساتھ تُزْمِی کرو، اگر ان میں کوئی شخص بوڑھا ہو جائے اور وہ نادار ہو تو اس کے اخراجات کے کفیل بن جاؤ اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہو تو اس کو حُکْم دو کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کرے، جس طرح تمہارا کوئی غلام بوڑھا ہو جائے تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا، یا تادمِ مَرگ اس کو کھلانا پڑے گا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۶)

ظَلْم کی نشانیاں مٹا دیں

اگرچہ یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کی خوش قسمتی تھی کہ سلیمان بن عبدالملک نے حجاج کے تمام مقرر کردہ عُثْمَال کو معزول کر کے اس کے جبارانہ اقتدار کو بہت کچھ مٹا دیا تھا، تاہم اب تک اس کے ظلم و ستم کی جو یادگاریں باقی تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا، حجاج کے

تمام خاندان کو یمن کی طرف جلا وطن کر دیا اور وہاں کے عامل کو لکھا کہ میں تمہارے پاس حجاج کے خاندان کو بھیجتا ہوں، ان کو اپنی حکومت میں ادھر ادھر منتشر کر دو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۰۹)

زائد رقم واپس لوٹا دی

صدقات میں پہلے جو زائد رقمیں وصول کی جاتی تھیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان تمام رقموں کو واپس کر دیا۔ ایک بار عامل صدقہ وصول کر کے آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی مقدار پوچھی، اس نے مقدار بتائی تو پوچھا کہ تم سے پہلے کس مقدار میں صدقہ وصول ہوتا تھا؟ اس نے اس سے زیادہ مقدار بتائی، فرمایا: یہ کہاں سے وصول ہوتی تھی؟ اس نے کہا: گھوڑوں اور خدام وغیرہ پر لی جاتی تھی۔ یہ سن کر آپ نے ان رقموں کو بالکل معاف کر دیا اور فرمایا: میں نے معاف نہیں کیا خدا عزوجل نے معاف کیا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۳)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْرَ اَنْ كَىٰ صَدَقَۃِ هَمَارَىٰ بَىٰ حَسَابِ

مَغْفِرَتِ هُوَ - اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

قیدیوں کو سہولتیں دیں

جُرموں کو جرائم پر سزا دینا اگرچہ قیامِ امن کے لیے ضروری ہے تاہم عُرف و تمدن کے لحاظ سے سزا کی نوعیت اور جرمین کی حالت میں اختلاف ہوتا رہتا ہے،

اسلام چونکہ ایک مُتمدّن سلطنت کا بانی تھا اس لیے اس نے قیدیوں کے ساتھ ان تمام مُراعات کو قائم رکھا جو مقتضائے انسانیت تھیں مثلاً عام حُکم دیا کہ کسی مسلمان قیدی کو اتنی بھاری بیڑیاں نہ پہنائی جائیں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں (سیرت ابن جوزی ص ۸۹) قیدیوں کی مختلف نوعیت اور مختلف حالت کے لحاظ سے ان کے لیے الگ الگ احکام جاری کئے، چنانچہ تمام صوبوں کے گورنروں کو لکھا کہ اگر بیمار قیدیوں کے عزیز و اقارب نہ ہوں یا ان کے پاس مال نہ ہو تو ان کی خبر گیری کرو، جو لوگ قرض کے بارے میں قید کئے جائیں ان کو اور مجرموں کے ساتھ ایک کوٹھڑی میں نہ رکھو، اور عورتوں کو الگ قید کرو، قیدیوں کو سردیوں اور گرمیوں میں لباس فراہم کرو اور جیلر ایسا شخص مقرر کرو جو قابلِ اعتماد ہو اور رشوت نہ لے۔ ان احکام کے ساتھ ابوبکر بن حزم کو خصوصیت کے ساتھ لکھا کہ ہفتہ کے روز جیل خانہ کا معائنہ کیا کریں۔ ان کے علاوہ دیگر عُتَمال کو بھی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت کی۔

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۷۶ ملخصاً)

مسلمان قیدیوں کا فدیہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے گورنروں کو تاکید کی کہ قیدیوں کو فدیہ دیا جائے کہ مسلمان قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے انہیں رہائی دلوائیں چاہے سارا خزانہ صرف کرنا پڑے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۰)

سزا کی حد مقرر کر دی

اسلام نے خود جن جرائم پر سزائیں مقرر کر دی ہیں ان میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تاہم اسلام نے تعزیر (یعنی قاضی یا حاکم اسلام کی طرف سے دی جانے والی سزا) کی کوئی تحدید (یعنی حد مقرر) نہیں کی ہے اور اس کو خود حاکم اسلام و قاضی اسلام کی رائے پر چھوڑ دیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے زمانہ میں عُثْمَان نے اس میں اس قدر سختیاں کر دی تھیں کہ بعض جرائم پر بلکہ صرف الزام و شبہہ پر تین تین سو کوڑے مارتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے قانونی طور پر تعزیر کی تحدید کر دی جس کی انتہائی مقدار 30 کوڑے تھی۔ (طبقات ابن سعد، ج 5، ص 223)

لوگوں کو مشقّت کا عادی بنا رہا ہوں

ان سب اقدامات کے باوجود ابھی تک حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ اس طرح کام نہیں کر پائے تھے جس طرح کرنا چاہتے تھے، چنانچہ جب آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ نے اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کی تو فرمایا: مجھے اپنی اور تمہاری جان کی پروا نہیں مگر میں لوگوں کو مشقّت کا عادی بنا رہا ہوں، اگر زندگی باقی رہی تو اپنی رائے کے مطابق ہی عمل کروں گا اور اگر اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ نیتوں کا حال جانتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اچانک سختی کی تو وہ مجھے تلوار کے استعمال پر

مجبور کر دیں گے اور جو اچھا کام تلوار کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں کوئی اچھائی نہیں۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۱۵)

تمہارے دلوں سے حرص و لالچ نکالنا چاہتا ہوں

حضرت میمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ اگر میں

پچاس سال بھی تمہارا خلیفہ رہوں تب بھی میں انصاف کے جملہ مراتب تم کو نہیں سکھا

سکتا، میں تمہارے دل سے دنیاوی حرص و لالچ نکال دینا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ

طمع کے ساتھ تمہارے دل بھی سینے سے نکل پڑیں گے، میری آرزو ہے کہ تم برائیوں کو

سچے دل سے بُرا سمجھو تاکہ عدل و انصاف سے دلوں کو تسکین ہو۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۸)

مسلمان کو تکلیف پہنچنا گوارا نہیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے جَعْوَنہ بن حارث کو

”مَلَطِيَه“ کی طرف بھیجا، انہوں نے وہاں پر حملہ کیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔

جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور اپنی کارکردگی پیش کی تو دریافت فرمایا:

کسی مسلمان کو تو نقصان نہیں پہنچا؟ عَزَّ وَجَلَّ کی یہاں امیر المؤمنین! سوائے ایک معمولی

آدمی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ تڑپ کر فرمایا: ”معمولی آدمی؟“ پھر جَعْوَنہ کو ڈانٹا: تم

ایک مسلمان کو نقصان پہنچا کر میرے پاس گئے اور بکریاں لاتے ہو! جب تک میں زندہ

ہوں تم کسی عہدے پر دوبارہ فائز نہیں ہو سکتے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۶۸ رقم ۷۴۴)

اپنے ہاتھ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک گورنر کو نصیحت فرمائی: تم اپنے ہاتھ کو مسلمانوں کے خون سے، پیٹ کو ان کے مال سے اور زبان کو ان کی بے عزتی سے بچانا، اگر تم نے یہ کام کر لئے تو گویا اپنی ذمہ داری نبھالی۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۱۴)

نیک بندے چیونٹیوں کو بھی ایذا نہیں دیتے

اللہ کے نیک بندے کی ایک علامت یہ بھی کہ وہ عُصَصے میں آکر مسلمانوں کو تو کیا تکلیف دیگا چیونٹیوں تک کو ایذا دینے سے گریز کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اِنَّ الْاَبْرَامَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۳۱﴾ (ترجمہ کنز الایمان: بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں (پ ۳۰، المطففين ۲۲) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الَّذِينَ لَا يُؤْذُونَ النَّدَّ یعنی نیک بندے وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی اذیت نہ دیں۔ (تفسیر حسن بصری ج ۵ ص ۲۶۴)

تلوار کے استعمال سے روکا

جراح بن عبد اللہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اہل خراسان کی صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ لوگ بہت بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح تلوار اور دُڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، آپ میری راہنمائی فرمائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان کو جواب میں لکھا:

تم نے یہ غلط لکھا کہ اہل خراسان تلوار کے بغیر نہیں سدھریں گے، عدل اور حق ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت یہ خود بخود دُرُست ہو جائیں گے، لہذا تم ان میں حق و انصاف کا بول بالا کرو، والسلام۔“ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۴)

خونریزی کی اجازت نہیں دی

دو افراد کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے عراق کے کسی کام پر مقرر کیا تھا تو انہوں نے بھی لکھا تھا کہ لوگ بغیر تلوار کے دُرُست نہیں ہوتے، آپ نے ان دونوں کو لکھا: بے وقوفو! تم مجھ سے مسلمانوں کے خون کے بارے میں عَرَض و معروض کرتے ہو؟ لوگوں میں سے کسی ایک شخص کے خون کے بجائے میرے لئے تم دونوں کے خون بے قیمت ہیں۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۴۰ رقم ۷۳۲۱)

مسلمان ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ”احیاء العلوم“ میں نقل کرتے ہیں، ہمارے پیارے پیارے اور بیٹھے بیٹھے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے استہفسار فرمایا: جانتے ہو ”مسلمان“ کون ہوتا ہے؟ سب نے عَرَض کی: **اللہ ورسول عزَّوَجَلَّ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔** فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومنوں کو مال اور جسمانی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔“ پھر پوچھا، مہاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا: ”جو برے کام کرنا چھوڑ دے۔“ اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی

طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے اور یہ بھی حلال نہیں کہ ایسی حرکت کی جائے جو کسی مسلمان کو خوفزدہ کر دے۔“ (کتاب الزهد لابن مبارک،

ص ۲۳۰، الحدیث ۶۷۹۰-۶۸۸ اتحاف السادة المتقين، ج ۷، ص ۱۷۵، ۱۷۷)

کھیتی کے مالک کی شکایت

ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کی: میں نے کھیتی کاشت کی تھی کہ اہل شام کا لشکر وہاں سے گزرا اور اسے خراب کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کے بدلے اُسے دس ہزار درہم دیئے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۹۷)

شیخ طریقت امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ اسی نوعیت کی ایک حکایت کے بعد لکھتے ہیں: اس حکایت سے اُن لوگوں کو دَرس حاصل کرنا چاہئے جو لوگوں کی دیواروں اور سیڑھیوں کے کونوں وغیرہ کو پیک (یعنی پان کے رنگین تھوک) کی پچکاریوں سے بدنام کر دیتے ہیں، اسی طرح بغیر اجازت مالک مکانوں اور دکانوں کی دیواروں اور دروازوں نیز سائن بورڈز اور گاڑیوں، بسوں وغیرہ کے باہر یا اندر اسٹیکرز اور پوسٹر لگانے والے، دیواروں پر مالک کی اجازت کے بغیر ”چانگ“ کرنے والے بھی دَرس حاصل کریں کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کے حُقوق پامال ہوتے ہیں۔ بے شک حُقوق اللہ ہی عظیم تر ہیں مگر توبہ کے تعلق سے حُقوق العباد کا

مُعَامَلہ حُقُوقِ اللہ سے سَخْت تر ہے، دنیا میں جس کسی کا حق ضائع کیا ہو اگر اُس سے مُعافی تلافی کی ترکیب دنیا ہی میں نہ بنی ہوگی تو قیامت کے روز اُس صاحبِ حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی اور اگر اس طرح بھی حق ادا نہ ہو تو اُس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ مَثَلًا جس نے بلا عُد رِشترعی کسی کو جھاڑا ہوگا، گھور کر یا کسی بھی طرح ڈرایا ہوگا، دل دُکھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے پیسے دبا لئے ہوں گے، پیک، پوسٹر یا چانگ وغیرہ کے ذریعے کسی کی دیوار خراب کی ہوگی، کسی کی دکان یا مکان کے آگے جگہ گھیر کر اُس کیلئے ناحق پریشانی کا سامان کیا ہوگا، کسی کی عمارت سے قریب غیر واجبی طور پر زبردستی اپنی عمارت بنا کر اُس کی ہوا اور روشنی میں رُکاوٹ کھڑی کی ہوگی، کسی کی اسکوٹریا کار وغیرہ کو اپنی گاڑی سے ڈینٹ ڈال کر یا خُراش لگا کر راہ فرارِ اختیار کی ہوگی، یا بھاگ نہ سکنے کی صورت میں اپنا قُصُور ہونے کے باؤ جو اپنی چُرب زبانی یا رُعب داب سے اُسی کو جُرمِ باور کرا کر اُس کی حق تلفی کی ہوگی، عہدِ قرباں وغیرہ کے موقع پر صاحبِ مکان کی رِضا مندی کے بغیر اُس کے گھر کے آگے جانور باندھ کر یا ذبح کر کے اُس کی دیوار یا گھر سے نکلنے کا رستہ گوبر، خون اور کچھڑ وغیرہ سے آلودہ کر کے اُس کیلئے ایذا کا سامان کیا ہوگا، کسی کے مکان یا دکان کے پاس یا اس کی چھت یا پلاٹ پر پریشان کن گند کچرا پھینکا ہوگا، اَلْغَرَض لوگوں کے حُقُوق پامال کرنے والا اگرچہ نمازیں، حج، عمرے، خیراتیں اور بڑی بڑی نیکیاں لیکر گیا ہوگا، مگر بروِ قیامت اُس

کی عبادتیں وہ لوگ لے جائیں گے جن کو ناحق نقصان پہنچایا ہوگا یا بلا اجازت شرعی کسی طرح سے ان کی دل آزاری کا باعث بنا ہوگا۔ نیکیاں دینے کے باوجود دُھوق باقی رہنے کی صورت میں ان کے گناہ اس ”نیک نمازی“ کے سر تھوپ دیئے جائیں گے اور یوں دوسروں کی حق تلفی کرنے کے سبب حاجی، نمازی، روزہ دار اور تہجد گزار ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی۔ (اور اللہ عزوجل کی پناہ) ہاں اللہ عزوجل جس کے لئے چاہے گا محض اپنے فضل و کرم سے صلح کرائے گا۔ مزید تفصیلات کیلئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ

رسالہ ”ظلم کا انجام“ ملاحظہ فرمائیے۔ (ماخوذ از ”اشکوں کی برسات“، ص ۱۶)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

فلاحِ عامہ کے کام

عوام کی فلاح و بہبود کے لئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے تمام ممالک محروسہ میں نہایت کثرت سے مسافر خانے بنوائے، چنانچہ خراساں کے عامل کو لکھا کہ وہاں کے راستے میں بہت سے مسافر خانے تعمیر کرائے جائیں۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۵، ص ۲۶۶)

مسافروں کی خیر خواہی کرو

سمرقند کے عامل سلیمان بن ابی السریٰ کے پاس فرمان بھیجا کہ وہاں کے

شہروں میں سرائیں (یعنی مسافر خانے) تعمیر کراؤ، جو مسلمان اُدھر سے گزریں ایک دن اور رات ان کی مہمان نوازی کرو، ان کی سواریوں کی حفاظت کرو جو مسافر مریض ہو اس کو دورات اور دودن مقیم رکھو۔ اگر کسی کے پاس گھر تک پہنچنے کا سامان نہ ہو تو اس قدر سامان کر دو کہ اپنے وطن میں پہنچ جائے۔ (اکال فی التاريخ، ج ۴ ص ۳۲۷)

عوامی لنگر خانہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک عام لنگر خانہ قائم کیا، جس میں تمام فقراء مساکین اور مسافروں کو کھانا ملتا تھا۔ (تاریخ دمشق ج ۴ ص ۲۱۸)

چراگا ہوں کو کھول دیا

ماتحت ممالک میں جو چراگا ہیں تھیں ان میں نفع کی سوا تمام چراگا ہوں کو عام کر دیا (الطبقات الکبری ج ۵ ص ۲۶۶) اور ان کے متعلق ایک عامل کو لکھا: فَمَا حُمِيَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا يَمْنَعُ أَحَدٌ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ فَأَبِحِ الْأَحْمَاءُ ثُمَّ أَبْحَهَا جَوْزَيْنِيں چراگاہ بنائی گئی ہیں تو جہاں جہاں برسات کا پانی گرے ان سے کسی کو نہ روکا جائے، اس لئے چراگا ہوں کو عام کر دو اور ضرور عام کر دو۔ (الطبقات الکبری ج ۵ ص ۲۹۶)

ضرورت مندوں کی تلاش

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی طرف سے ایک شخص باقاعدہ اعلان کیا کرتا: کہاں ہیں قرض دار؟ کہاں ہیں نکاح کی خواہش رکھنے والے؟

کہاں ہیں مساکین؟ کہاں ہیں یتیم؟ اور جب یہ لوگ مُنادی کرنے والے سے رابطہ کرتے تو وہ ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ (الہدایۃ والنہایۃ، ج ۶، ص ۳۴۰)

نابیناؤں، فالج زدوں اور یتیموں کی خیر خواہی

غلاموں کے نگران نے حاضر ہو کر ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے اخراجات مانگے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے غلاموں کی تعداد دریافت فرمائی تو بتایا گیا کہ اتنے ہزار غلام ہیں۔ آپ نے شام کے شہروں میں مکتوب روانہ کیا کہ نابیناؤں اور فالج زدوں کی تفصیلات بھیجی جائیں، جب معلومات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچیں تو ہر نابینا کو ایک اور دو فالج زدوں کو ایک خادم عطا کیا، اس کے بعد بھی کچھ غلام باقی تھے چنانچہ آپ نے یتیموں اور قرض داروں کی فہرست منگوائی اور ہر پانچ افراد کو ایک غلام عطا کر دیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۳)

اندھوں اور اپاہجوں کی دیکھ بھال کے لئے غلام عطا فرماتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس جب ”خُمُس“ لے کے غلام زیادہ ہو جاتے تو دو دو اپاہجوں کو خدمت کے لئے ایک غلام اور ہر نابینا کو

دینہ

۱: مسلمان جو مال کفار سے بطور قوت و غلبہ اور لشکر کشی کے حاصل کریں اس کو مالِ غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مالِ غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کئے جاتے ہیں اور پانچواں حصہ الگ کر دیا جاتا ہے جس کو خُمُس کہا جاتا ہے۔ (تفسیر نعیمی ج ۱۰ ص ۶، ۷ ملخصاً)

راہ دکھانے کے لئے ایک غلام دے دیا کرتے تھے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۸)

اپاہجوں کے وظائف مقرر کئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپاہجوں کے بھی وظائف مقرر کئے اور اس فیصلے پر اس شدت کے ساتھ عمل کیا کہ جو عامل اس کی خلاف ورزی کرتا تھا وہ معتبوب ہوتا تھا۔ ایک بار دمشق کے بیت المال سے ایک اپاہج کا وظیفہ مقرر کیا گیا تو ایک عامل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ حُسنِ سلوک تو کیا جاسکتا ہے لیکن تندرست آدمی کے برابر وظیفہ نہیں مقرر کیا جاسکتا، لوگوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں اس کی شکایت کر دی۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُس عامل کی خوب خبر لی۔

قطزدگان کی مدد

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے زمانے میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا تو عرب کے کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور عرض کی: 'یا امیر المؤمنین! ہم ایک شدید ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، فاقوں کے سبب ہمارے جسم کی چھری سُوکھ گئی ہے اور ہماری مشکل کا حل صرف بیٹ المال کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس مال کی حیثیت تین میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا تو یہ مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے یا پھر آپ کے لئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے، اگر بندگانِ خدا کے لئے ہے

تو اس میں سے ہمیں بھی دے دیجئے، اگر آپ کا ہے تو صدقے کے طور پر ہی ہمیں دے دیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زحکم دیا کہ ان لوگوں کی تمام ضروریات بیت المال سے پوری کی جائیں۔

(التبر المسبوك فی نصیحة الملوك، باب فی ذکر العدل والیساریۃ، ج ۱، ص ۲۲)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

حیا آتی ہے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولانا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں تاکید کی: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَارْسِلْ إِلَيَّ أَوْ اُكْتُبْ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَرَاكَ عَلِيٌّ بَابِي یعنی جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو کسی کی زبانی یا لکھ کر پیغام بھجوادیا کریں کیونکہ مجھے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ وہ آپ جیسی ہستی کو میرے دروازے پر کھڑا دیکھے۔

(باب السلك فی طبائع الملوك، ظہور العناویۃ بمن لحق، ج ۱، ص ۹۳)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بچوں کے وظیفے

ملک میں جتنے مسلمان تھے ان میں بچے بچے کا وظیفہ مقرر کیا، چنانچہ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ میں ۱۰۰ھ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے بازرگت دورِ خلافت میں پیدا ہوا تو میری دایہ مجھ کو گورنر ابو بکر بن حزم کی خدمت میں لے گئی اور انہوں نے مجھ کو ایک دینار دیا۔ اور پشم بن واقد کہتے ہیں کہ میں ۹۷ھ میں پیدا ہوا، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ بنے تو مجھے ان کی خلافت میں سالانہ تین دینار بطور وظیفہ ملے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۷)

ہر ایک کو برابر وظیفہ ملتا تھا

یہ وظائف تمام لوگوں کو مساوی ملتے تھے صرف آزاد شدہ غلاموں کے وظائف میں کچھ فرق تھا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۹۲) یہاں تک کہ جو لوگ ہمیشہ سے تفوق و امتیاز کے خوگر (یعنی عادی) تھے وہ اس مساوات کو دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے بالکل الگ ہو گئے۔

وظائف میں اضافہ ہوتا رہتا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز وظائف میں عرف و عادت کے مطابق اضافہ بھی کرتے رہتے تھے، چنانچہ ایک بار ہر ایک کے وظیفے میں دس دینار یا دس درہم کا اضافہ کیا جس سے سب لوگ یکساں طور پر مستفید ہوئے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۷) اس پرفیاض طرزِ عمل سے بیت المال کو سخت نقصان پہنچا،

چنانچہ بعض عمال نے ان کو اس طرف توجہ بھی دلائی لیکن امیر المؤمنین نے اس کی کچھ پروا نہیں کی بلکہ عمال کو یہاں تک لکھا: اَعْطِ مَا فِيهِ فَاذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ فَاَمْلَاهُ زُبْلًا یعنی جب تک خزانے میں رقم ہے دیتے چلے جاؤ، جب کچھ نہ رہے تو اس میں گھاس پھونس بھر دو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۴)

غریبوں کی امداد کے دیگر ذرائع

وظائف و عطیات کے علاوہ غربا و مساکین کی امداد و اعانت کے مختلف ذرائع بھی اختیار کئے مثلاً: (۱) تمام لوگوں کے لیے مساویانہ طور پر غلہ مقرر کیا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۷) (۲) غریبوں کے پاس جو کھوٹے سکے ہوتے تھے ان کی نسبت بیت المال کے افسروں کو لکھا کہ اگر یہ لوگ ان سکوں کو بدلنا چاہیں تو کھرے سکوں سے بدل دیئے جائیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۱۰)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

غلام کو آزادی کیسے ملی؟

حضرت سیدنا زید بن ابی زید مدینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں: ”مجھے میرے آقا ابن عباس بن ابی ربیع نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس اپنے کسی کام سے بھیجا۔ جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت ایک کاتب اُن کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ“ کہا اور

کاتب کو احکامات لکھوانے میں مصروف رہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کام سے فارغ ہوئے تو میرے سوا کمرے میں موجود تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ سردیوں کا موسم تھا میں نے اونی جبّہ پہنا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے سامنے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: ”واہ بھئی! تم سردیوں میں گرم جبّہ پہن کر کتنے پرسکون ہو۔“ پھر مجھ سے اہل مدینہ کے صالحین، بچوں، عورتوں اور مردوں کے متعلق حال دریافت کیا یہاں تک کہ ہر شخص کے بارے میں پوچھا۔ پھر مدینہ منورہ اذہا للہ شرفاً و تعظیماً کے حکومتی نظام کے متعلق پوچھا۔ میں نے تفصیل بتائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے غور سے ہر بات سنتے رہے پھر فرمایا: ”اے ابن زیاد! تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں!“ میں نے کہا: ”یا امیر المؤمنین! میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں خیر کی ہی امید رکھتا ہوں۔“ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے: ”افسوس! ہائے افسوس! کیسی خیر، کیا بھلائی! میں لوگوں کو ڈانٹتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں ڈانٹتا، میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کلمات دہراتے جاتے اور روتے جاتے یہاں تک کہ مجھے آپ پرتڑس آنے لگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری حاجات پوری فرمائیں اور میرے آقا کی طرف لکھ کر بھیجا: ”یہ غلام ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔“ پھر اپنے بستر کے نیچے سے بیس (20) دینار نکالے اور مجھے دیتے ہوئے فرمایا: ”یہ لو، انہیں اپنے استعمال میں لانا، اگر تمہارا

غنیمت میں حصہ بننا تو وہ بھی ضرور تمہیں دیتا لیکن کیا کروں تم غلام ہو اس لئے مال غنیمت میں تمہارا کچھ حصہ نہیں۔“ میں نے دینار لینے سے انکار کیا تو فرمایا: ”یہ میں اپنی ذاتی رقم میں سے دے رہا ہوں۔“ میں نے پھر انکار کیا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیہم (یعنی مسلسل) اصرار سے مجبور ہو کر مجھے وہ دینار لینے ہی پڑے۔ پھر میں واپس آ گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیغام میرے آقا کو ملا کہ ”یہ غلام ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔“ تو انہوں نے فرط عقیدت میں مجھے بیچنے کے بجائے آزاد کر دیا۔ یوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدير کی برکت سے مجھے آزادی نصیب ہو گئی۔ (عیون الحکایات، ص ۴۰۱)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمَكَ هُوَ أَوْ أَنْ يَكْفُرَكَ هُمَا بِحَسَابِ مَغْفِرَتِهِ هُوَ

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

ہر دل عزیز خلیفہ

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہے: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَىٰ

جِبْرِئِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِئِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِئِيلُ فِي أَهْلِ

السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضِّعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي

أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْنِي خَدَاءَ وَجَلَّ جَب كَسَى بِنْدَةٍ سَمَّجَت كَرْتَا هَس تَوَجْرَبِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمَّ كَهْتَا هَس كَه

میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس سے محبت

کرتے ہیں، پھر آسمان کے رہنے والوں میں منادی کرتے ہیں کہ خدَاعَزَّوَجَلَّ فلاں سے محبت رکھتا ہے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو دنیا میں مقبول عام بنا دیتا ہے۔ (بخاری، ج ۴، ص ۱۱۰، الحدیث ۶۰۴)

مقبولیت اور ہر دل عزیز کی بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، حسنِ اخلاق اور عدل و انصاف کی بدولت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمِہ کی کو یہی درجہ حاصل تھا، چنانچہ وہ ایک بار موسمِ حج میں میدانِ عرفات سے گزرے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حضرت سیدنا سہیل بن ابی صالح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ جو مذکورہ بالا حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے یہ حالت دیکھی تو اپنے والدِ محترم سے کہا کہ میرے خیال میں خدا عَزَّوَجَلَّ عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو محبوب رکھتا ہے، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ ہے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ (تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۱۴۵)

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کِی اُن پَر رَحْمَتِ هُو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب

مَغْفِرَتِ هُو۔ اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ملاحوں کی خیر خواہی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے مضر کے گورنر کو خط

لکھا کہ دریائے نیل کے کنارے شجر کاری نہ کی جائے کیونکہ اس سے ملاحوں کو کشتیوں

کانگر کھینچنے میں وقت پیش آتی ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۷)

سفر خرچ عطا کیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک مرتبہ خمس کے بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ان سے ایک شخص ملا اور پوچھا: **یا امیر المؤمنین!** کیا آپ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو شخص مظلوم ہے وہ آپ کے پاس آجائے؟ فرمایا: ہاں۔ اس نے عرض کی: تو پھر بہت دور سے ایک مظلوم آپ کے پاس حاضر ہوا ہے۔ دریافت فرمایا: کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرض کی: عدنان کا۔ فرمایا: تم پر کیا ظلم ہوا ہے؟ عرض کی: ایک شخص نے زبردستی میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے عدنان کے گورنر ”عروہ بن محمد“ کو لکھا: اس شخص کے دعوے کو سنو اور گواہوں کی بنیاد پر اس کا حق اسے دلاؤ۔ پھر مہر لگا کر یہ خط اس شخص کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو فرمایا: تم اتنی دور سے یہاں آئے ہو، یہ بتاؤ تمہارا خرچ سفر کتنا ہے؟ اس نے حساب لگا کر بتایا: گیارہ دینار۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ذاتی جیب سے گیارہ دینار تحفہ عطا کر دیئے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۱۳ ق ۲۳۲)

مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکم

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے عُمّال کو لکھا کہ مقروضوں کے قرضے بیت المال سے ادا کرو۔ عُمّال نے وضاحت چاہی کہ وہ مقروض جس کے پاس مکان، خادم، سواری اور گھر کا سامان موجود ہے کیا اُس کا قرض بھی بیت

المال سے ادا کیا جائے گا؟ فرمایا: ہر مسلمان کے پاس مکان کا ہونا ضروری ہے جس میں وہ سر چھپا سکے اور ایک خادم کا جو اُس کا ہاتھ بٹا سکے اور ایک گھوڑا جس پر سوار ہو کر وہ جہاد کر سکے اور گھر کے سامان کا جو اس کے کام آسکے اور اگر ان سب چیزوں کے باوجود کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض بیت المال سے ہی ادا کیا جائے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۴۰)

فوت شدگان کے قرض کی بیت المال سے ادائیگی

گورنر ابو بکر بن حزم کو یہاں تک لکھا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو، اس کا قرض بیت المال سے ادا کر دو بشرطیکہ وہ قرض کسی حماقت کی بنا پر نہ ہو۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۵۷)

عوام کی خوشحالی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز تقریباً اڑھائی سال یعنی 30 مہینے خلیفہ رہے مگر ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانتدارانہ تقسیم کے نتیجے میں ایک سال میں ہی لوگوں کے مالی حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ کوئی شخص بھاری رقم لاتا اور کسی اہم شخصیت سے کہتا کہ آپ کی نظر میں جو ضرورت مند ہوں، ان کو یہ مال دے دیجئے تو بڑی دوڑ دھوپ اور پوچھ گچھ کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی نہ ملتا جسے یہ مال دے دیا جائے، بالآخر اسے وہ مال واپس لے جانا پڑتا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۶۰۶ اور سیرت ابن جوزی ص ۹۴) **اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كِي اَنْ پَر رَحْمَتِ هُو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ امین بجاء النبی**

الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خوشحالی کی چند جھلکیاں

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دور

میں خوشحالی کا کس طرح دور دورہ ہو گیا تھا، اس کی چند مزید جھلکیاں ملاحظہ ہوں:

پُچھا

صدقہ لینے والے صدقہ دینے والے بن گئے

طبقات ابن سعد میں محمد بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حُکْم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے لیکن میں نے دوسرے ہی سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیا کرتے تھے وہ خود صدقہ دینے کے

قابل ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۸)

صدقہ دینے کے لئے فقیر نہیں ملا

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز

نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا میں نے صدقہ وصول کر کے

فقراء کو تلاش کیا کہ ان پر تقسیم کر دوں لیکن مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا کیونکہ حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا، لہذا میں نے صدقہ کی

رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیئے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۹)

اب ہم چارہ نہیں بیچتے

ایک بار مدینہ منورہ زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً سے کوئی شخص آیا اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس سے اہل مدینہ کے حالات پوچھے پھر دریافت کیا کہ اُن مسکینوں کا کیا حال ہے جو فلاں فلاں جگہ بیٹھتے تھے؟ اس شخص نے بتایا: ”اب وہ وہاں سے اٹھ گئے ہیں۔“ یہ وہ غریب لوگ تھے جو اپنی گزر بسر کے لئے مسافروں کو جانوروں کا چارہ بیچا کرتے تھے لیکن جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے زمانے میں اُن سے چارہ مانگا گیا تو کہنے لگے: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی عطاؤں نے ہمیں اس قسم کی تجارت سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۹۴)

مال میں برکت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے گورنر عبدالحمید بن عبدالرحمن کو لکھا کہ بیت المال سے لوگوں کو وظائف ادا کر دو۔ انہوں نے لکھا: میں نے وظائف دے دیئے ہیں لیکن بیت المال میں ابھی بھی مال باقی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا: ہر اُس مقروض کا قرض ادا کرو جس کا قرض کسی حماقت کی بنا پر نہ ہو۔ انہوں نے جواب میں لکھا: میں نے قرضے ادا کر دیئے ہیں لیکن مال ابھی بھی باقی ہے۔ فرمایا: اُن کنواروں کو تلاش کرو جو مُفلس ہوں اور ان کو شادی کے لئے اخراجات

مہیا کر دو، غرض کی: میں نے شادیاں کروادی ہے مگر مال ابھی بھی باقی ہے۔

(تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۲۱۳)

رعایا کی خوشحالی پر مسرت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی عادت تھی کہ سوار ہو کر شہر سے باہر نکل جاتے اور آنے جانے والے قافلوں سے مل کر ان سے مختلف علاقوں کے حالات دریافت فرماتے۔ ایک بار اسی مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خادم و مشیر خاص مزاحم کی معیت میں سوار ہو کر نکلے، انہیں ایک مسافر ملا جو مدینہ منورہ زادما اللہ شرفاً و تعظیماً سے آ رہا تھا، اس سے دریافت فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہے؟ مسافر بولا: آپ فرمائیں تو اجمالاً مختصر سی بات کہہ دوں اور فرمائیں تو ہر چیز الگ الگ تفصیل سے بیان کروں؟ فرمایا: بس مختصر ہی کہو۔ اس نے کہا: میں مدینہ پاک کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہاں ظالم بے بس اور مغلوب ہیں، مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، مالدار کے پاس دولت کی کمی نہیں اور تنگ دست بھی خوشحال ہے اور اس کی ضروریات اب خوب پوری ہو رہی ہیں۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بے حد خوش ہوئے اور فرمایا: واللہ! اگر تمام شہروں کی حالت یہی ہو تو یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۱)

نعمتوں کا شکر ادا کریں

عدی بن ارقاطہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کی خدمت میں خط لکھا کہ لوگوں کی خوش حالی اور مال کی فراوانی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان میں جھگڑے اور تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں لکھا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جب جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرمائے گا تو اہل جنت کے اس قول پر راضی ہو جائے گا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَعَدَهُۥٓ اِٰنِى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا بے حد شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔

لہذا اپنے یہاں کے لوگوں کو کہو کہ وہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا شکر کیا کریں (یعنی شکر کی برکت سے تکبر سے حفاظت رہے گی، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔)

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۸)

نعمت کی حفاظت کا طریقہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اَيُّهَا النَّاسُ قَيِّدُوا النِّعَمَ بِالشُّكْرِ یعنی نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۶)

نعمت کا ذکر بھی شکر ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: ذِكْرُ النِّعَمِ شُكْرٌ یعنی نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۶)

شکر کی توفیق ملنا بھی سعادت ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے ایک مکتوب میں لکھا: اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلٰی عَبْدٍ نُّعْمَةً فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَیْهَا اِلَّا كَانَ حَمْدُهُ اَفْضَلَ مِنْ نُّعْمَتِهِ یعنی جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور وہ بندہ اُس کی حمد کرے تو یہ حمد کرنا اس نعمت سے افضل ہے۔ (درمنثور ج ۶ ص ۳۳۳)

شکر کیسے کریں؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: شُكْرُ اللّٰهِ تَرَكُ الْمَعْصِيَةِ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی چھوڑ دے۔ (درمنثور ج ۱ ص ۳۷۱)

نیکی کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فَلِيْحَمْدِ اللّٰهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلِيْسْتَغْفِرِ اللّٰهَ یعنی نیکی پر اللہ کا شکر اور گناہ ہو جانے پر اس سے مغفرت طلب کرو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۳)

شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے ایک خط میں لکھا: میں تمہیں شکر کی ترغیب دیتا ہوں کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ اور ناشکری سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے، تم علم کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اسے جہالت پر

ترجیح نہ دو، اسی طرح حق کو نہیں پاسکتے جب تک باطل کو نہ چھوڑ دو۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۲)

بہن کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت

سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی بہن فوت ہو گئی، اُس کی تدفین کے بعد

لوگ آپ کے ساتھ گھر تک گئے، دروازے پر پہنچ کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے

فرمایا: آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو اس کا ثواب

عطا فرمائے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۴)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اُن پر رَحْمَتِ هُو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب

مَغْفِرَتِ هُو۔ اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

حضرت عمر بن عبدالعزیز بطور مُجَدِّد

حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرِ پانور،

فیض گنجر، شاہ غیور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اِنَّ اللّٰهَ

يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا تَرْجَمَ: بے شک

اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی (سوسال) کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو

اس دین کی تجدید کرے گا۔ (سنن ابوداؤد، الحدیث ۴۲۹۱ ج ۴ ص ۱۳۸)

شیخ الاسلام بدر الدین ابدال رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں، ”عُمُوًّا اِيسَا ہي ہوتا ہے کہ صدی کے ختم ہوتے ہوتے علمائے امت بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دینی باتیں مٹنے لگتی ہیں، بد مذہبی اور بدعت ظاہر ہوتی ہے، اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو ظاہر کرتا ہے جو ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان برائیوں کو سب کے سامنے علی الاعلان بیان کر کے دین کو آزر سرنو نیا کر دیتا ہے۔ وہ سلف صالحین کا بہتر عوض، خیر الخلف (یعنی اچھا جانشین) اور نعم البدل ہوتا ہے۔“ (حیات اعلیٰ حضرت ج ۳ ص ۱۲۶ بحوالہ رسالہ مرضیہ فی نصرۃ مذهب الاشعریۃ) تجدید دین کا معنی بیان کرتے ہوئے خلیفہ اعلیٰ حضرت، مَلِکُ الْعُلَمَاءِ، حضرت علامہ محمد ظفر الدین پہاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں: ”تجدید کے معنی یہ ہیں کہ ان میں ایک صفت یا صفتیں ایسی پائی جائیں، جن سے امت محمدیہ علی صاحبہما افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو دینی فائدہ ہو۔ جیسے تعلیم و تدریس، و عِظ، اَمْر بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں سے مکروہات کا دفع، اہل حق کی امداد۔“ (حیات اعلیٰ حضرت، ج ۳ ص ۱۲۴)

سلیمان بن عبد الملک کے زمانہ خلافت تک تاریخ اسلام پر پوری ایک صدی گزر چکی تھی، اس طویل عرصے میں اسلام کا نظام حکومت، نظام سیاست، نظام اخلاق اور نظام معاشرت تجدید چاہتا تھا جس کے لئے ایک مجتہد کی ضرورت تھی، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہم نے پہلی صدی میں غور و فکر کیا تو وہ مجتہد عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں اور دوسری صدی میں غور و فکر

کیا تو وہ امام شافعی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۷۴) یوں تو احوالیئے سنت و بقائے اسلام کے لیے انقلابی جدوجہد کرنے والی شخصیات ہر صدی میں اپنا فیضان عام کرتی ہیں لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدیر کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اسلام کے کل نظام یعنی مذہب، اخلاق، سیاست اور تمدن پر پورا اقتدار حاصل تھا، اس لیے انہوں نے ہر چیز کی تجدید و اصلاح کی۔

تدوین احادیث کا اہتمام

قرآن مجید کے بعد شریعی احکام کا ماخذ وہ مقدّس کلمات ہیں جو تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیثِ نبوی کی حفاظت و اشاعت ہے۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرف توجّہ نہ کی ہوتی تو شاید کتبِ حدیث کا یہ ذخیرہ وجود میں نہ آتا جو آج بخاری شریف، مسلم شریف، مؤطا امام مالک وغیرہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علمِ حدیث جاننے والے علماء کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے علومِ شریعیہ کے مٹ جانے کا بھی اندیشہ ہے تو انہوں نے قاضی ابوبکر بن حزم کو جو ان کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے لکھا: اَنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكُتِبْهُ فَاِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثًا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی احادیثِ نبویہ کی تلاش کر کے ان کو لکھ لو کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فنا ہونے کا خوف معلوم ہوتا ہے اور صرف رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی حدیث قبول کی جائے۔“ (فتح الباری، باب کیف يقبض العلم، ج ۲، ص ۱۷۶)

تمام گورنروں کو احادیث جمع کرنے کا کام سونپا

یہ حکم صرف مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظيماً اور اس کے گورنر کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ حضرت سپید ناعمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس اسی قسم کا فرمان بھیجا تھا۔ بہر حال اس حکم کی تعمیل کی گئی اور جمع شدہ احادیث کے متعلق مجموعے تیار کر کے تمام ماتحت ممالک میں تقسیم کئے گئے۔

حضرت سعد بن ابراہیم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: **أَمَرْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ فَكَتَبْنَا هَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا فَبَعَثَ إِلَيَّ كُلِّ أَرْضٍ لَهَا عَلَيْهَا سُلْطَانٌ دَفْتَرًا** ہم کو عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے جمع حدیث کا حکم دیا ہے اور ہم نے بہت ساری حدیثیں لکھیں اور انہوں نے ایک ایک مجموعہ ہر جگہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی بھیجا۔ (جامع بیان العلم وفضلہ، باب ذکر الرخص فی کتاب العلم، ص ۱۰۷)

اتباع سنت کی تاکید

حضرت سپید ناعمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: ”نعمی پاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے خلفائے راشدین کی بہت سے سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا گویا کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان میں تبدیلی کرنے کا کسی کو کوئی

حق نہیں، جو شخص ان سنتوں سے ہدایت حاصل کرے وہ ہدایت پر ہوگا جو ان سے مدد لے اس کی مدد ہوگی اور جو ان کو چھوڑ دے اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنائے تو وہ جدھر جاتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے اُسی طرف پھیر دے گا اور اسے جہنم میں ڈالے گا۔“ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے: احیائے سنت کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کا عَزْمُ مجھے بے حد پسند ہے۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۵)

سنت کی اہمیت

نبی مکرّم، نُورِ مُجْمَم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائوں کے حُصُول کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے عُیُوب، مُتَزَّہٍ عَنِ الْعُیُوب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ“ یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“

(جامع الترمذی، کتاب العلم، الحدیث: ۲۶۸۷، ج ۴، ص ۳۰۹)

سوشہیدوں کا ثواب

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرْوَر، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مَاؤَدَّ“

شہید یعنی فسادِ امت کے وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے سوشہیدوں کا ثواب عطا ہوگا۔‘ (کتاب الزهد الکبیر للبیہقی، الحدیث ۲۰۷، ج ۱، ص ۱۱۸)

دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا اُمت کو خدا یا رہ سنت پہ چلا دے
عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ ترے دین کا دُنیا میں بجا دے
(وسائلِ بخشش ص ۱۰۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ایسے نازک حالات میں کہ جب دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ذرائعِ ابلاغ میں فحاشی کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی ہے، نیز علمِ دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رُحمانِ صرف اور صرف دُنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے عدم واقفیت کی بنا پر جہالت کے باؤل منڈلا رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لئے تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی سے وابستہ ہونا بے حد مفید ہے۔ آپ کی ترغیب کے لئے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے، چُناچہ

شرابی کی توبہ

باب المدینہ (کراچی) کے علاقہ کھارادر کے مقیم اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے: ہمارے علاقے میں ایک انتہائی بدکردار شخص رہائش پذیر تھا۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت بدنام تھا، لوگ اسے بہت سمجھاتے مگر اس کے کانوں پر

جوں تک نہ رہتی۔ دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دن رات شراب کے نشے میں بدمست رہا کرتا۔ اس کے شب و روز نجر گناہ میں غوطہ زنی کرتے گزر رہے تھے کہ ایک دن کسی اسلامی بھائی نے اُسے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ اس کی خوش نصیبی کہ وہ اجتماع میں شریک ہو گیا۔ جونہی اجتماع میں شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کا سنتوں بھرا بیان شروع ہوا وہ سراپا اشتیاق بن گیا۔ جب رقت انگیز بیان کی تاثیر کانوں کے راستے اس کے دل میں اُتری تو وہاں سے فدا مت کے چشمے پھوٹ نکلے جو آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگے۔ خوفِ خدا عَزَّ وَجَلَّ کے سبب اس پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ بیان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک سر جھکائے زار و قطار روتا رہا۔ پھر اس نے شیخ طریقت، امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کے ہاتھ بیعت ہو کر حضورِ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے شراب کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اچانک شراب چھوڑنے کی وجہ سے اس کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، کسی نے مشورہ بھی دیا کہ شراب یک دم نہیں چھوڑی جاسکتی لہذا فی الحال تھوڑی بہت پی لیا کرو، تھوڑا سکون مل جائے گا پھر کم کرتے کرتے چھوڑ دینا، لیکن اس نے شراب پینے سے صاف انکار کر دیا اور تکلیفیں اٹھا کر شراب سے چھٹکارا پایا ہی لیا۔ پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کو

اپنا معمول بنالیا اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی سجائی۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول نے اس اسلامی بھائی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ دن بھر سنت کے مطابق سفید لباس میں ملبوس نظر آتے، ہفتے میں ایک دن علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہوتے۔ دعوتِ اسلامی کا مدنی کام کرنے کی برکت سے انہیں ایسی ملتساری نصیب ہوئی کہ جو کوئی ان سے ملتا، ان کا گرویدہ ہو جاتا۔

ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی انہیں ہسپتال میں داخل کروادیا گیا، کثرتِ تپے واسہال (دست) کی وجہ سے نڈھال ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب صحت یاب نہ ہو سکیں۔ شام کے وقت اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ان کی روح قفسِ عُصْرٰی سے پرواز کر گئی۔ جب انتقال کی خبر علاقے میں پہنچی تو ان سے محبت رکھنے والا ہر اسلامی بھائی اُداس اور مغموم دکھائی دینے لگا۔ اس مبلغِ دعوتِ اسلامی کے جنازے میں کثیر اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ اُن کی نماز جنازہ ان کے پیر و مُرشد، شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلبل محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ اسلامی بھائی مُرید کے جنازے پر مُرشد کی آمد پر فرطِ رشک سے اُشکبار ہو گئے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

علم دین کی اشاعت

احادیث کی تیز وین و ترتیب کے بعد دوسرا کام یہ تھا کہ ان کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کیا جائے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پیغام میں قاضی ابوبکر بن حزم کو اس طرف بھی توجہ دلائی اور لکھا: **وَلْتَفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا** یعنی لوگوں کو چاہیے کہ علم کی اشاعت کریں اور تعلیم کے لیے حلقہ درس میں بیٹھیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کیونکہ علم اس وقت تک نہیں برباد ہوتا جب تک کہ وہ مخفی نہ رکھا جائے۔ (فتح الباری، باب کیف یقتضی العلم، ج ۲، ص ۱۷۶)

خليفة کا پیغام علماء کے نام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے جعفر بن برقان کو خط کے ذریعے حکم فرمایا: اپنے علاقے کے فقہاء و علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا اسے اپنے اجتماعات اور مساجد میں پھیلائیں۔ (جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبدالبر، ج ۱، ص ۱۶۸، رقم ۵۵۶)

علم کے بغیر عمل کرنا خطرناک ہے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: **”مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلِحُ** یعنی جو کوئی علم کے

بغیر عمل کرتا ہے، وہ سنوار تا کم بگاڑتا زیادہ ہے۔“ (مُصَنَّف ابْنِ عَبَّاسٍ ج ۸ ص ۲۳۲ رقم ۱۹)

علم سیکھنے کے لئے سوال کرنے سے نہ شرماؤ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ فرمایا کرتے تھے: ”بہت کچھ

علم مجھے حاصل ہے، لیکن جن باتوں کے بارے میں سوال کرنے سے میں شرمایا تھا ان

سے آج بھی لاعلم ہوں۔“ (جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبدالبرج ص ۶۲۱ رقم ۳۱۴) یعنی پوچھنے سے

علم بڑھتا ہے لہذا علم کے بارے میں سوال کرنے سے شرمانا نہیں چاہئے۔

مُحَدِّثِین کی خدمت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے تدریس و اشاعت

علم میں مشغول علمائے کرام کے لئے بیٹ الممال سے بھاری وظیفے مقرر کر کے ان کو

قَلْبِ مَعَاش سے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا قاسم بن مُخِیمِرہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى علیہ ایک

مُحَدِّث تھے، جو نہایت تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے تھے، جب وہ حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کے پاس آئے تو ان کی جانب سے 90 دینار قرض ادا

کیا، رہنے کا مکان اور ایک خادم دیا اور 60 دینار وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے

ساتھ خدمت دین کر سکیں۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۶۹ ملخصاً)

30 دِزْہَم پيش كئے

ایک بار حضرت سیدنا مجاہد علیہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاحِدِ حضرت سیدنا عمر بن عبد

العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کو تیس دِزْہَم پيش كئے اور

کہا کہ یہ رقم میں نے اپنی جیب سے دی ہے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۱۲)

ہر ایک کو سودینا رپیش کیجئے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ختمص کے گورنر کو خط لکھا کہ ”آپ عوام میں ان لوگوں کو تلاش کیجئے جنہوں نے خود کو فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وقف کر رکھا ہے اور طلب دنیا سے منہ موڑ کر مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جیسے ہی میرا یہ خط ملے تو ان میں سے ہر ایک کو بیت المال سے سو سودینا روے دیجئے تاکہ فقہ کی تعلیم حاصل کرنے میں انہیں کوئی مشکل نہ ہو۔“

(تاریخ دمشق ج ۲۶ ص ۳۲۰)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

علمی مراکز قائم کئے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بہت سے ممالک کے لوگوں کی تعلیم کے لئے خود مستعد علماء کرام کو روانہ کیا، چنانچہ ﴿﴾ حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام اور مدینہ کے فقیہ تھے، ان کو مضر بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیں، چنانچہ حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں مدتوں قیام کیا۔ (حسن المحاضرة، ج ۱، ص ۲۵۸) ﴿﴾ حضرت سیدنا جعشل بن باعان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قرۃ میں تھے، ان کو مضر سے مغرب (یعنی یورپ) بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو قرأت کی تعلیم دیں۔ (حسن المحاضرة، ج ۱، ص ۲۵۸)

﴿بَدَّ وُؤُسَ كِي تَعْلِيمِ وَ تَرْبِيَةِ كِي لِیۡ حَضْرَتِ سَیِّدِنَا یَزِیْدِ بْنِ اَبِی مَالِكٍ وَ مَشَقِّ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ اَوْر حَضْرَتِ سَیِّدِنَا حَارِثِ بْنِ مَجِیْدِ اَشْعَرِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ كُو مُتَعَدِّن كِیَا، اَوْر اِن كِي وَ ظِنْفِن مَقْرَر كِنَی (سیرت ابن جوزی ص ۹۲)﴾ تَعْلِيمِ كِي عِلَاوَه لُو كُو كِي اِصْلَاح كِي لِیۡ تَمَام مَمَالِكِ مَحْرُوسَه مِیْل وَا عِظَا اَوْر مُفْتِی مَقْرَر كِنَی چِنَا نچَ حَضْرَتِ حِلَاجِ اَبُو كِثْرَامُو ی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوَالِی كُو جُو اُن كِي بَاپ كِي مَوَالِی (یعنی آزا كِر دِه غلام) تَحَّ، اِسْكَندَرِیَه كَا وَا عِظَا مَقْرَر كِیَا۔ (حَسَنِ المَحَاضِرَه ج ۱ ص ۲۲۲)﴾ حَاز مِیْل جُو وَا عِظَا اِس خِدْمَتِ پَر مَامُور تَحَّ اِن كُو هِدَایَتِ تَحَّ كِي كِی سِرَی دِن لُو كُو كُو وَا عِظَا وَ نَصِیحَتِ كِیَا كِرِی۔ (سیرت ابن جوزی، ص ۹۰)﴾ اِفْتَا ءِ كِي خِدْمَتِ پَر مُتَعَدِد لُو كُو مَامُور تَحَّ جُو كِی تَا رُز كَار تَحَّ، مِثْلًا مُضَر مِیْل یَیَ مَه دَارِی حَضْرَتِ سَیِّدِنَا یَزِیْدِ بْنِ اَبِی حَمِیْبِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ كِي تَحَّ، اَوْر یَه وَ ه بَز رَگِ هِیْل جَنهُو كِنَی سَب سَه پَهْلَه اَهْلِ مُضَر كُو نَفَقَه وَ حَدِیثِ سَه اَشْنَا كِیَا چِنَا نچَ عِلَامَه جَلَالِ الدِّیْنِ سِیو طِی شَا نَعِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ البَا دِی حَسَنِ المَحَاضِرَه مِیْل لَكْهَتَه هِیْل: هُو اَوَّلُ مَنْ اَظْهَرَ الْعِلْمَ بِمِصْرٍ وَ الْمَسَائِلِ فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ قَبْلَ ذٰلِكَ كَانُو اِیْتَحَدُّوْنَ فِی التَّرغِیْبِ وَ الْمَلَا حِمِّ وَ الْفِتَنِ وَ هُو اَحَدُ ثَلَاثَةِ جَعَلَ اِلَیْهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ الْفُتَّیَا یعنی حَضْرَتِ سَیِّدِنَا یَزِیْدِ بْنِ اَبِی حَمِیْبِ (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ) وَ ه پَهْلَه شَخْصِ هِیْل جَنهُو كِنَی مُضَر مِیْل عِلْمِ كُو شَا نَعِی كِیَا اَوْر حِلَالِ وَ حَرَامِ كِي مَسْأَلِ عَام كِنَی، اِس سَه پَهْلَه وَ هَا كِي لُو كُو صَرَفِ تَرْغِیْبِ اَوْر جَنگِ وَ غِیْرَه كِي مُتَعَلَقِ بَیَانَاتِ كِر تَحَّ اَوْر یَه اُن تِیْنِ اَشْخَاصِ مِیْل سَه هِیْل جِن كُو حَضْرَتِ سَیِّدِنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ نَی اِفْتَا ءِ كِي خِدْمَتِ

کے لئے بھیجنا تھا۔ (حسن المحاضرة، ج ۱، ص ۲۵۹)

علماء کا اثر و رسوخ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دور حکومت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں علماء کا رسوخ و اقتدار بہت زیادہ ترقی کر گیا، وہ ہمیشہ علماء سے مشورہ لیتے تھے، علماء سے صحبت رکھتے تھے اور علماء کو مقرب بارگاہ بناتے تھے، متعدد علماء ان کے خواص میں تھے، چنانچہ عدی بن اریطہ کو جو ہمیشہ شرعی امور میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، لکھا: ”گرمی اور سردی میں تم ہمیشہ ایک مسلمان کو تکلیف دیتے ہو کہ مجھ سے سنت کے متعلق استفسار کرے، تم اس طریقے سے میری تعظیم کرتے ہو، خدا عزوجل کی قسم! حضرت حسن بصری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) تمہارے لیے کافی ہیں، جب یہ خط پہنچے تو میرے لیے، اپنے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے انہی سے استفسار کیا کرو، خداوند تعالیٰ حضرت حسن بصری (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) پر رحم کرے کہ وہ اسلام میں ایک بڑے درجہ کے شخص ہیں، لیکن ان کو میرا یہ خط نہ دکھانا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۱۲۱)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

فِنِ مَغَازِيْ اَوْرِ مَنَاقِبِ صَحَابِهِ كِي تَعْلِيْمِ وَاِشَاعَتِ

بیان مغازی (یعنی غزوات کے بیان) اور مناقب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی

طرف اب تک علمی حیثیت سے کسی نے توجہ نہیں دی تھی، حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے خاص طور پر ان کی طرف توجہ کی اور حضرت سیدنا عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مغازی اور سیرت میں کمال رکھتے تھے، ان کو درخواست کی کہ مسجد دمشق میں بیٹھ کر مغازی اور مناقب کا درس دیں۔

(تاریخ دمشق، ج ۲۵ ص ۲۷۷)

یونانی تصنیفات کی اشاعت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کا مقصود اصلی اگرچہ کتاب و سنت کی اشاعت کرنا تھا اور انہوں نے ہر ممکن تدبیر سے اس کی اشاعت بھی کی، تاہم غیر قوموں کے مفید علوم و فنون سے بھی انہوں نے مسلمانوں کو بالکل بیگانہ نہیں رکھا۔ طب میں ایک یونانی حکیم ”اہرن لاقس“ کی ایک مشہور کتاب تھی جس کا ترجمہ ”ماسر جیس“ نے مروان بن حکم کے زمانہ میں عربی زبان میں کیا تھا۔ یہ کتاب شامی کُتُب خانہ میں محفوظ تھی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اس کو دیکھا تو چالیس روز تک استخارہ کیا پھر اس کو ملک میں شائع کیا۔

(عیون الانباء فی طبقات الاطباء، جز ۱ ص ۱۳۸)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

نماز کی تاکید

عقائد کے بعد اعمال کا درجہ ہے، جن میں سب سے مُقَدِّم نماز ہے، پہلے کے حکام بالانے نماز کے ساتھ جو غفلت برتی اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اوقات نماز کی

پابندی جو صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے زمانے میں نہایت ضروری چیز خیال کی جاتی تھی بالکل جاتی رہی لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے تمام عُمَل کے نام ایک فرمان بھیجا: **اجْتَنِبُوا الْأَشْغَالَ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَمَنْ أَضَاعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَشَدُّ تَضْيِيعًا** نماز کے وقت تمام کام چھوڑ دو کیونکہ جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اس کے علاوہ دیگر فرائض اسلام کا بھی بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ (طیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۴۹)

قرآن میں 90 سے زیادہ بار نماز کا تذکرہ ہے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے کیونکہ نماز میں توحید و رسالت کی گواہی ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، دوران نماز کھانے پینے کو ترک کرنا اور نفسانی خواہشوں سے باز رہنا ہے اور ان امور میں حج اور روزے کی طرف اشارہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، **اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ** کی حمد و تسبیح اور اس کی تعظیم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، آخر میں سلام کے ذریعے مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دُعا ہے، اخلاص ہے، **خوفِ خدا** ہے، تمام بُرے کاموں سے بچنا ہے، شیطان سے، نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے، **اعتِ کاف** ہے، **اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ** کی نعمتوں کا بیان ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف اور توبہ

وِاسْتِغْفَارِ هُوَ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مُرَاقِبَہ ہے، مُجَابَدَہ ہے، مُشَاهَدَہ ہے اور مَوْمِن کی معراج ہے۔ قرآنِ کریم میں نوے (90) سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذِکْر کیا گیا ہے، اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے، یہ صرف نماز کی نُصُوصِیَّت ہے کہ وہ امیر و غریب، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، صِحَّت مند اور بیمار ہر ایک پر یکساں فَرَض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقِط نہیں ہوتی، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنا ہوگی، حالتِ جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اُتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھنے کا حَکْم ہے۔

نماز سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے

نماز انسان کی ہر حالت دُرست کرتی ہے، بُرے کاموں سے بچاتی ہے یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدقِ دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو ربِ عَزَّ وَجَلَّ کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ نماز صد ہا بیماریوں کا علاج ہے اس وقت کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جُون (یعنی پاگل پن) وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے نیز بیخِ وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لئے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے اسی لئے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حَکْم دیا، بارش نہ ہو تو نمازِ اِسْتِغْفَا پڑھو،

سورج یا چاند کو گرہ ہن لگے تو نمازِ کُوف (یا نمازِ حُوف) پڑھو، کوئی حاجت دَر پُیش ہو تو نمازِ حاجت پڑھو۔ غرضیکہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۲۷)

عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی

پڑھوں سنتِ قَبْلَیَّہِ وقت ہی پر

ہوں سارے نوافل ادا یا الہی

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

نَمَازِ جَمْعَہِ پڑھ کر جانا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِ نے انفرادی طور پر لوگوں کو نماز کی پابندی کی طرف توجہ دلائی، چنانچہ ایک شخص کو کوئی ذمہ داری دے کر مضر روانہ کرنا چاہا، اس نے جانے میں دیر کی تو آدمی بھیج کر بلوایا وہ آیا تو انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا: گھبراؤ نہیں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھے بغیر یہاں سے نہ جانا، ہم نے تمہیں ایک فوری کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ عجلت تم کو اس پر نہ آمادہ کرے کہ نماز کو وقت گزار کر پڑھو، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس قوم کے بارے میں جس نے نماز کو برباد کر دیا اور شہوت پرستی کی، فرمایا:

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿۵۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: عنقریب وہ دوزخ

میں غی کا جنگل پائیں گے۔ (پ ۱۶، مریم: ۵۹)

ان لوگوں نے نماز کو بالکل تڑک نہیں کر دیا تھا بلکہ اس کے وقت کی پابندی چھوڑ دی تھی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۶)

مؤذنین کے وظائف مقرر کئے

ان ہدایات کے علاوہ ملک میں ہر جگہ عملی طور پر نماز کا اہتمام کیا اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں، تاریخ دمشق میں کثیر بن زید سے روایت ہے: قَدِمْتُ خَنَاصِرَةَ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَرَأَيْتُهُ يَرْزُقُ الْمُؤَذِّنِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

میں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دورِ خلافت میں خناصرہ آیا تو دیکھا کہ وہ مؤذنین کو بیت المال سے وظیفہ دیتے ہیں۔ (تاریخ دمشق ج ۵۰ ص ۲۱)

زکوٰۃ و صدقہ

اگرچہ حضرت سپید ناعمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خلافت کی یہ برکت تھی کہ جب لوگوں کو ان کے خلیفہ ہونے کی خبر ہوئی تو نہایت سرعت و دیانت سے صدقہ فطر ادا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کے ایک عامل نے لکھا کہ اب بہت سا صدقہ فطر جمع ہو گیا ہے اپنی رائے سے اطلاع دیجئے کہ اس کو کیا کیا جائے (سیرت ابن جوزی ص ۱۰۵)، تاہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی نہایت شدت کے ساتھ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہتے تھے، ایک بار خناصرہ میں عید سے ایک دن پہلے جمعہ کے روز خطبہ دیا جس میں لوگوں کو نماز عید سے پہلے ہی صدقہ فطر دینے کی ترغیب دی تو لوگ صدقہ فطر کے طور پر سٹولاتے اور حضرت سپید ناعمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ

الْعَزِيزُ قَبُولِ كَرْتِي جَاتِي تَحْتِي۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵ ص ۲۸۱)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِي أَنْ پَر رَحْمَتِ هُوَ أَوْرَانِ كِي صَدَقَةِ هَمَارِي بِي حَسَابِ

مَغْفِرَتِ هُوَ۔ اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

لہو ولعب اور نوحہ کی ممانعت

شریعت نے جن چیزوں کی ممانعت کی ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزُ نے ان کی سختی سے روک تھام کی۔ ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان لہو ولعب میں مصروف ہو گئے ہیں اور عورتیں جنازے کے ساتھ بال کھولے ہوئے نوحہ کرتی ہوئی نکلتی ہیں تو عمال کے نام ایک فرمان بھیجا، جس کا خلاصہ یہ ہے: ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ سفہاء (یعنی بے وقوفوں) کی عورتیں مردے کی وفات کے وقت بال کھولے ہوئے اہل جاہلیت کی طرح نوحہ کرتی ہوئی نکلتی ہیں، حالانکہ جب سے عورتوں کو آنچل ڈالنے کا حکم دیا گیا ان کو دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، پس اس نوحہ و ماتم کی روک تھام کرو اور مسلمانوں کو لہو ولعب اور راگ باجے وغیرہ سے روکو، پھر بھی جو باز نہ آئے اس کو اعتدال کے ساتھ سزا دو۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۸۹)

انسداد شراب نوشی

شراب کو حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اُمُّ الْخَبَائِثِ یعنی تمام گناہوں کی جڑ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حرام فرمایا اور حدیثوں میں بھی کثرت سے اس کی حرمت اور مخالفت کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يَرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَابْتِغَاءِ الْمَالِ الْغَيْرِ الْحَلَالِ
 وَإِذَا شَرَبْتُمْ فَسُوِّءُ السُّبُحِ
 وَالْحَقُّ كَرِيمٌ ﴿٩١﴾

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو
 شراب اور جو اور بت اور پانسے
 ناپاک ہی ہیں شیطان کام تو ان سے
 بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ شیطان یہی
 چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی
 ڈلو اور شراب اور جوئے میں اور
 تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو
 کیا تم باز آئے۔

(پ۷، المائدہ: ۹۰، ۹۱)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر
 لعنت فرمائی۔ {۱} شراب نچوڑنے والے پر {۲} شراب نچڑوانے والے پر {۳}
 شراب پینے والے پر {۴} شراب اٹھانے والے پر {۵} اُس پر جس کی طرف شراب
 اٹھا کر لے جائی گئی۔ {۶} شراب پلانے والے پر {۷} شراب کی قیمت کھانے
 والے پر {۸} شراب بیچنے والے پر {۹} شراب خریدنے والے پر {۱۰} اس پر
 جس کیلئے شراب خریدی گئی ہو۔ (سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب النهی ان یتخذ
 الخمر خلا، الحدیث ۱۲۹۹، ج ۳، ص ۴۷۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الاشربة، باب

لعنت الخمر علی عشرة اوجه، الحدیث ۳۳۸۱، ج ۴، ص ۶۵)

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے شراب نوشی کے اسناد کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کیں مثلاً شرابیوں کو سزائیں دیں، ذمیوں کو شہروں میں شراب لانے سے روک دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۸۶)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

عورتوں کو حمام میں جانے سے روک دیا

مذہب اور اخلاق کے متعلق اور بھی بہت سے احکام تھے جن کی خلاف ورزی غلط نتائج پیدا کر سکتی تھی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ان تمام جزئیات کی طرف توجہ کی اور ان سے مسلمانوں کو روکا مثلاً: عجمیوں کی آمیزش و اختلاط سے ممالک اسلامیہ میں حماموں کا رواج ہو گیا تھا اور اس میں مرد و عورت بیباکانہ جاتے اور غسل کرتے تھے لیکن اس میں ستر عورت کا انتظام نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے عورتوں کو حمام میں جانے سے بالکل روک دیا اور مردوں کی نسبت عام حُکْم دیا کہ بغیر تہبند کے حمام میں غسل نہ کریں، چنانچہ اس حُکْم پر اس شدت کے ساتھ عمل ہوا کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حمام کے مالک اور حمام میں جانے والی دونوں کو دیکھا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح حماموں کی دیواروں پر تصویریں بنائی جاتی تھیں جو اصول شریعت کے خلاف تھیں، ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک حمام میں اس قسم کی

تصویر دیکھی تو مثال نے کا حکم دیا اور فرمایا: لَوْ عَلِمْتُ مَنْ عَمِلَ هَذَا لَأَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا يَعْنِي
اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کس نے بنائی ہے تو میں اس کو سزا دیتا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۹۸)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرَحْمَتِ هُوَ أَوْرَانِ كَيْ صَدَقَ هَمَارِي بِي حَسَابِ

مَغْفِرَتِ هُوَ - اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلٰى مُحَمَّد

امير المؤمنين اور دعوت اسلام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنی زندگی کا ایک

اہم مقصد دعوتِ اسلام کو قرار دیا اور اس پر ہر قسم کی مادی اور اخلاقی طاقت صرف کی جو

افسوس کے ساتھ معرکہ آراء تھے اُن کو ہدایت کی: لَا تَقْتُلَنَّ حِصْنَانِمْ حِصُونِ الدُّوْمِ

وَلَا جَمَاعَةً مِّنْ جَمَاعَاتِهِمْ حَتَّىٰ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْاِسْلَامِ رومیوں کے کسی قلعہ اور کسی

جماعت سے اُس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہ دے

لو۔ (طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۲۷۴) لوگوں کو تالیفِ قلبی کے لیے بڑی بڑی رقمیں دے کر

اسلام کی طرف مائل کیا، چنانچہ ایک بار کسی شخص کو اس غرض سے ہزار اشرفیاں دیں۔

(طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۲۷۰)

دیگر بادشاہوں کو دعوتِ اسلام

شہانِ ماوراء النہر کو اسلام کی دعوت دی اور اُن میں بعض نے اسلام قبول

کیا، چنانچہ فتوح البلدان میں ہے: كَتَبَ اِلَى مَلُوْكِ مَاوْرَاةِ النَّهْرِ يَدْعُوهُمْ اِلَى

اَلْاِسْلَامِ فَاَسْلَمَ بَعْضُهُمْ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ
مَا دَرَاءَ النَّهْرِ كَے بادشاہوں کو دعوتِ اسلام دی اور ان میں بعض اسلام لائے۔

(فتوح البلدان، ج ۳ ص ۵۳۴)

سندھی حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پیش کی

سندھ کے حکمرانوں کے نام بھی دعوت نامہ روانہ کیا، چونکہ وہ لوگ ان کے
حُسنِ اخلاق کی شہرت پہلے سے سُن چکے تھے اس لئے بہت سے بادشاہوں نے اسلام
قبول کر لیا، علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں: انہوں نے بادشاہوں کو اسلام کی اس شرط پر
دعوت دی کہ ان کی بادشاہی میں کوئی خلل نہ آئے گا اور جو حُقوقِ مسلمانوں کے ہیں
ان کو ملیں گے اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں وہ ان پر عائد ہوں گی۔
چونکہ تمام بادشاہوں کو ان کے کردار کا حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے جیشہ اور دوسرے
بادشاہ اسلام لائے اور اپنا نام عمر بنی رکھا۔ (اکال فی التاریخ، ج ۴، ص ۳۲۳)

چار ہزار ذمیوں نے اسلام قبول کر لیا

جراح بن عبداللہ حکمی کو جو خراسان کے عامل تھے، لکھا کہ ذمیوں کو اسلام
کی دعوت دیں اور وہ اسلام لائیں تو ان کا جزیہ معاف کر دیں۔ انہوں نے اس حکم کی
تعمیل کی اور ان کے ہاتھ پر چار ہزار ذمی اسلام لائے، جراح کے حُسنِ اخلاق کی شہرت
پھیلی، تو ان کے پاس تبت سے وفد آئے کہ ان کے یہاں مبلغین روانہ کریں، چنانچہ
اس غرض سے انہوں نے سلیط ابن عبداللہ الممتعی کو روانہ کیا۔

مغرب والوں کو دعوتِ اسلام

اسمعیل بن عبداللہ بن ابی المہاجر جو مغرب (یورپ) کے عامل تھے، اگرچہ وہ خود بھی اس خدمت میں مصروف تھے اور مسلسل غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا دعوت نامہ پہنچا اور اسمعیل نے پڑھ کر سنایا تو اس کا اس قدر اثر ہوا کہ اسلام تمام مغرب کے افق پر چھا گیا، علامہ بلاذری لکھتے ہیں: پھر جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا دور آیا تو انہوں نے اسماعیل بن عبداللہ بن ابی المہاجر کو مغرب کا گورنر مقرر کیا، انہوں نے نہایت عمدہ روش اختیار کی اور بربر کو اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے نام دعوت نامہ روانہ کیا، اسمعیل نے یہ دعوت نامہ اُن کو پڑھ کر سنایا تو اسلام مغرب پر غالب ہو گیا۔ (فتوح البلدان، ج ۱، ص ۲۷۳) اُن کے زمانہ میں اشاعتِ اسلام کا سب سے زیادہ موثر سبب یہ ہوا کہ حجاج کی ظالمانہ روش کے مطابق نو مسلموں سے اب تک جو چیز یہ وصول کیا جاتا تھا، انہوں نے اس سے ان کو بالکل بری کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بکثرت اسلام لائے۔

ہماری حیثیت کا شکر کی سی رہ جائے

ایک بار عدی بن ارقطہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو لکھا کہ اس کثرت سے لوگ اسلام لارہے ہیں کہ مجھے خراج میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہے، انہوں نے ان کو جواب دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ

مسلمان ہو جائیں اور ہماری اور تمہاری حیثیت صرف ایک کاشتکار کی رہ جائے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۰)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ انْ كَىٰ صَدَقَ هَمَارَىٰ بَىٰ حَسَاب

مَغْفِرَتِ هُوَ - 'امین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلٰى مُحَمَّد

حَسَن ظَن رَکھو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرمایا کرتے: اَحْسِنُ

بِصَاحِبِكَ الظَّنَّ مَا لَمْ يَغْلِبْكَ لِعْنَىٰ اِنِّ بَهَائِىٰ كَىٰ بَارَىٰ مِىں اِس وَاَقْت تَك حَسَن

ظَن رَکھو جب تک تمہیں ظن غالب نہ ہو جائے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۵)

شَرِیْعَتِ پَر عَمَلِ كِى تَرْغِیْبِ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ایک مکتوب میں لکھا:

بے شک اسلام کی کچھ حدو ہیں اور کچھ احکام اور سنتیں، تو جس نے ان سب پر عمل کر

لیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا اور جس نے عمل نہیں کیا اس کا ایمان نامکمل رہا، پس

اگر میں زندہ رہا تو یہ سب چیزیں تمہیں سکھاؤں گا بھی اور عمل کی ترغیب بھی دوں گا لیکن

اگر اس سے پہلے میرا وقتِ رخصت آپہنچا تو میں تمہاری صحبت کا حریص نہیں ہوں۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۳)

اصلاح کا انداز

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَالِقِ نے ایک مرتبہ عرض کی: حضور! میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کئی ایسے کام مؤخر کر دیئے ہیں جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اگر آپ کو ایک گھڑی کے لئے بھی حکومت ملی تو انہیں کر ڈالیں گے، میرا مشورہ ہے کہ چاہے نتائج کچھ بھی نکلیں آپ ان کاموں کو ہاتھوں ہاتھ کر ڈالئے۔ اس مخلصانہ مشورے پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اپنے شہزادے کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا: دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی بات پر آمادہ کرنا میرے بس میں نہیں جب تک میں اس کے ساتھ تھوڑی سی دُنیا نہ ملا دوں، میں ان کے دلوں کو نرم کر کے اصلاح کرنا چاہتا ہوں ورنہ مجھے ڈر ہے کہ ایسے فتنے کھڑے ہو جائیں گے جنہیں دُور کرنا میرے لئے ممکن نہ ہوگا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۱)

دوسروں کی اصلاح کے لئے اپنی آخرت برباد نہ کرو

یونہی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: مَنْ لَّمْ يُصْلِحْهُ إِلَّا الْعُشْمُ فَلَا يُصْلِحُ، وَاللّٰهُ لَا أُصْلِحُ النَّاسَ بِهَلَاكِ دِينِيْ، یعنی جس شخص کی اصلاح ظلم کئے بغیر نہیں ہو سکتی، چاہے اس کی اصلاح نہ ہو مگر میں اپنا دین برباد کر کے لوگوں کی اصلاح کے درپے نہیں ہوں گا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۲)

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کے اس ارشادِ پاک میں

نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ رکھنے والے مبلغین کے لئے زبردست مددنی پھول ہے کہ کسی کی اصلاح کی کوشش کے دوران خود کو گناہ میں پڑنے سے بچانا چاہئے جیسا کہ اگر کوئی اس کے بار بار ترغیب دلانے پر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب وہ دوسروں کے سامنے اس کی غیبتیں کر کے گناہ گار اور نارِ جہنم کا حقدار نہ بنے مثلاً یوں نہ کہے کہ ”فلاں بہت ڈھیٹ ہے ہزار بار سمجھایا کہ نماز پڑھا کرو مانتا ہی نہیں“، وغیرہ۔

اصلاح میں رُکاوٹیں

حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد خولانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِي كَا بِيَانِ هے كِه
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ فرمایا کرتے تھے: کاش! میں تمہارے معاملہ میں کتاب اللہ پر مکمل طور پر عمل کر سکتا اور تم لوگ بھی اس پر عمل کرتے، ابھی تو یہ حال ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک سنت کو نافذ کرتا ہوں تو گویا میرے جسم کا ایک عضو جھڑ جاتا ہے، بالآخر اسی میں میری جان نکل جائے گی۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۲۵)

پُچھل خور کی اصلاح

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ كِي خِدْمَتِ
بَابِرَكَتِ مِيں اِيك شَخْصِ حَاضِرِ هُوَا اُوْر اُسْ نِي كَسِي كِي بَارِي مِيں كُوْنِي مَنْقِي
(NEGATIVE) بَاتِ كِي۔ اُپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰي عَلَيْهِ نِي فَرْمَايَا: اِگَر تَمَّ چَا هُو تُو هَم
تَمَّهَارِي مُعَامَلِي كِي تَحْقِيقِ كَرِيں! اِگَر تَمَّ جَهْوِي نُكَلِي تُو اِسْ آيَتِ مَبَارَكِي كِي مَصْدَاقِ

قرار پاؤ گے:

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

ترجمہ کنزالایمان: اگر کوئی فاسق

(پ ۲۶، الحجرات ۶) تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔

اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی:

هَبَانَا مَشَاءً بِبِسْمِ اللَّهِ

ترجمہ کنزالایمان: بہت طعنے دینے

(پ ۲۹، القلم ۱۱) والا بہت ادھر کی ادھر لگتا پھرنے والا۔

اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں! اُس نے عرض کی یا امیر المؤمنین!

مُعَاف كَرْدِيَجَبْ آيِنْدَه مِيس ايسا (يعني غيبتيں اور چغلیاں) نہیں کروں گا۔ (احیاء العلوم ج ۳

ص ۳۹۱) اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ اُنْ پَر رَحْمَتِ هُو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت

هو۔ اَمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

محبتوں کے چور

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! لوگوں میں فساد کروانے کے لئے اُن کی باتیں

ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ (شرح مسلم للنووی ج ۱، ص ۱۱۳) چغل خور

محبتوں کا چور ہے، بُرگان دین رَحْمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن فرماتے ہیں: عَقْلُوں کے دشمنوں

اور مَحَبَّتُوں کے چوروں سے بچو، یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے

والے ہیں اور چور تو مال چراتے ہیں جبکہ یہ (غیبیوں اور چغلیاں کرنے والے) لوگ

محبتیں چراتے ہیں۔ (الْمُسْتَظْرَف ج ۱ ص ۱۵۱) آج ہمارے معاشرے میں محبتوں

کی فضا آلودہ ہونے کا ایک بڑا سبب چغلی خوری بھی ہے، لوگوں کے درمیان چغلیاں کھا کر فساد برپا کر کے اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کرنے والے کو کل جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا، جیسا کہ نبیؐ آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: چار طرح کے جہنمی جو کہ **حَمِيمٌ** اور **جَحِيمٌ** (یعنی کھولتے پانی اور آگ) کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور (یعنی حلاکت) مانگتے ہونگے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے: اس بد بخت کو کیا ہوا ہماری تکلیف میں اضافہ کئے دیتا ہے؟ کہا جائے گا: یہ ”بد بخت“ لوگوں کا گوشت کھاتا (یعنی غیبت کرتا) اور **چغلی** کرتا تھا۔ (ذم الغیبت لابن ابی الدنیا ص ۸۹، رقم ۴۹) **میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** اگر کبھی زندگی میں یہ گناہ ہوا ہو تو توبہ کر کے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم چغلی کھائیں گے نہ سنیں گے، ان شاء اللہ عزوجل۔

سنوں نہ فُحش کلامی نہ غیبت و چغلی
تری پسند کی باتیں فقط سنایا رب

(وسائلِ بخشش، ص ۹۳)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

دیوار پر قرآن لکھنا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز روایت کرتے ہیں کہ

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کسی جگہ سے گزرے تو زمین پر کچھ لکھا

ہو ادیکھا تو ایک نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی: ”یہ کتاب اللہ ہے، ایک یہودی نے یہاں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسا کرنے والے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت ہو، کتاب اللہ کو اس کے مقام و مرتبے پر ہی رکھو۔ محمد بن زبیر کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے ایک بیٹے کو دیوار پر قرآن لکھتے ہوئے دیکھا تو اس کی پٹائی لگائی۔

(تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۰)

مَدَنی پھول: فقیر ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی

علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: ”مسجد کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیتیں لکھنا جائز ہے لیکن نہ لکھنا بہتر ہے اس لئے کہ ان آیات قرآنیہ پر جس جگہ سے اڑتی ہوئی دھول وغیرہ آئے گی نیز مٹی، چونا جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے زمین پر گرے گا اور پاؤں کے نیچے گرے گا جس سے بے ادبی ہوگی۔ (فتاویٰ فقیر ملت ج ۱ ص ۱۹۶)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

اپنے اہل و عیال کو رزقِ حلال ہی کھلاؤ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے جمعہ بن حارث

سے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے گھر والے تم سے کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی: وہ میرا بھلا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: نہیں! وہ تمہارے مال سے محبت کرتے ہیں، جسے وہ کھاتے ہیں مگر اس کا بوجھ تمہارے سر آئے گا، لہذا رب عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور انہیں

صرف حلال و پاکیزہ روزی کھلاؤ۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۶ ملتقطاً)

کیوں روتے ہو؟

ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس کے بچے، زوجہ اور ماں باپ ارد گرد ڈکھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا: ”ابا جان! آپ کو کس چیز نے رُلا یا؟“ کہنے لگے: ”میرے جگر کے ٹکڑے اُجدائی کا غم رُلا رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟“ اس شخص نے اپنی والدہ سے پوچھا: ”پیری امی جان! آپ کیوں رورہی ہیں؟“ ماں نے جواب دیا: ”میرے لال! دنیا سے تیری رخصتی کا سوچ کر رورہی ہوں، میں تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گی۔“ پھر اپنی بیوی سے پوچھا: ”تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟“ اس نے بھی کہا: ”میرے سرتاج! آپ کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، اُجدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟“ پھر اپنے روتے ہوئے بچوں کو قریب بلایا اور پوچھا: ”میرے بچو! تمہیں کس چیز نے رُلا یا ہے؟“ بچے کہنے لگے: ”آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟“ ان سب کی یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا: ”تم سب اپنی دنیا کے لئے رورہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لئے نہیں بلکہ اپنا نفع ختم ہو جانے کے خوف سے رورہا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اس بات نے رُلا یا ہو کہ مرنے کے بعد قہر میں میرا کیا حال ہوگا،

عنقریب مجھے وحشت ناک تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، کیا تم میں سے کوئی اس بات پر بھی رویا کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر (یعنی قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں) سے واسطہ پڑے گا! کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے بھی رویا کہ مجھے میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے سامنے حساب و کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا! آہ! تم میں سے کوئی بھی میری اُخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے۔“ اس گفتگو کے کچھ ہی دیر بعد اس کی رُوحِ قَفَسِ عُنْصُرِی سے پرواز کر گئی۔

(عیون الحکایات ص ۹۸ ملخصاً)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت میں ہمارے لئے عبرت ہی عبرت

ہے کہ وہ اہل و عیال جن کے عیش و آرام کے لئے ہم اپنی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، جنہیں آسائش دینے کے لئے ہم بڑی خوشی سے مُشَقِّقِیْنِ برداشت کرتے ہیں، جن کی راحتوں کے لئے ہم خود کو غموں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اباً یہ بھی دنیا میں ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں مگر جو نہی ہمارا سفرِ زندگی ختم ہوتا ہے انہیں ہماری نہیں اپنی فکر ستانے لگتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ کاش وہ یہ بھی سوچتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ اور ہمارے لئے دُعائے مغفرت و ایصالِ ثواب کی کثرت کرتے۔

جبکہ پیکِ اَجَلِ رُوحِ لے جایگا جسم بے جاں تڑپ کر ٹھہر جائیگا

لُحْدِ میں کوئی تیری نہیں آئے گا تجھ کو دفن کے ہر اک پلٹ جائے گا

(وسائلِ بخشش، ص ۶۲۹)

عمل نے کام آنا ہے

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دوسروں کی دُنیا روشن کرنے کے لئے اپنی قبر میں اندھیرا مت کیجئے، دَولت و مال اور اہل و عیال کی مَحَبَّت میں نیکیاں چھوڑیئے نہ گناہوں میں پڑیئے کہ ان سب کا ساتھ تو آنکھ بند ہوتے ہی چھوٹ جائے گا جبکہ نیکیاں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَبْر وَاٰخِرَتِ بِلْکَہِ دُنْیَا مِیْنِ بَہِیْ کَامِ آئیں گی، اس لئے جلدی کیجئے اور خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ عَزَّوَجَلَّ و صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پانے، دل میں صَحَابَہٗ کَرَام و اولیاءِ عَظَام رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنِ کی محبت جگانے، نیک صحبتوں سے فیض اُٹھانے، نمازوں اور سنتوں کی عادت بنانے کیلئے دَعْوَتِ اِسْلَامِی کے مَدَنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہئے، عاشقانِ رسول کے مَدَنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کیلئے سفرِ اختیار کیجئے اور کامیاب زندگی گزارنے اور اپنی آخِرَت سنوارنے کیلئے روزانہ ”فکرِ مدینہ“ کے ذریعے مَدَنی انعامات کا رسالہ پڑھیجئے اور ہر مَدَنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمے دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے اور دَعْوَتِ اِسْلَامِی کے ہر دلعزیز مَدَنی چینل کے سلسلے دیکھئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنے دل میں اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کے مُقَرَّرِیْنِ وصالِ حین کی مَحَبَّت کو دن بدن بڑھتا ہوا محسوس فرمائیں گے، اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے اِنْ نَفُوسٍ قُدْرَیَّہِ کا فیضان اور ان کی نظرِ شفقت شاملِ حال ہوگی۔ ترغیب کیلئے ایک مَدَنی بہار پیش کی جاتی ہے چنانچہ امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں:

آقا نے اپنے مشتاق کو سینے سے لگا لیا

ثناخوانِ رسول مقبول، بلبلِ روضۂ رسول، مدّ ارح صحابہ وآلِ بتول، گلزارِ عطار کے مشکبار پھول، مبلغِ دعوتِ اسلامی الحاج قاری حاجی ابو عبید مشتاق احمد عطار علیہ رحمۃ اللہ الباری کی وفات سے چند ماہ قبل مجھے (سگِ مدینہ غُفَیٰ غنہ کو) کسی اسلامی بھائی نے ایک مکتوبِ ارسال کیا تھا، اُس میں انہوں نے بقسم اپنا واقعہ کچھ یوں تحریر کیا تھا: میں نے خواب میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے رُو برو پایا، جالی مبارک میں بنے ہوئے تین سوراخ میں سے ایک سوراخ میں جب جھانکا تو ایک دلربا منظر نظر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ، صاحبِ مُعَطَّرِ پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ساتھ ہی شیخینِ کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حاضرِ خدمت ہیں۔ اتنے میں حاجی مشتاق عطار علیہ رحمۃ اللہ الباری بارگاہِ محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں حاضر ہوئے سرکارِ عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حاجی مشتاق عطار کو سینے سے لگا لیا اور پھر کچھ ارشاد فرمایا مگر وہ مجھے یاد نہیں پھر آنکھ کھل گئی۔

آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفیٰ

آرزو کب آئے گی بَرِ بیکس و مجبور کی

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بیہتان تراشنے والوں کا انجام

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ولید بن ہشام معیطی کو قنَسْرِین کا امیر لشکر اور فُرات بن مسلم کو وہاں کا امیر خراج مقرر کیا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ اُن بن ہو گئی۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ولید نے علاقے کے چار معمر افراد کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس فُرات کے خلاف یہ جھوٹی گواہی دیں کہ (۱) وہ نماز نہیں پڑھتا (۲) صحت و اقامت کی حالت میں بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتا (۳) غسلِ جنابت تک نہیں کرتا (۴) ماہواری کی حالت میں بیوی کے پاس جاتا ہے۔ وہ لوگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس آئے اور ان چاروں باتوں کی گواہی دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: یہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ فُرات نے نماز نہیں پڑھی اب یہ خدا جانے کہ جان بوجھ کر ہوا یا سہو و نسیان کی وجہ سے، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر کوئی مَرَض نہ ہونے کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا مگر یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ غسلِ جنابت نہیں کرتا یا بیوی کے پاس ماہواری کی حالت میں جاتا ہے؟ یہ سوال سن کر ان لوگوں کو سانپ سونگھ گیا، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”واللہ! فُرات جیسے پاک دامن اور امانت دار شخص سے ان باتوں کا تھوڑا بھی نہیں کیا جاسکتا۔“ اور اُن بدکردار بڈھوں کو پولیس افسر کے حوالے کر دیا، ہر ایک کو بیس کوڑے لگوائے، پھر ان کی ضمانتیں اس شرط پر لیں کہ فُرات خود ان سے اپنا حق وصول کریں

یا معاف کر دیں۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھرپور کوشش کر کے ولید اور فرات کے درمیان صلح کروادی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۳۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد

العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے بہتان تراشنے والوں کی کیسی گرفت فرمائی، کسی شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اُس پر جھوٹ باندھنا بہتان کہلاتا ہے۔ (الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ

ج ۲ ص ۲۰۰) اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھئے کہ بُرائی نہ ہونے کے باوجود اگر بیٹھے بیٹھے یا روبرو وہ برائی اُس کی طرف منسوب کر دی تو یہ بہتان ہو امثالاً پیچھے یا منہ کے

سامنے ریاکار کہہ دیا اور وہ ریاکار نہ ہو یا اگر ہو بھی تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کیوں کہ ریاکاری کا تعلق باطنی امراض سے ہے لہذا اس طرح کسی کو ریاکار

کہنا بہتان ہوا۔ تہمت دھرنے اور بہتان تراشنے والے کو دنیا و آخرت میں رسوائی کا سامنا ہوگا، چنانچہ

دوزخیوں کی پیپ میں رہنا پڑے گا

نَحْيَ رَحْمَتِ، شَفِيعِ اُمَّتِ، شَهِنْشَاهِ نُبُوْتِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعِي

فرمایا: مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ رَدَّغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالِ يَعْنِي جَوْسِي مُسْلِمَانِ كِي بُرَائِي بِيَانِ كَرِي جَوَاسِ مِي نِيَسِ پَائِي جَاتِي تَوَاسِ كُو

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس وقت تک دوزخیوں کے کچھڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ

وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ (سُنَنِ ابُو دَاوُدِ ج ۳ ص ۴۲۷ حدیث ۳۵۹۷)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اگر خدا نخواستہ کبھی بہتان تراشی کا گناہ سرزد ہوا

ہو تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے، بہتان سے توبہ کے لئے تین باتوں کا پایا جان ضروری

ہے: {1} آئندہ بہتان کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کرنا {2} جس کا حق ضائع کیا، ممکن

ہو تو اس سے معافی چاہنا مثلاً صاحبِ حق زندہ اور موجود ہے نیز معافی مانگنے سے کوئی

جھگڑا یا عداوت پیدا نہیں ہوگی {3} (جن) لوگوں (کے سامنے بہتان لگایا ان) کے

سامنے اپنے جھوٹ (یعنی بہتان) کا اقرار کرنا یعنی یہ کہنا کہ جو میں نے بہتان

لگایا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ (الْحَدِيثَةُ النَّدِيَّةُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُحَدَّثَةُ ج ۲ ص ۲۰۹)

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر

مشمول کتاب، ”بہارِ شریعت“ حصہ 16 صفحہ 181 پر صدرُ الشَّرِيعَةِ، بدرُ

الطَّرِيقَةِ حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے

ہیں: بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے

بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو

فُلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ (بہارِ شریعت حصہ ۱۶ ص ۱۸۱) نفس کے لئے یقیناً یہ

سخت گراں ہے مگر دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانی آسان مگر آخرت کا معاملہ انتہائی

سنگین ہے، خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم! دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔

(ماخوذ از غیبت کی تباہ کاریاں، ص ۲۹۵)

جہنم کا ہلکا ترین عذاب

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔“

(صحیح البخاری، باب صفۃ الجنة والنار، الحدیث ۶۵۶۱، ج ۴، ص ۲۶۲)

ہمارا نازک وجود

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ذرا تصوّر تو کیجئے کہ اگر ہمیں سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا کیونکہ ہمارے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ کسی گرم انگارے پر جا پڑیں تو پورے وجود کو اُچھال کر رکھ دیں، معمولی سا سّر دزد ہمارے ہوش گم کر دیتا ہے تو پھر وہ عذاب جس سے دماغ کھولنے لگے، برداشت کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

مجھے نارِ دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے

ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۲)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

قطع رحمی کرنے والے سے دور رہو

حضرت میمون بن مہران علیہ رحمۃ الحنان کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن

عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھ سے فرمایا: لَا تُؤَاخِیْنَنَّ قَاطِعَ رَحْمِ فَانِیُّ

سَمِعْتُ اللَّهَ لَعْنَهُمْ فِي سُورَتَيْنِ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ وَسُورَةِ مُحَمَّدٍ لَعْنَةُ الرَّعْدِ
 کرنے والے سے کبھی بھائی چارہ قائم نہ کیجئے گا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سورہ رعد اور
 سورہ محمد میں قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ (درمنثور ج ۴ ص ۴۳۱)

افضل عمل کونسا ہے؟

حضرت سیدنا ابوربیعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن
 عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: **أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا كُرِهَتْ عَلَيْهِ النَّفْسُ**
 یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جو نفس پر بھاری ہو۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۴۷)

داڑھی کے بال اکھیڑنے والے کی گواہی مسترد کردی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس ایک ایسا شخص
 گواہی دینے کے لئے حاضر ہوا جس نے اپنی بچی (یعنی ٹھوڑی اور نچلے ہونٹ کی درمیانی
 جگہ) کے بال اکھاڑے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر آپ نے اس کی گواہی رد کردی۔

(احیاء العلوم، ج ۱ ص ۱۹۷)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ بلا حاجت شرعی بچی کے
 مقام سے داڑھی کے تھوڑے سے بال اکھاڑنے والے کی گواہی مسترد کردی گئی، اس
 سے زیب و زینت کے ان متوالوں کو عبرت پکڑنی چاہئے جو **مَعَاذَ اللَّهِ** عَزَّوَجَلَّ پوری
 داڑھی ہی مونڈ ڈالتے ہیں۔

داڑھیاں بڑھاؤ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان بار بار پڑھے: ”أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَىٰ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ یعنی مونچھیں خوب پست (یعنی چھوٹی) کرو اور داڑھیوں کو معافی دو (یعنی بڑھاؤ) یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔“ (شرح معانی الآثار للطحاوی ج ۴ ص ۲۸)

شیخ طریقت امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ”کالے بچھو“ میں یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں:

مرنے کے بعد کی ہوشربا منظر کشی

اے غافل اسلامی بھائی! ذرا ہوش کر!! مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے۔ تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار سہی، تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی۔ تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے۔ تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثاء قابض ہو جائیں گے۔ ”اپنے“ اشک بہا رہے ہوں گے۔ ”بیگانے“ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لا کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو

کبھی اس ہولناک سناٹے میں خُصُوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آسکتا تھا بلکہ اس کے تصوّر سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منوں مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے۔ تیرے پاس ایک رات گُجا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لئے کوئی راضی نہ ہوگا۔ خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قَبْر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا۔ تو حیران و پریشان ہوگا، افسردگی چھائی ہوگی، قَبْر بھینچ رہی ہوگی، تو چلّا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قَبْر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوف ناک شکلوں والے فرشتے (منکر و نکیر) اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قَبْر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مہیب (یعنی بیبت ناک) بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے۔ کَرْخَت (یعنی نہایت ہی سخت) لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے: ”مَنْ رَبُّكَ؟“ (یعنی تیرا رب غَوَّ وَجَلَّ کون ہے؟) ”مَا دِينُكَ؟“ (یعنی تیرا دین کیا ہے؟) اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے، سب اٹھادیئے جائیں گے کسی کی موہنی، دُرُبا اور پیاری پیاری صورت سامنے آجائے گی۔ یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب! تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تُو سوچ

میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں! اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں! یہ وہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ اپنے آپ کو ان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا غلام بھی کہتا تھا۔ لیکن میں نے یہ کیا کیا! بیٹھے بیٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے تو یہ فرمایا: ”موچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔“ لیکن ہائے میری بدبختی! میں چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا۔ فیشن نے میرا ستیاناس (سٹ۔ تیا۔ ناس) کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دشمنوں جیسا ہی بنایا۔ ہائے! اب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکارِ عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرمادیں کہ ”یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے میرے غلاموں والا نہیں!!“ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو سوچ اُس وقت تجھ پر کیا گزرے گی۔

نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم

اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا

ایسا نہیں ہوگا، ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی تو زندہ ہے، مان جا! اپنے کمزور بدن پر تڑس کھا! جھٹ بہمت کر! انگریزی فیشن، فرنگی تہذیب کو تین طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ بیٹھے بیٹھے آقا مکملی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ

وسلّم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور **ایک مٹھی داڑھی** سجالے۔
 ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آ اور ان وساوس کی طرف توجّہ مت لا، کہ ”
 ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے؟ میرا علم بھی اتنا کہاں
 ہے؟ اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا
 میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اُس وقت داڑھی رکھوں گا۔“ یاد رکھ! یہ شیطان کا
 کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ”ہاں، اب میں
 قابل ہو گیا ہوں۔“ یاد رکھئے! اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے
 بڑی دلیل ہے۔ عاجزی اختیار کر! بڑے بڑے علمائے کرام بھی ہر سوال کا جواب
 نہیں دیتے تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تُو نے ذمّہ داری لی ہوئی ہے؟ نفس کی
 حیلہ بازیوں میں مت آ! اور مان جا۔ خواہ ماں روکے، باپ منع کرے، معاشرہ آڑے
 آئے، شادی میں رُکاوٹ کھڑی ہو۔ کچھ ہی ہو جائے اللہ عزّوجلّ اور اس کے
 پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ **تسلی رکھ!** اگر جوڑا
 لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ضرور ہو جائے گی اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی
 کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟

داڑھی منڈواتے ہی موت

کسی نے سگِ مدینہ (راقم الحروف) کو کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ
 بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی، جب اس کی شادی کا وقت قریب

آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا۔ بادل نچو استہ نائی کے پاس جا کر داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا، اُس کا دم نکل گیا اور اُس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے؟ نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ تو پیارے اسلامی بھائی! ہوش میں آ! اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کر کے آج ہی عہد کر لے کہ اب تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مَحَبَّت میں گردن تو کٹ سکتی ہے مگر میری داڑھی اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جُدا نہیں کر سکتی۔

شاباش..... مبارک..... مبارک..... مبارک

(کالے پچھوس ۱۰ تا ۳)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

سردار کون ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ نے ایک شخص سے پوچھا:

مَنْ سَيِّدُ قَوْمِكَ يَعْنِي تَهْمَارِي قَوْمِ كَا سَرْدَارِ كُونِ هِيَ؟ اس نے کہا: انا یعنی میں۔ تو

اِرْشَادِ فَرَمَا: لَوْ كُنْتُ سَيِّدَهُمْ مَا قُلْتُ يَعْنِي اِگَر تَمَّ وَاقَعِي اِن كَا سَرْدَارِ هَوْتَا تُو هَا اِن

کہتے (یعنی عاجزی کرتے ہوئے خاموش رہتے)۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۷۸)

اس حکایت میں ان اسلامی بھائیوں کے لئے دَرَسِ عَظِيمِ ہے جنہیں کوئی

بڑی ذمہ داری یا عہدہ حاصل ہو جائے تو کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ اپنے تعارف میں

بلاضرورت و مصلحت اپنے عہدے کو ضرور ڈگر کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہئے کہ اگر کوئی نگران بھی ہو تو عند الضرورت خود کو خادم کہہ کر تعارف کروائے، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظلہ العالی کی عاجزی مرحبا! کہ لوگ آپ کو امیر اہلسنت کہتے ہیں لیکن آپ دامت برکاتہم العالیہ خود کو حسب موقع فقیر اہلسنت کہتے ہیں اور اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں: ”میں اہلسنت میں سے نیکیوں کے معاملے میں سب سے غریب ہوں اس لئے فقیر اہلسنت ہوں۔“ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی عاجزی نصیب فرمائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی اُن پر رحمت ہو اور ان کے صدقہ ہماری بے

حساب مغفرت ہو۔ اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

رزق پہنچ کر رہے گا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِی الطَّلَبِ فَاِنَّهُ اِنْ كَانَ لِاَحَدِكُمْ رِزْقٌ فِی رَاسِ جَبَلٍ اَوْ حَضِيضٍ اَرْضٍ يَّاتِيْهِ يَعْنِي لَوْ! اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور حلال ذریعے سے رزق تلاش کرو کیونکہ اگر تمہارا رزق کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں، تمہیں مل کر رہے گا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۴)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس فرمانِ عظیم میں ہمارے لئے توکل کا درس

پوشیدہ ہے، اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

فرماتے ہیں: تو کُل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۷۹) یعنی اسباب ہی کو چھوڑ دینا تو کُل نہیں ہے، تو کُل تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ مثلاً مریض دوائی کھانا نہ چھوڑے بلکہ دوائی کھائے اور نظر خالق اسباب کی طرف رکھے کہ میرا رب عزَّوَجَلَّ چاہے گا تو یہی اس دوائی سے شفا ملے گی۔

توکل کیسا ہونا چاہئے؟

هُصُو رَحِي كَرِيْمٍ، رءُوفٍ رَّحِيْمٍ، مَحْبُوْبٍ رَّبِّ عَظِيْمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَا
فرمانِ راحت نشان ہے: لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَيَّ اللهُ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ
كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بَطَانًا یعنی اگر تم اللہ عزَّوَجَلَّ پر ایسا توکل
کرو جیسا کہ اُس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا
ہے کہ وہ (پرندے) صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔

(سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ج ۴ ص ۱۵۴ حدیث ۲۳۵۱)

اس فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے ان نادانوں کو ہوش کے
ناخن لینے چاہئیں جو روزی کمائی کے لئے حرام ذریعہ اپنانے میں کوئی جھجک محسوس
نہیں کرتے، اے کاش ہمیں حقیقی توکل نصیب ہو جائے۔ اَمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

بد مذہبوں کی صحبت سے بچو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ نے فرمایا: لَا تَجَالِسُ

ذَاهَوَىٰ فَيَلْقَىٰ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا يَسْخَطُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ لَعْنَىٰ بَدْمَد هَبُونَ كِي صَحْبَت سِ
بچو کیونکہ وہ تمہیں بھی ایسے کاموں میں لگا دے گا جن سے اللہ عَزَّوَجَلَّ ناراض ہوتا ہے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۶)

اچھے اور بُرے مصاحب کی مثال

پیارے آقا، نبی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
نے ارشاد فرمایا: ”اچھے اور برے مصاحب کی مثال، مشک اٹھانے والے اور بھٹی
جھونکنے والے کی طرح ہے، کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا یا تم اس سے خریدو
گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے
جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی۔“ (مسلم، ص ۱۱۱۶، رقم الحدیث ۲۶۲۸)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! واقعی! ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، مثال کے طور پر
اگر آپ کو کبھی کسی مہیت والے لگھرانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں کا اُداس ماحول کچھ دیر
کے لئے آپ کو بھی غمگین کر دے گا اور اگر کسی شادی پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو خوشیوں
بھرا ماحول آپ کو بھی کچھ دیر کے لئے مسرور کر دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص
غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر دلیر ہو جانے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، تو غالب
گمان ہے کہ وہ بھی بہت جلد انہی کی مانند ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص ایسے خوش عقیدہ
لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جن کے دل خوفِ خدا سے معمور ہوں، ان کی آنکھیں
اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ڈر سے روئیں تو یقینی طور پر یہی کیفیات اس شخص کے دل میں بھی

سرایت کر جائیں گی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

صُحِبَتِ صَلَاحٌ نُّرَا صَلَاحٌ كُنَدٌ

صُحِبَتِ طَالِحٌ نُّرَا طَالِحٌ كُنَدٌ

(یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی)

ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

ہمیں چاہئے کہ دینی مشغلوں اور دُنیا کے ضروری کاموں سے فراغت

کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کریں یا صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی

بھائیوں کی صحبت حاصل کریں جن کی باتیں خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ

تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں اضافے کا باعث بنیں اور وہ وقتاً فوقتاً ظاہری برائیوں اور

باطنی بیماریوں کی نشاندہی کرتے اور ان کا علاج تجویز فرماتے ہوں۔ اچھی صحبت

کے مُتَعَلِّقٌ دُونَ رَامِیْنِ مِصْطَفٰی صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مُلَاظَمٌ

ہوں: (1) اچھا رفیق وہ ہے کہ جب تو خدا عَزَّوَجَلَّ کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور

جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ (موسوعة المسلم لابن اَبی الدُّنِیَا ج ۸، ص ۱۶۱ رقم ۴۲)

(2) اچھا رفیق وہ ہے کہ اُس کے دیکھنے سے تمہیں خدا عَزَّوَجَلَّ یاد آئے اور اُس کی

گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔

(ماخوذ از غیبت کی تباہ کاریاں ص ۲۵۷)

(شُعْبُ الْاِیْمَان ج ۷ ص ۵۷ حدیث ۹۴۴۶)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

زلزلہ، صدقہ اور دعائیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے تمام علاقوں میں تحریری پیغام بھیجا کہ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں پر عتاب فرماتا ہے، آپ لوگ فلاں دن باہر نکلیں اور توبہ استغفار کریں، جو شخص صدقہ کر سکتا ہو وہ صدقہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى** (۱۳) (بے شک مراد کو پہنچا جو سترہا ہوا) (پ ۳۰، الاعلیٰ: ۱۳) اور اپنے باپ حضرت سیدنا آدم علی

نَبِینَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی یہ دعا پڑھا کرو:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَعْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۲۳) (پ ۸، الاعراف: ۲۳) نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے

اور حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا پڑھا کرو:

وَإِلَّا تَعْفُرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (پ ۱۲، ہود: ۴) رحم نہ کرے تو میں زیاں کار ہو جاؤں۔

اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا پڑھا کرو:

رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (پ ۲۰، بقرہ: ۱۲) نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۸)

زَلزَلہ کیسے آتا ہے؟

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے 80 صفحات پر مشتمل رسالے ”زَلزَلہ اور اس کے اَسباب“ کے صفحہ 13 پر ہے: میرے آقا اعلیٰ حضرت، امامِ اہلسنّت، ولیٰ نِعْمَت، عَظِیْمُ الْبَرَکَات، عَظِیْمُ الْمُرْتَبَات، پَرِوَانَةُ شِعْرِ رِسَالَت، مُجَدِّدِ دِیْنِ وَمِلَّت، حَامِیُّ سُنَّت، مَاجِیُّ بَدْعَت، عَالِمِ شَرِیْعَت، پِیْر طَرِیْقَت، بَاعِثِ خَیْرٍ وَبَرَکَات، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام زمین کو مُجِیْط (یعنی گھیرے میں لیا ہوا) ایک پہاڑ پیدا کیا، جس کا نام کوہِ قَاف ہے، زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوہِ قَاف کے ریشے پھیلے ہوئے نہ ہوں۔ جس طرح دَرَخْت کی جڑیں زمین کے اندر پھیل جاتی ہیں اور ان جڑوں کے سبب دَرَخْت کھڑا رہتا ہے اور آندھی، یا ہوا آئے تو یہ نہیں گرتا۔ اب اُصول یہ ہے کہ دَرَخْت جتنا بڑا ہوگا اُتنی ہی دُور تک اس کی جڑوں کے ریشے پھیلنے ہیں چُونکہ کوہِ قَاف بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے لہذا اس کو کھڑے رہنے کیلئے جگہ بھی بہت ہی بڑی درکار ہے، چنانچہ اسکے ریشے حَکَمِ الْاِلهی عَزَّوَجَلَّ سے ساری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں یہ ریشے زمین کی اُوپری سَطْح پر ظاہر ہیں جیسا کہ بَرگد کے دَرَخْت کی جڑیں کہیں کہیں زمین پر اُبھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں اس کوہِ قَاف کے ریشے اُبھرے وہاں پہاڑیاں اور پہاڑ کھڑے ہو گئے، کہیں

کہیں زمین کی سطح تک آ کر رُکے رہے تو اس کو سَدِ گِلاخ (یعنی پتھریلی) زمین کہتے ہیں۔

بہر حال یہ ریشے کہیں زمین کے اوپر تو کہیں زمین کے نیچے یہاں تک کہ سَمُنْدِ ر کے اندر بھی ہیں۔ سَمُنْدِ ر میں بھی زلزلہ آسکتا ہے، پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا مگر اب سونامی یعنی سَمُنْدِ رِی زلزلہ بھی سُن لیا، جو 26.12.04 کو بَر پا ہوا تھا، اس نے سب سے زیادہ تباہی انڈونیشیا کے صوبے ”آچے“ کے دارالحکومت ”باند آچے“ میں مچائی، غالباً صرف اسی ایک شہر میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد موت کے گھاٹ اُتر گئے! سنا بھی ہے کہ خصوصاً وہ علاقے اسکی زَد میں آئے تھے جہاں گناہوں کی حد ہوگئی تھی، سَمُنْدِ ر کی چنگھاڑتی ہوئی لہروں نے ان بستنیوں کو اپنی پلیٹ میں لے لیا اور تِنَس نَس کر کے رکھ دیا۔ بہر حال کوہِ قاف کے ریشے زمین کی نچلی سطح میں بھی دُور دُور تک پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ ریشے ہوتے ہیں اسکی اُوپری زمین بہت نرم ہوتی ہے۔ جس جگہ زلزلہ بھیجے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارادہ ہوتا ہے، (اللہ اور اُس کے رسول کی پناہ) اللہ عَزَّوَجَلَّ کوہِ قاف کو حَلْم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے ریشے کو جنبش دے، صرف وہیں زلزلہ آئیگا جس جگہ کے ریشے کو حرکت دی گئی پھر جہاں خفیف یعنی ہلکے زلزلے کا حَلْم ہے تو یہ وہاں کے ریشے کو ہلکا سا ہلاتا ہے اور جہاں حَلْم ہے کہ شدید جھٹکا دے تو وہاں کوہِ قاف بہت زور سے اپنا ریشہ ہلاتا ہے۔ بعض جگہ صرف ہلکا سا جھٹکا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَشِیَّتِیْن (مَشْن - یَتِیْن) کا رفرما ہیں کہ کہیں ہلکا سا جھٹکا آتا ہے تو کہیں زور دار، کہیں مکانات صرف ہل جاتے

ہیں تو کہیں اس کی کھڑکیاں اور کانچ وغیرہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، کہیں مَعَاذَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ زمین پھٹ جاتی ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے تو کہیں مَعَاذَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ شعلے نکل پڑتے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ کہیں سے بخارات و دھوئیں برآمد ہوتے ہیں۔ (از افادات: فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۷۶ تا ۹۷)

زَلْزَلَةٌ گناہوں کے سبب آتا ہے

میرے آقائے نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجید دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ زَلْزَلے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”سبب حقیقی“، تو وہی اِرَادَةُ اللّٰهِ (یعنی اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا ارادہ فرمانا) ہے اور عالم اسباب میں ”باعثِ اصلی“ بندوں کے معاصی (یعنی گناہ)۔
(فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۹۶)

نہم جاں کردیا گناہوں نے

مرضِ عِصْیَا سے دے شفا یارب (وسائل بخشش ص ۸۷)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

فرائض کی ادائیگی کی اہمیت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللّٰہ العزیز نے فرمایا: تقویٰ محض دن

دینہ

۱: زلزلے کے بارے میں مزید تفصیلات پڑھنے کے لئے مکتبۃ المدینہ کے 80 صفحات پر مشتمل رسالے ”زلزلہ اور اس کے اسباب“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

کو روزہ رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے کا نام نہیں بلکہ فرائض کو ادا کرنے اور حرام کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۹)

تقویٰ سے عقل بڑھتی ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے فرمایا: تقویٰ سے

عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۹)

افضل عبادت

ایک مرتبہ فرمایا: إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ إِدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ یعنی فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا افضل عبادت ہے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۶)

گناہ کی تین جڑیں

مفسر شہیر حکیمُ الْأَمْتِ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان

فرماتے ہیں: علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اَصْل (یعنی

جڑ) تین چیزیں ہیں: (۱) حرص (۲) حسد اور (۳) تکبر۔ غفلت پیدا کرنے والی

6 چیزیں ہیں: (۱) زیادہ کھانا (۲) زیادہ سونا (۳) ہر طرح آرام سے رہنے کی

خواہش کرنا (۴) مال کی مَحَبَّت (۵) عزت (پانے) کی رَغْبَت (۶) حکومت کی

خواہش، بسا اوقات مال و حکومت کی طلب میں انسان کافر (بھی) بن جاتا ہے اور وہ

(یعنی علمائے کرام) یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت، دُرُودِ شَرِيف، اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کا ذکر، موت کا یاد کرنا۔ یہ سب چیزیں دل کی صِیقَل (یعنی دل کی صفائی کرنے والی) ہیں، جن سے وہ سیاہی دُور ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ ہنسنا دل کو بیمار کر دیتا ہے اور خوفِ الہی سے رونا اس کا علاج ہے۔ جو شخص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے تو اس کا قلب میلا ہو کر دُھلتا رہے گا (جبکہ اس نیت سے گناہ نہ کرتا ہو کہ بعد میں نیکی کر کے گناہ دھو ڈالا کروں گا) لیکن جو گناہوں میں مشغول رہے، نیکی کی طرف مُتَوَجِّہ نہ ہو اُس کے قلب کی سیاہی بڑھتے بڑھتے ایک دن سارے قلب کو سیاہ کر دے گی، جس کے مُتَعَلِّقِ حدیثِ شَرِيف میں آتا ہے کہ ”ان دلوں پر لوہے کی طرح زنگ آتا رہتا ہے اور اس کی صَفَائِی تِلَاوَتِ قرآن ہے۔“ اس سیاہ قلب کو صاف کرنے کے لئے ایک عَرَصہ اور کافی مِحْنَت چاہئے، ہاں اگر کسی اللّٰہ والے کی اس پر نگاہِ کرم پڑ جائے تو وہ آنا فناً اس قلب کو صاف کر دیتی ہے۔ خیال رہے کہ گناہوں سے آہستگی سے دل میلا ہوتا ہے اور میلا دل عبادات کے ذریعے آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عداوت سے کبھی ایک دم مہر لگ جاتی ہے۔ شیطان کے دل پر حضرت سیدنا آدم صغی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغض سے اچانک مہر لگ گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے جادو گروں کا میلا دل نگاہِ کلیمی سے اچانک اُجلا ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ عداوتِ نبی بدترین کفر ہے اور نگاہِ ولی بہترین نعمت ہے۔

(تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۵۱)

گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے

کرم یا الہی کرم یا الہی (وسائل بخشش، ص ۸۳)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

دنیا فائدہ کم نقصان زیادہ دیتی ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے ایک خطبے میں ارشاد

فرمایا: إِنَّ الدُّنْيَا لَا تَسْرِبُ قَدْرٍ مَا تَضُرُّ أَنْهَاتُ سِرِّ قَلِيلًا وَتَجْرُ حُزْنًا طَوِيلًا یعنی

بلاشبہ دنیا اتنی خوشی نہیں دیتی جتنا نقصان پہنچاتی ہے، یہ مختصر خوشی دیتی ہے اور طویل غم

میں مبتلا کر دیتی ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۳)

دس طرح کے افراد دھوکے میں ہیں

بُورُكَانِ دِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ فرماتے ہیں: دس طرح کے افراد بہت

دھوکے میں ہیں: (۱) ایک وہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو خالقِ جان کر (یعنی پیدا کرنے والا

جاننے کے باوجود بھی) اس کی عبادت نہیں کرتا (۲) وہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو رَزَّاقِ ماننے

کے باوجود اُس پر بھروسا نہیں رکھتا (۳) وہ جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس

پر بھروسا کرتا ہے (۴) وہ جو جانتا ہے کہ میرے وارث میرے دشمن (یعنی ورثے کی

جزص میں میری موت کے مُنتَظِر) ہیں پھر بھی ان کے لئے مال جمع کرتا ہے (۵) وہ جو

موت کو اٹل مان کر بھی اس کی تیاری نہیں کرتا (۶) وہ جو جانتا ہے کہ قبّ میری منزل ہے اور پھر بھی اس کو آباد (کرنے والے اعمال) نہیں کرتا (۷) وہ جو جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حساب لے گا مگر پھر بھی اپنا حساب صاف نہیں رکھتا (۸) وہ جو جانتا ہے کہ پلِ صراط پر چلنا پڑے گا مگر اپنا (گناہوں کا) بوجھ ہلکا نہیں کرتا (۹) وہ جو جانتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے مگر اس سے (یعنی بدکاریوں اور گناہوں سے) نہیں بھاگتا (۱۰) اور وہ جو جانتا ہے کہ جنت ابرار (یعنی نیکوکاروں) کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتا۔ حق تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ **اٰمِیْن بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاٰمِیْن** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

(رُوحُ الْبَیْآنِ ج ۱، ص ۳۲ ملخصاً)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ
نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْزِ نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی: اِيَّاكَ اَنْ تَخْلُوَ بِاِمْرَاةٍ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَاِنْ حَدَّثْتِكَ نَفْسَكَ اَنْ تَعْلَمَهَا الْقُرْآنَ یعنی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچنا اگرچہ تمہارا نفس تمہیں یہ چسٹی پڑھائے کہ تم تو اُس عورت کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہو۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۲۰)

تیسرا شیطان ہوتا ہے

خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَافِرْمَانِ

عبرت نشان ہے: ”لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ“ یعنی کوئی شخص کسی عورت (اجنبیہ) کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“ (سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ج ۴ ص ۶۷ حدیث ۲۱۷۲) مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ ان اس حدیث پاک کے تحت مراۃ جلد 5 صَفْحَه 21 پر فرماتے ہیں: یعنی جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاکباز ہوں اور کسی (نیک) مقصد کے لیے (ہی) جمع ہوں (مگر) شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے اور دونوں کے دلوں میں ضرور ہیجان پیدا کرتا ہے، خطرہ ہے کہ زنا واقع کرادے! اس لیے ایسی خلوت (یعنی تنہائی میں جمع ہونے) سے بہت ہی احتیاط چاہئے گناہ کے اسباب سے بھی بچنا لازم ہے، بخار روکنے کیلئے نزلہ و زکام (کو) روکو۔ (مراۃ المناجیح ج ۵ ص ۲۱)

حضرت علامہ عبدالرزاق منوف علیہ رحمۃ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں: ”جب کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اکٹھی ہوتی ہے تو شیطان کے لئے یہ ایک نفیس موقع ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے دلوں میں گندے و سوسے ڈالتا ہے، ان کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، حیاء ترک کرنے اور گناہوں میں مُلَوِّث ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔“

(فیض القدير شرح الجامع الصغير ج ۳ ص ۱۰۲ تحت الحدیث ۲۷۹۵)

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ”بہارِ شریعت“

جلد 3 حصہ 16 صفحہ 449 پر ہے: اجنبیہ عورت کے ساتھ خَلْوَت یعنی دونوں کا ایک مکان میں تنہا ہونا حرام ہے، ہاں! اگر وہ بالکل بوڑھی ہے کہ شہوت کے قابل نہ ہو تو خَلْوَت ہو سکتی ہے۔ عورت کو طلاق بائن دے دی تو اس کے ساتھ تنہا مکان میں رہنا ناجائز ہے اور اگر دوسرا مکان نہ ہو تو دونوں کے مابین پردہ لگا دیا جائے، تاکہ دونوں اپنے اپنے حصہ میں رہیں یہ اس وقت ہے کہ شوہر فاسق نہ ہو اور اگر فاسق ہو تو ضروری ہے کہ وہاں کوئی ایسی عورت بھی رہے جو شوہر کو عورت سے روکنے پر قادر ہو۔ جبکہ محارم کے ساتھ خَلْوَت جائز ہے یعنی دونوں ایک مکان میں تنہا ہو سکتے ہیں مگر رَضَاعی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں جبکہ یہ جوان ہوں۔ یہی حکم عورت کی جوان لڑکی کا ہے جو دوسرے شوہر سے ہے۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۴۴۹)

جہالت سے بڑھ کر کوئی درد اور گناہوں سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ اِيك دن منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا: لوگو! جہالت سے بڑھ کر کوئی درد، گناہوں سے بڑی کوئی بیماری نہیں اور خوفِ موت سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں ہے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۴۴)

گناہوں پر اصرار ہلاکت ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے ایک خطبے میں فرمایا: لوگو! جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے معافی مانگے اور توبہ کرے،

دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے مگر یاد رکھو کہ گناہ پر اصرار بدترین ہلاکت ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۳)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں،

لہذا! اس سے پہلے کہ پیامِ اِخْلَ آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقرباء کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر، قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں تہا جاسوئیں، ہمیں چاہئے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، سَزَّوَرِ عَالَمٍ، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **”التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَمْ يَلْتِمْ لَهُ عِصْيَانٌ لِّغَنَاهُ“** یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔“

(اسنن الکبریٰ، کتاب الشہادات، باب شہادۃ القاذف، رقم ۲۰۵۶۱، ج ۱۰ ص ۲۵۹)

توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا

کسی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں دَبْدَب رہی تھیں۔ فرمایا ”جنت کے آٹھ دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں، سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس لیے نیک عمل کرو

اور مایوس نہ ہو۔“^۱ (مکاشفۃ القلوب، الباب السابع عشر فی بیان الاماتۃ والتوبۃ، ص ۶۱، ۶۲)

گناہوں سے بھر پور نامہ ہے میرا

مجھے بخش دے کر کرم یا الہی (وسائل بخشش، ص ۸۳)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

نعمتوں میں غور و عمدہ عبادت ہے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا

عبدالعزیز بن ابوداؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا: الْفِكْرَةُ فِي نِعْمِ اللَّهِ أَفْضَلُ

الْعِبَادَةِ يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِي نِعْمَتوں میں غور و تفکر عمده عبادت ہے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۳۷)

عُربت کار و نارونے والے کو عمده نصیحت

ایک شخص نے کسی بزرگ کی خدمت میں اپنی عُربت کی شکایت کی

تو انہوں نے اسے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی عنایت کردہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لئے

ارشاد فرمایا: ”کیا تو اس بات کے لئے تیار ہے کہ اپنی آنکھ دے دے اور دس ہزار

درہم لے لے؟“ اُس نے عرض کی: ”ہرگز نہیں۔“ فرمایا: ”اچھا عقل دے دے

دینہ

۱: توبہ کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ”نہر کی

صدائیں“ اور 132 صفحات پر مشتمل کتاب ”توبہ کی روایات و حکایات“ کا ضرور مطالعہ کیجئے۔

اور دس ہزار دِزہم لے لے۔“ عرض کی: ”کبھی نہیں۔“ فرمایا: ”اچھا اپنے ہاتھ دے دے اور دس ہزار دِزہم لے لے۔“ عرض کی: ”کسی صورت میں نہیں۔“ فرمایا: ”اچھا اپنے کان دے دے اور دس ہزار دِزہم لے لے۔“ اُس نے عرض کی ”یہ بھی گوارا نہیں۔“ فرمایا: ”اچھا اپنے پاؤں دے دے اور دس ہزار دِزہم لے لے۔“ اُس نے عرض کی: ”یہ بھی قبول نہیں۔“ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا: ”50 ہزار دِزہم کا مال تیرے پاس موجود ہے اور تو پھر بھی مفلسی (یعنی غربت) کا شکار رہا ہے؟“

(کیمیائے سعادت ج ۲ ص ۸۰۵)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! واقعی اگر ہم اپنے وجود اور اِز دِگِز د کے ماحول پر غور و فکر کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں رب تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا رکھا ہے۔
کون کس کو دیکھے؟

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جس میں دو عادتیں ہوں اسے اللہ عزَّ وَّجَلَّ شاکر صابر لکھتا ہے جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے اور اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ عزَّ وَّجَلَّ کا شکر کرے اس پر کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے اسے اس شخص پر بزرگی دی تو اللہ عزَّ وَّجَلَّ اسے شاکر صابر لکھے گا اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے

اللہ عزَّ وَّجَلَّ اُسے نہ شاکر لکھے نہ صابر۔ (ترمذی ج ۳ ص ۲۲۹ حدیث ۲۵۲۰)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! جو نیکیوں میں کمزور ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوؤں پر رزق کر کے اُن کی طرح نیکیاں بڑھانے کی جستجو کریں اور مریض وغیرہ اپنے سے بڑے مریض کی طرف نظر رکھتے ہوئے شکر ادا کریں کہ مجھے فلاں کے مقابلہ میں تکلیف کم ہے۔ مثلاً جوڑوں کے درد والا پیٹ کے درد والے کو دیکھے کہ یہ مجھ سے زیادہ اذیت میں ہے، **T.B.** والا کینسر والے کی طرف دیکھے کہ وہ بے چارہ زیادہ تکلیف میں ہے۔ جس کا ایک ہاتھ کٹ گیا وہ اُس کی طرف دیکھے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہو وہ نابینا کی طرف نظر کرے۔ کم تنخواہ والا بے روزگار کی طرف، فلیٹ میں رہنے والا کوٹھی والے کو دیکھنے کے بجائے بے گھر کو دیکھے۔ شاید کوئی سوچے کہ نابینا اور کینسر والا کس کی طرف دیکھیں؟ وہ بھی اپنے سے زیادہ تکلیف والوں کی طرف دیکھیں مثلاً نابینا اُس پر غور کرے جو نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ پاؤں سے بھی معذور ہو، اسی طرح کینسر والا غور کرے کہ فلاں کو کینسر کے ساتھ ساتھ دل کا مرض یا فالج بھی ہے۔ بہر حال دنیا میں ہر آفت سے بڑی آفت مل جائیگی۔ خدا کی قسم! سب سے بڑی مصیبت کُفر ہے ہر وہ مسلمان جو کتنا ہی بڑا مریض و غمزدہ ہو وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا اور کُفر کی مصیبت سے محفوظ رکھا ہے۔

اصل برباد گن امراض گناہوں کے ہیں

بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

اپنے بزرگوں کا دامن تھا مے رکھو

امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا: اپنے بزرگوں کی رائے کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے خلاف چلنے سے بچو کیونکہ وہ تم سے بہتر اور زیادہ علم والے تھے۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۷۵)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یقیناً بزرگانِ دین کے دامن کو مضبوطی سے

پکڑے رہنے میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے: **الْبِرْكَةُ مَعَ الْكَابِرِ كُمْ** یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ (المستدرک للحاکم، کتاب الایمان، ج ۱ ص ۲۳۸، الحدیث ۲۱۸)

تین نصیحتیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے شام میں مٹی کے بنے ہوئے منبر پر خطبہ دیا جس میں **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا: (۱) اے لوگو! تم اپنے باطن کی اصلاح کرو تو تمہارے ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی (۲) تم اپنی آخرت کے لئے کام کرو تمہاری دنیا کے لئے بھی یہی کفایت کرے گا اور (۳) یہ بات جان لو کہ ہر وہ شخص جس کے باپ اور حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا بیٹا ہوگا، وہ موت ضرور آئے گی۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۰۰)

دل کی اصلاح کی ضرورت

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سزور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”آگاہ رہو کہ جسم میں ایک توٹھڑا گوشت کا ہے جب وہ سنورے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، سُنو! وہ دل ہے۔“

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب من استبرأ لدينه، الحدیث ۵۲، ج ۱، ص ۳۳)

مفسرِ شہیر حکیمُ الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الجتان اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں: یعنی دل بادشاہ ہے جسم اس کی رعایا، جیسے بادشاہ کے دُرسٹ ہو جانے سے تمام مُلک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل سنبھل جانے سے تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، دل ارادہ کرتا ہے جسم اس پر عمل کی کوشش، اس لیے صوفیاء کرام دل کی اصلاح پر بہت زور دیتے ہیں۔ (مرآة المناجیح ج ۴، ص ۲۳۱)

حُبَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں: تم پر دل کی حفاظت، اس کی اصلاح اور اسے دُرسٹ رکھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ دل کا معاملہ باقی اعضاء سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا اثر باقی اعضاء سے زیادہ ہے۔ (مزید لکھتے ہیں) ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی دُرسٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر

کوئی اپنے اعمال صالحہ کو رب تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے تو ٹھیک ہے اور اگر انہیں اپنا ذاتی کمال تصور کرے تو خودِ ستانی (خُد-ستا-ای) کے باعث وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے جب تک باطنی اُمور کا ظاہری اعمال سے تعلق، باطنی اوصاف کی ظاہری اعمال میں تاثیر اور اوصاف باطنی کے ذریعہ ظاہری اعمال کی حفاظت کی کیفیت وغیرہ کا پتہ نہ چلے، ظاہری اعمال بھی دُرست نہیں ہو سکتے۔ (منہاج العابدین، ص ۶۷، ۱۳)

صَلُّوا عَلٰى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

معذرت کرنے والے کاموں سے بچو

حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مجھ سے فرمایا: اِيَّاكَ وَمَا يَعْتَدِرُ مِنْهُ یعنی اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۳۶)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! واقعی ہر کام سے پہلے اس کے نتائج پر غور و فکر کرنا ہمیں بہت سی ناکامیوں اور شرمندگیوں سے بچا سکتا ہے۔

نصیحت کا شکر یہ ادا کیا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو کسی شخص نے کوئی ناصحانہ خط لکھا تھا، اس کے جواب میں تحریر فرمایا: ”اما بعد! آپ کا گرامی نامہ مجھے ملا، جس میں آپ نے نصیحتیں فرمائی تھیں اور اس چیز کا ذکر کیا تھا جو میرا حصہ ہے (یعنی نصیحت کو توجہ سے سننا) اور جو آپ کے ذمہ حق ہے (یعنی نصیحت کرنا) آپ نے اس نصیحت

نامہ کے ذریعہ سب سے افضل اجر پالیا، بلاشبہ نصیحت صدقہ کی مثل ہے بلکہ اجر و ثواب میں اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کا نفع زیادہ پائیدار ہے اور یہ اس سے بہتر ذخیرہ بھی ہے اور مردِ مومن کے ذمہ اس سے بڑا حق بھی۔ ایک مومن کا اپنے بھائی سے بطور نصیحت ایک بات کہہ دینا جس سے اس کی ہدایتِ طلی میں اضافہ ہو، اس مال سے یقیناً بہتر ہے جس کا اپنے بھائی پر صدقہ کرے، خواہ وہ اس صدقے کا ضرورت مند بھی ہو اور تمہارے بھائی کو وعظ و نصیحت سے جو ہدایت ملے گی وہ اس دنیا سے بدرجہا بہتر ہے جو تمہارے مال سے اسے حاصل ہوگی اور تمہارا بھائی تمہارے وعظ و نصیحت کے ذریعہ ہلاکت سے نجات پائے یہ اس کے لئے کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تمہارے صدقے کے ذریعے اپنی غربت کا مداوا کرے۔ لہذا جس کو نصیحت کیجئے اپنے اوپر حق سمجھتے ہوئے کیجئے، مگر جب آپ کسی دوسرے کو نصیحت کریں تو اس پر خود بھی عمل کیجئے، آپ کی مثال اس طبیبِ حاذق کی سی ہونی چاہیے جو خوب جانتا ہے کہ اگر دوا کا بے موقع استعمال کرے گا تو مریض کو بھی پریشان کرے گا اور خود بھی پریشان ہوگا اور اگر مناسب جگہ پر دوا لگانے میں کوتاہی کرے گا تو جہالت و حماقت کا مرتکب ہوگا اور جب وہ کسی مجنون کا علاج کرے گا تو یونہی گھلے بندوں علاج شروع نہیں کر دے گا، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا کر اطمینان کرے گا کیونکہ اسے خطرہ ہوگا کہ کہیں اس ”کارِ خیر“ کے ذریعہ اس سے بڑا اثر پیدا نہ ہو جائے گویا اس کا علم و تجربہ اس کے عمل کی کنجی ہے، یاد رہے کہ دروازے پر تالا اس لئے نہیں لگایا جاتا کہ وہ ہمیشہ بند رہے، کبھی نہ کھلے، نہ اس کے لئے کہ ہمیشہ کھلا رہے، کبھی بند نہ ہو! بلکہ اس

لئے لگایا جاتا ہے کہ اسے اپنے وقت پر بند کیا جائے اور اپنے وقت پر کھولا بھی جائے۔“ والسلام۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۱۳)

سے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی
گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی (وسائل بخشش ص ۸۴)
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

دل ہلا دینے والی نصیحت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ کُوْسِی کے انتقال کی خبر ملی پھر اطلاع ملی کہ پہلی خبر غلط تھی (یعنی وہ شخص زندہ ہے) اس پر آپ نے انہیں خط لکھا: ”امابعد: ہمیں ایک خبر پہنچی تھی جس پر تمہارے تمام بھائی گھبرا گئے تھے بعد ازاں خبر ملی کہ پہلی اطلاع غلط ہے، اس خبر سے ہمیں خوشی ہوئی! اگرچہ یہ خوشی بہت جلد ہی ختم ہونے والی ہے اور کچھ ہی دن بعد وہ خبر بھی آئے گی جس سے پہلی خبر کی تصدیق ہو جائے گی (یعنی جلد یادیر موت تو آ کر ہی رہے گی) میرے بھائی! تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے موت کا مزہ چکھ لیا ہو پھر (دنیا میں) واپسی کی درخواست کی ہو اور اسے (زندہ رہنے کی) اجازت مل گئی ہو، ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہاتھوں ہاتھ (آخرت کی) تیاری میں لگ جائے گا اور جہاں تک ممکن ہو گا اپنے کم سے کم خوش گن مال سے بھی دائر قرار (یعنی آخرت) کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے مال میں سے اس کی چیزیں صرف وہی ہیں جو اس نے آگے بھیج دیں کیونکہ ایسے شخص کے پلے تو دنیا و آخرت کا خسارہ ہی خسارہ پڑتا ہے جس کے

پاس تھوڑا بہت مال ہو مگر اس کے باوجود اسکی اپنی کوئی چیز نہ ہو (یعنی آخرت کے لیے کچھ نہ بھجھا ہو)، رات اور دن ہمیشہ سے زندگی ختم کرنے (انسانوں کی) بساط حیات کو لپیٹتے اور شیرازہٴ عمر کو بکھیرتے ہوئے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور یہ دونوں (یعنی رات اور دن) اسی طرح دوڑتے رہیں گے اور انسان کو بوسیدہ اور فنا کر کے چھوڑیں گے، یہ دن اور رات بہت سی اُمتوں کے مصاحب رہے مگر یہ سب لوگ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے جا ملے اور اپنے اچھے یا بُرے کو پالیا مگر رات اور دن اسی طرح تروتازہ ہیں جن کو انہوں نے فنا کیا ان میں سے کوئی بھی ان کو بوسیدہ نہ کر سکا اور جن پر سے یہ گزرے ان میں سے کوئی بھی ان کو فنا نہ کر سکا، یہ بدستور گزشتہ لوگوں کی طرح باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ وہی کرنے کے لیے پوری طرح چُخت اور تیار ہیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تم آج اپنے بہت سے ہم عصر اور ہمسر لوگوں میں شریف انسان ہو مگر تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس کا ایک ایک جوڑ بند کاٹ دیا گیا ہو اور اس میں صرف زندگی کی رَمَق رہ گئی ہو اور وہ صبح شام بُلَاوے کا منتظر ہو، اس لئے ہم (سب) اپنی بد اعمالیوں پر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ کاش! ہمارے نفسوں کو عبرت ہو۔ والسلام (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۷)

تُو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمیں کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا بسر بانا ہے
 نہ بھلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تُو کیوں پھرتا ہے سَوَدائی عمل نے کام آنا ہے
 صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

امیر المؤمنین کی بیٹے کو نصیحت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کو ایک خط میں لکھا: ”اپنے بعد میں اپنی وصیت اور نصیحت کا سب سے زیادہ مستحق تم کو سمجھتا ہوں اور تم ہی ان کو محفوظ رکھنے کے سب سے زیادہ اہل ہو، خدا عزوجل نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور جو نعمتیں رہ گئی ہیں وہ بھی عطا کرے گا، تو اللہ عزوجل کے وہ احسانات یاد کرو جو تم پر اور تمہارے باپ پر ہیں اور اپنے باپ کو ہر اس معاملہ میں جس پر وہ قادر ہے اور جس سے تمہارے خیال میں وہ عاجز ہے مدد دو۔“ (سیرت ابن جوزی ۲۹۸ ملخصاً) حضرت سیدنا عبد الملک علیہ رحمۃ اللہ الخالق نے اس نصیحت پر شدت کے ساتھ عمل کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کے اہم معاملات میں ہمیشہ مدد دی مثلاً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اموال مغصوبہ کو بوجہ اُمیہ کے فتنہ و فساد کے خوف سے بتدریج اس کے اصل مالکوں کو واپس کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت سیدنا عبد الملک علیہ رحمۃ اللہ الخالق ہی کے مشورہ سے انہوں نے اس کام کو سب سے پہلے انجام دیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۲۶ ملتقطاً)

صاحبزادے کی وفات سے عبرت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اپنی اولاد میں سے زیادہ محبت حضرت سیدنا عبد الملک علیہ رحمۃ اللہ الخالق سے تھی، بلکہ شام کے بعض

مشائخ کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا ذوق عبادت اپنے بیٹے عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر بڑھا تھا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۹۷) حضرت سیدنا عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے اور مرض نازک صورت اختیار کر گیا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو اطلاع دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا: ”بیٹا! کیسے ہو۔“ انہوں نے سُرْسُری طور پر عرض کی: ”اچھا ہوں۔“ مگر اپنی حالت کا اظہار نہیں کیا تا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریشان نہ ہوں۔ فرمایا: ”بیٹا! اپنی حالت ٹھیک سے بتاؤ تم جانتے ہی ہو کہ میں تمہارے معاملے میں رضائے الہی پر راضی ہوں۔“ عرض کی: ”ابا جان! سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود کو دنیا سے رخصت ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔“ مزاج پُرسی کر کے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اپنی جائے نماز میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی نماز میں تھے کہ حضرت سیدنا عبدالملک علیہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کا انتقال ہو گیا۔ مزاجم نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اطلاع دی تو غمش کھا کر گر پڑے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے مزاجم کو تاکید کر رکھی تھی کہ مجھ سے کوئی بات خلاف معمول صادر ہوتی ہوئی دیکھو تو ٹوک دیا کرو۔ حضرت سیدنا عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گفن دفن سے فراغت ہوئی تو

مزاحم نے کہا: ”امیر المؤمنین! آج میں نے آپ سے ایک عجیب بات دیکھی وہ یہ کہ آپ عبدُ الملک کے پاس آئے اور انکی مزاج پُرسی کی تو انہوں نے اپنی حالت کو چھپانا چاہا مگر آپ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی حالت آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائیں کیونکہ ان کے حق میں تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا آپ اس پر دل و جان سے راضی رہیں گے، پھر جب ان کا انتقال ہوا اور میں نے آپ کو اس کی اطلاع کی تو آپ غش کھا کر گر گئے، اگر آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی تھے تو یہ غشی کیوں طاری ہوئی؟“ امیر المؤمنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: بات تو یہی تھی کہ میں تقدیرِ الہی کے فیصلہ پر راضی ہوں مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام میرے گھر آ کر میرے جگر کے ٹکڑے کو لے کر گئے ہیں تو میں ڈر گیا جس کی وجہ سے وہ حالت پیش آئی جو تم نے دیکھی، لہذا یہ غم کی نہیں خوفِ موت کی غشی تھی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۶)

ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! واقعی یہ سمجھنا نادانی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے جنازے ہی دیکھتے رہیں گے، یاد رکھئے! ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے: ”رَوْحُوا فَاِنَّا غَادُونَ“ یعنی چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیوالے ہیں۔ (البداية والنہاية، سنة ستين من الهجرة، ج ۵، ص ۶۱۶) واقعی آئے دن اُٹھنے والے جنازے ہمارے لئے

خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو

مرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

دھوکے میں نہ رہئے

جوں جوں دن، مہینے اور سال گزرتے جا رہے ہیں دُنیا ہم سے دُور بھاگ رہی ہے اور آخرت قریب آرہی ہے مگر ہم ہیں کہ دُور بھاگنے والی کی آؤ بھگت میں لگے ہیں اور آنے والی کے استقبال کی کوئی تیاری نہیں کرتے، اپنی سانسوں کو غنیمت جانئے اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جائیے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آنے والے کل کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر وہ ”کل“ تو آتا ہے مگر اس کا انتظار کرنے والے اپنی قبر میں اُتر چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

”اے نوجوان! تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے، کتنے ہی جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لیں، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں انہیں موت آگئی اور وہ اندھیری قبر میں جاسوئے، انہیں ان کے مال، غلاموں، اولاد اور ماں باپ نے کوئی فائدہ نہ دیا، فرمانِ الہی ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٧﴾ ترجمہ کنزالایمان: جس دن نہ مال
 إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ (عز ووجل) کے حضور حاضر ہو اسلامت دل لے کر۔
 (پ ۱۹، اشعراء، آیت: ۸۸، ۸۹)

(مکاشفة القلوب، باب فی العشق، ص ۳۴)

آہ! ہر لمحہ کنہ کی کثرت و بھرمار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفسِ بد اطوار ہے
 زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے ہائے نفس! گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے
 (وسائلِ بخشش، ص ۱۲۸)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

صبر کا مثالی مظاہرہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ نے بیٹے کے انتقال پر
 بھی صبر کا ایسا مثالی مظاہرہ کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الملک
 عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا اس میں فرمایا: ”عبد الملک بچپن سے
 لے کر وفات تک وہ میرے دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھے لیکن آج سے بڑھ
 کر انہوں نے میری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔“ اس کے بعد تمام سلطنت
 میں پیغام بھیجا کہ کسی قسم کا نوحنہ نہ کیا جائے۔ پھر جب حضرت سیدنا عبد الملک عَلَيَّهِ
 رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کو دفن کیا جا رہا تھا تو ایک شخص نے بائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے
 کہا: اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ کو اس صبر پر اجر دے۔ فرمایا: گفتگو میں بائیں ہاتھ

سے اشارہ نہ کرو، داہنے سے کرو۔ وہ شخص بے اختیار بول اٹھا: میں نے آج تک اس سے حیرت انگیز واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص اپنے عزیز ترین بیٹے کو دفن کر رہا ہے، اس رنج و غم کی حالت میں بھی اسے دائیں بائیں ہاتھ کا خیال ہے!

(سیرت ابن عبدالحکم، ص ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵ ملخصاً)

بیٹے کے دفن کے بعد بیان

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے شہزادے کو دفن کیا جا چکا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی قبر کے پاس قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، لوگوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: بیٹا! اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے بیشک تم اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، اللہ کی قسم! جب سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوئے میں تم سے خوش رہا اور اس سے زیادہ خوش اور اللہ تعالیٰ سے اپنا حصہ پانے کا اُمیدوار آج اس وقت ہوں جب میں نے تمہیں اس منزل و گھر میں رکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بنایا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم کرے، تمہیں بخشے اور تمہیں تمہارے عمل کا اچھا بدلہ عنایت کرے، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی اور اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان سے لوٹ آئے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۹۱)

تعزیت پر عمل

لوگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ الخالق کی وفات پر تعزیت کے

کیسے ہی رقت خیز جملے استعمال کرتے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزَان کے جواب میں صبر و شکر کا ہی اظہار فرماتے۔ ربیع بن سمرہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے پاس آئے اور کہا: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آپ کو اجر عظیم دے، آپ کے سوا مجھے ایسا کوئی شخص نہیں نظر آیا کہ چند روز کے وقفہ میں اتنی بڑی آزمائش کا شکار ہوا ہو کہ اس کے بیٹے، بھائی اور عزیز ترین غلام نے یکے بعد دیگرے وفات پائی ہو، خدا عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! میں نے آپ کے بیٹے کا سا بیٹا، بھائی جیسا بھائی اور غلام جیسا غلام نہیں دیکھا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزَان نے سر جھکا لیا لوگوں نے ربیع سے کہا: تم نے امیر المؤمنین کو بے قرار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے سر اٹھایا اور فرمایا: ربیع! پھر سے کہنا تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے دوبارہ وہی جملے بول دیئے تو فرمایا: مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اموات نہ ہوتیں (یعنی میں اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا پر راضی ہوں)۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۳۰۴)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول ملا کہ ہمیں بھی تعزیت کے جواب میں صبر، صبر اور صرف صبر کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ شیخ طریقت امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں: یقیناً انسان کی موت اُس کے پسماندگان کیلئے زبردست امتحان کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر صبر کرنا اور بالخصوص زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، بے صبری سے صبر کا اجر تو ضائع ہو سکتا ہے مگر مرنے والا پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ”حدائق بخشش شریف“ میں فرماتے ہیں:

آنکھیں رو رو کے سجانے والے

جانے والے نہیں آئیوالے

(کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ص ۳۹۲)

مگر کیا کیجئے ایسے نادان بھی اس جہان میں موجود ہیں جو اپنی کسی قریبی عزیز مثلاً باپ، بیٹے، بھائی یا والدہ وغیرہ کی وفات پر دامنِ صبر ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ عزَّوَجَلَّ یا اس کے محترم فرشتوں کے لئے ایسے توہین آمیز کلمات بک دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے، ایسی ہی چند مثالیں ملاحظہ ہوں: چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب ”کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب“ کے صفحہ 489 پر ہے:

فوتگی میں بکے جانے والے کفریات

کے بارے میں سوال جواب

”اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے“ کہنا کیسا؟

سوال: چھوٹے بھائی کی فوتگی پر بڑے بھائی نے صدمے کی وجہ سے کہا کہ ”اللہ

تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔“ بڑے بھائی کیلئے کیا حکم ہے؟

جواب: یہ کہنا کفر ہے۔ کیونکہ کہنے والے نے اللہ عزَّوَجَلَّ پر اعتراض کیا۔

”نیک لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے“ کہنا کیسا؟

سوال: ایک نیک نمازی آدمی فوت ہو گیا، اس پر پڑوسی نے کہا: ”نیک لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ جلدی اٹھالیتا ہے کیوں کہ ایسوں کی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔“ پڑوسی کا یہ قول کیسا ہے؟

جواب: پڑوسی کا قول کفریہ ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں: کسی نے مُردے کے بارے میں کہا: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ اس کا حاجت مند ہے“ یہ کہنا کفر ہے۔“ (مِنْحُ الرُّؤُصِ ص ۳۱۸)

”یہ اللہ کو چاہئے ہوگا“ کہنا کیسا ہے؟

سوال: ایک تھامتا بچہ چھت سے گر کر فوت ہو گیا، تعزیت کرنے والی ایک عورت بولی: ”آپ کا پھول جیسا بچہ اللہ پاک کو چاہئے ہوگا اسی واسطے اُس نے لے لیا ہو گا۔“ اُس عورت کا یہ کہنا کیسا ہے؟

جواب: اُس عورت نے کُفر بک دیا۔ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں: کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اُس نے کہا: ”اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہوگی“ یہ قول کفر ہے۔ کیونکہ کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا۔

(الْبَزَائِرُ عَلَى هَامِشِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ ج ۶ ص ۳۴۹)

یا اللہ! تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا! کہنا کیسا؟

سوال: ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوہ نے خوب واویلا مچایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی: ”یا اللہ! تجھے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا!“ بیوہ کیلئے کیا حکم شرعی ہے؟

جواب: بیوہ پر حکم کفر ہے، کیوں کہ اُس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ظالم قرار دیا۔

”یا اللہ تجھے بھری جوانی پر بھی رحم نہ آیا“ کہنا

سوال: ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سوگوار ماں نے غم سے نڈھال ہو کر رو کر پکارا! ”یا اللہ! اس کی بھری جوانی پر بھی تجھے رحم نہ آیا! اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھی دادی یا بڈھے نانا کو لے لیتا!“ سوگوار ماں کے یہ کلمات کیسے ہیں؟

جواب: یہ کلمات، کفریات سے بھرپور ہیں۔

”یا اللہ! ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے“ کہنے کا حکم شرعی

سوال: ایک گھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے دو اموات ہو گئیں۔ اس پر گھر کی بڑی بی بی روتے ہوئے بڑبڑانے لگی: ”یا اللہ! ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے! آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے!“ بڑی بی بی کے یہ الفاظ کیا حکم رکھتے ہیں؟

جواب: مذکورہ بڑھیا کی بکواس ربِّ کائنات کی توہین اور اس پر اعتراضات سے بھرپور ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توہین اور اس پر اعتراض کرنا کفر ہے۔

(کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ص ۳۸۹)

محبت کا معیار

جب حضرت سیدنا عبد الملک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْخَالِقِ کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ امیر المؤمنین کی زبان سے ان کے متعلق تحسین آمیز کلمات نکلے تو مسلمانوں نے کہا: **یَا امیر المؤمنین** اگر وہ زندہ رہتے تو آپ انہی کو ولی عہد مقرر کرتے؟ فرمایا: ”نہیں۔“ انہوں نے کہا: وہ کیوں! ان کی تعریف تو آپ بہت کرتے ہیں! فرمایا: مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ محض محبت پداری کی وجہ سے محبوب نہ نظر آتے ہوں۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۱)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! صرف خونی رشتے کے جوش کے سبب ماں باپ، اولاد یا کسی رشتے دار سے مَحَبَّت کرنا بھی کارِ ثواب نہیں، جب تک رضائے الہی عزوجل پانے کی نیت نہ ہو۔ **مفسر شہیر حکیم الأُمّت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ** فرماتے ہیں: کسی بندے سے صرف اس لیے مَحَبَّت کرے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس (مَحَبَّت) میں دُنیاوی غرض (اور) ریا (یعنی دکھاوا) نہ ہو۔ اس مَحَبَّت میں ماں باپ، اولاد (اور) اہل قرابت (یعنی رشتے دار) مسلمانوں سے مَحَبَّت سب داخل ہیں جب کہ رضائے الہی (عزوجل) کے لیے (یہ مَحَبَّتیں) ہوں۔

(مرآة المناجیح، ج ۶، ص ۵۸۲)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مَدَنِي آقا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا پیغام

ابوہمام نامی شخص کا بیان ہے کہ میں حج کے ارادے سے گھر سے چلا، حرم

شریف پہنچ کر مناسکِ حج ادا کئے۔ حرینِ طہیین سے جُدائی کا وقت قریب آیا تو میں نوافل ادا کرنے ”اَبْطَحْ“ کی جانب گیا۔ نوافل پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر آرام کے لئے بیٹھا تو اُونگھ آگئی، سر کی آنکھیں بند ہوئیں تو دل کی آنکھیں کھل رہی تھیں اور نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و برِ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے مسکراتے ہوئے میرے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”اے خوش بخت! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری سعی (یعنی کوشش) کو قبول فرمایا ہے، تم عمر بن عبدالعزیز کے پاس جانا اور اس سے کہنا: ”ہمارے ہاں تمہارے تین نام ہیں: (۱) عمر بن عبدالعزیز (۲) امیر المؤمنین (۳) اَبُو الْیَتَامٰی (یعنی یتیموں کا والی)۔ اے عمر بن عبدالعزیز! قوم کے سرداروں اور نیکس وُصول کرنے والوں پر اپنا ہاتھ سخت رکھنا۔“ اتنا فرما کر سیدُ الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ، صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا اور اپنے رفقاء کے پاس پہنچ کر کہا: ”جاؤ! اللہ تبارک و تعالیٰ کی بَرَکت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ! میں کسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا۔“ پھر میں ”شام“ جانے والے قافلے میں شامل ہو گیا۔ وُمشق پہنچ کر امیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ کا گھر معلوم کیا اور زوال سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ گیا۔ باہری دروازے کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے کہا: ”امیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ سے میرے لئے حاضری کی اجازت طَلَب کرو۔“ وہ بولا: ”ان کے پاس جانے سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا، لیکن ابھی وہ لوگوں کے مسائل حل فرما رہے ہیں۔“

بہتر یہی ہے کہ تم کچھ دیر انتظار کر لو جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے میں تمہیں بتا دوں گا اور اگر ابھی حاضر ہونا چاہو تو تمہاری مرضی۔“ میں انتظار کرنے لگا، کچھ دیر بعد بتایا گیا: ”امیر المؤمنین لوگوں کے مسائل سے فارغ ہو چکے ہیں۔“ چنانچہ میں نے حاضر خدمت ہو کر سلام پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: ”تم کون ہو؟“ میں نے عرض کی: ”میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں اور آپ کی طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔“ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری طرف دیکھا اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پی رہے تھے۔ فوراً پیالہ ایک طرف رکھا، مجھے سلامتی کی دُعا دی پھر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا: ”تم کہاں سے آئے ہو؟“ میں نے کہا: ”بصرہ کا رہنے والا ہوں۔“ پوچھا: ”کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔“ میں نے کہا: ”فلاں قبیلے سے۔“ فرمایا: ”وہاں اس سال گندم کیسی ہوئی ہے؟ تمہاری بچوں کی فصلیں کیسی ہوئی ہیں؟ وہاں کے انگور کیسے ہیں؟ وہاں کی کھجوریں کیسی ہیں؟ گھی کیسا ہے؟ وہاں کے ہتھیار اور بیج کی کیا حالت ہے؟“ اَلْغُرَضُ! آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خرید و فروخت سے متعلقہ تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ جب ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھ چکے تو پہلی بات کی طرف آئے اور کہا: ”تمہارا بھلا ہو کہ تم بہت عظیم معاملہ لے کر آئے ہو۔“ میں نے عرض کی: ”حضور! مجھے خواب میں جو پیغام ملا میں وہی لے کر حاضر ہوا ہوں۔“ پھر میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے یہاں پہنچنے تک تمام واقعات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہہ سنائے، مجھے ایسا محسوس

ہوا جیسے انہیں مجھ پر اعتماد ہو گیا ہے اور ان کے نزدیک میری تمام باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ فرمایا: ”تم ہمارے پاس ٹھہرو، ہم تمہاری خیر خواہی کریں گے۔“ میں نے کہا: ”حضور! میں پیغام لے کر حاضر ہوا تھا، اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیے۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے وہیں چھوڑ کر اندر تشریف لے گئے۔ واپسی پر چالیس دیناروں سے بھری ایک تھیلی میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا: ”اس وقت میرے پاس ان دیناروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تم بطور تحفہ یہ قبول کر لو۔“ میں نے کہا: ”خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں کبھی بھی حضور صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے عوض کوئی چیز نہیں لوں گا۔ بے حد اصرار کے باوجود میں نے ان دیناروں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے واپسی کی اجازت چاہی اور الوداعی سلام لے کر اٹھنے لگا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ نے مجھے سینے سے لگالیا اور دروازے تک چھوڑنے آئے اور اشک بار آنکھوں سے مجھے رخصت کیا۔ اس ولی کامل سے ملاقات کے بعد دل میں ان کی محبت و تعظیم مزید بڑھ گئی تھی۔ بصرہ پہنچنے کے کچھ ہی دن بعد مجھے یہ رُوح فرسا خبر ملی کہ ولی کامل، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ ہزاروں آنکھوں کو سو گوار چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔“ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ۔ آپ کی جدائی پر ہر آنکھ اشک بار تھی،

عرش پر دُھو میں تجھیں، وہ مومن صالح ملا
فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا

پھر میں مجاہدین کے ہمراہ جہاد کے لئے روم چلا گیا۔ وہاں مجھے وہی شخص ملا جو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور جس کے ذریعے میں نے اجازت طلب کی تھی۔ میں اسے پہچان نہ سکا لیکن اس نے مجھے پہچان لیا میرے قریب آ کر سلام کیا اور کہا: اے بندہ خدا! اللہ عزوجل نے آپ کا خواب سچا کر دیا ہے۔ امیر المؤمنین کے بیٹے عبدالملک بیمار ہو گئے تھے۔ میں رات کے وقت ان کی خدمت پر مامور تھا۔ جب میں ان کے پاس ہوتا تو امیر المؤمنین چلے جاتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ جب وہ اپنے بیٹے کے پاس آجاتے تو میں جا کر سو جاتا۔ میرے جاتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازہ بند کر لیتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ خدا عزوجل کی قسم! ایک رات میں نے اچانک امیر المؤمنین کے رونے کی آواز سنی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے درد بھرے انداز میں بلند آواز سے رورہے تھے۔ میں گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کہا: ”اے امیر المؤمنین! کیا عبدالملک کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل روتے رہے اور میری بات کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ افاقہ ہوا تو دروازہ کھول کر فرمایا: ”اے بندہ خدا! جان لے! بے شک اللہ عزوجل نے اس بصری کا خواب سچا کر دکھایا۔ ابھی ابھی مجھے خواب میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مجھ سے وہی

ارشاد فرمایا جو اس بصری نے پیغام دیا تھا۔‘ (عیون الحکایات، ص ۳۲۶)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ وَأَنْ كَفَرَ هُوَ بِحَسَابِ مَغْفِرَتِهِ هُوَ

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

امیر المؤمنین کی فکرِ موت

حضرت سیدنا سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ مُلکِ روم

سے کچھ قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے پاس آئے تو آپ

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”جب تم لوگ کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہو تو اس کا کیا حال

ہوتا ہے؟“ کہا: ”جب ہم کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں تو اس کے پاس ایک گورگن

(یعنی قبر کھودنے والا) آکر کہتا ہے: اے بادشاہ! جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو

اس نے مجھے حُکم دیا: میری قبر اس طرح بنانا اور مجھے اس طرح دُفن کرنا۔ چنانچہ

قبر تیار کر لی گئی۔ پھر اس کے پاس کفن فروش آکر کہتا ہے: اے بادشاہ! جب تجھ سے

پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مرنے سے قبل ہی اپنا کفن، خوشبو اور کافور وغیرہ

خرید لیا پھر کفن کو ایسی جگہ لٹکا دیا گیا جہاں ہر وقت نظر پڑتی رہے اور موت کی یاد آتی

رہے۔ اے مسلمانوں کے امیر! ہمارے بادشاہ تو اس طرح موت کو یاد کرتے

ہیں۔“ رومی قاصد کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز

نے فرمایا: ”دیکھو! جو شخص اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا وہ موت کو کس

طرح یاد کرتا ہے، اسے بھی موت کی کتنی فکر ہے؟“ اس واقعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ

تعالیٰ علیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ (عیون الحکایات، ص ۴۲۷)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمَكَ هُوَ أَوْ أَنْ يَكْفُرَكَ هُوَ

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ عَلِيَّ مُحَمَّدٍ

موت کی دُعا کروائی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے شامی بزرگ حضرت

سیدنا عبد اللہ ابی زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں تشریف آوری کی دعوت دی۔

جب وہ آئے تو کہنے لگے: ”آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں زحمت دی ہے؟“

جواب دیا: جی نہیں۔ فرمایا: ایک ضروری کام ہے، مگر میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا

جب تک آپ قسم نہ اٹھالیں کہ وہ کام ضرور کریں گے۔ انہوں نے بہتیرا کہا: ”یا امیر

المؤمنین! جو حُکم ہو بجالاؤں گا۔“ مگر فرمایا: ”نہیں! پہلے قسم اٹھائیے۔“ جب انہوں

نے قسم اٹھالی تو فرمایا: ”دُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔“ حضرت سیدنا

عبد اللہ ابی زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تڑپ کر فرمایا: تب میں مسلمانوں کا بدترین

نمائندہ ہوا اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا بدترین دشمن! فرمایا: بہت

خوب! حضرت! آپ حلف اٹھا چکے ہیں۔ ناچار انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے

لیے موت کی دُعا کی لیکن اس کے فوراً بعد کہا: ”اے اللہ ان کے بعد مجھے بھی نہ رکھنا۔“

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا ایک چھوٹا بچہ وہاں آ نکلا، فرمایا:

”اور اس کو بھی، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔“ انہوں نے بچے کے لیے بھی دُعا کر دی، چنانچہ کچھ ہی عرصے میں ان تینوں کا انتقال ہو گیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۵)

موت کی رغبت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید کی وفات سے کچھ پہلے آپ کے بھائی سہل، صاحبزادے عبدالملک اور خادم مُراحم کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حضرات اُمورِ خلافت میں آپ کے معین و مددگار تھے۔ ایک جمعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطبہ کے لئے تشریف لائے اور لوگوں کو ان کی صلاح و فلاح کا حکم فرمایا، مگر لوگوں نے اس سے گرانی محسوس کی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا بڑا رنج ہوا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر تشریف لے گئے، معمول تھا کہ جمعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادگان آپ سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حسبِ معمول وہ قرآن مجید پڑھنے کے لئے آئے، سب سے پہلے جس نے تلاوت شروع کی اس نے یہ آیتیں پڑھیں:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① ترجمہ کنز الایمان: یہ آیتیں ہیں روشن
 بِأَخْرِجْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا أُمَّوًو مَنِينِ ② کتاب کی، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ
 إِنَّ نَسْأَنُزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً ③ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے
 فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی
 (پ ۱۹، اشعر: ۳ تا ۱)

نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھک رہ جائیں۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میرے اس بیٹے کی زبانی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے تسلی دی ہے۔ اس سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غم کسی قدر ہلکا ہو گیا، آپ نے دُعا کی: **يَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** یہ لوگ مجھ سے اُکتا گئے ہیں اور میں ان سے اُکتا گیا ہوں، بس مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے راحت دلادے۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دوبارہ منبر پر جانا نصیب نہیں ہوا یہاں تک کہ دارِ آخرت کو روانہ ہو گئے۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۵)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

مُزَاهِمِ بَهْتَرِيْنَ وَزِيْر

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدير اپنے صاحبزادے، عبدالملک، بھائی سہل اور اپنے خادم مزاحم کو تھوڑے ہی عرصے میں سپردِ خاک کر چکے تو ایک شامی نے آپ سے کہا: امیر المؤمنین کو صاحبزادے کی وفات کا صدمہ پہنچا، **واللّٰہ!** میں نے کوئی بیٹا نہیں دیکھا جو باپ کا اتنا فرمانبردار اور خدمت گزار ہو پھر امیر المؤمنین کو بھائی کی وفات کا حادثہ پیش آیا، **واللّٰہ!** میں نے کوئی بھائی ایسا نہیں دیکھا جو اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کا خیر خواہ اور نفع رساں ہو۔“ مگر ان صاحب نے ”مُزَاهِمِ“ کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدير نے فرمایا: کیا بات ہے آپ نے ”مُزَاهِمِ“ کا ذکر نہیں کیا؟ حالانکہ وہ میرے نزدیک ان دونوں سے کچھ کم رتبہ نہیں رکھتا تھا۔ پھر دو یا تین مرتبہ یہ فرمایا: ”مُزَاهِمِ! اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم

کرے، تم نے میری بہت سی دنیوی فکروں سے کفایت کی اور آخرت کے معاملہ میں تم میرے بہترین وزیر تھے۔“ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۲)

عافیت کی موت کی دُعا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ مَرَضُ الْوَفَاتِ مِیں مُبْتَلًا ہوئے تو ریگتے ہوئے پانی کے مشکیزے تک پہنچے، خوب اچھی طرح وضو کیا پھر اپنی جائے نماز میں پہنچے، دو نفل ادا کئے پھر یہ دُعا کی: ”يَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ! تو نے میرے مددگاروں ”سہل، عبد الملک اور مُرْ احم“ کو اٹھالیا، مگر اس سے میری تجھ سے محبت بڑھی ہے کم نہیں ہوئی، اور میں تیری نعمتوں کو پانے کا مشتاق ہو گیا ہوں، اب مجھے بھی عافیت کے ساتھ موت دے کہ میں نہ تو حُقُوقِ وَفِرَاضِ کو ضائع کرنے والا ہوں نہ ان میں کوتاہی کرنے والا۔“ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۷)

موت کی دُعا کرنا کیسا؟

حدیثِ پاک میں ہے کوئی دنیوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے۔ (بخاری، ج ۴، ص ۱۳، الحدیث ۵۶۷۱) اور درحقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دُعا کرنا ضمیر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے جبکہ دینی نقصان کے خوف سے جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: موت کا خوشی کے ساتھ انتظار کرنا کہ آتے وقت ناگواری نہ

ہو، اُس وقت کی ناگواری مَعَاذَ اللّٰہِ بہت سخت ہے، عیاذاً باللّٰہ اس میں سوئے خاتمہ

(یعنی بُرے خاتمے) کا خوف ہے، نبیؐ اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

یعنی جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس کا ملنا پسند فرمائے گا اور جو اللہ سے ملنے کو کمروہ (یعنی ناپسند) رکھے گا اللہ اس کا ملنا

کمروہ (یعنی ناپسند) رکھے گا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض

کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم! ہم میں کون ایسا ہے کہ موت کو کمروہ نہ

رکھے! فرمایا: یہ مُراد نہیں بلکہ جس وقت دَم سینہ پر آئے اُس وقت کا اعتبار ہے اُس وقت جو

اللہ سے ملنے کو پسند رکھے گا اللہ تعالیٰ اُس سے ملنے کو دوست رکھے گا، اور ناپسند تو ناپسند۔ (ترمذی،

ج ۲ ص ۳۳۶، الحدیث ۱۰۶۹) (فتاویٰ رضویہ ج ۹ ص ۸۱) حدیث میں ہے: ”کوئی تم سے موت

کی آرزو نہ کرے مگر جب کہ اعتماد نیکی کرنے پر نہ رکھتا ہو۔“ (مسند احمد، ج ۳ ص ۲۶۳،

الحدیث ۸۶۱۵) اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں: خلاصہ یہ کہ دُنوی

مُضَرَّتوں (نقصانات و پریشانیوں) سے بچنے کے لئے موت کی تمنا نا جائز ہے اور دینی

مُضَرَّت (دینی نقصان) کے خوف سے جائز۔ (در مختار ج ۹ ص ۶۹) (فضائل دُعَا ص ۱۸۳)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

کیا آپ پر جادو کیا گیا تھا؟

ابتدائے مرض میں عام خیال یہی تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ

رحمۃ اللہ العزیز پر جادو کیا گیا ہے لیکن خود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی بیماری کا اصلی راز

معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ میری نسبت لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ”لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اس کی تردید کی: نہیں! میں منکھور نہیں ہوں (یعنی مجھ پر جادو نہیں کیا گیا)، مجھے وہ وقت یاد ہے جب مجھے زہر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک غلام کو بلا کر پوچھا تو اس نے زہر دینے کا اقرار کر لیا۔ فرمایا: تم مجھے زہر دینے پر کیونکر آمادہ ہوئے؟ اُس نے کہا: ”مجھے ہزار دینار دے کر آزاد کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔“ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے وہ دینار منگوا کر بیت المال میں جمع کروادیئے اور اپنے قاتل سے کہہ دیا: ”تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی تم تک پہنچ نہ سکے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۷) جب طیب آیا تو اس نے بھی مرض کی یہی وجہ بتائی اور علاج کی طرف توجہ دلائی لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۱۷ ملخصاً)

آپ کو زہر کیوں دیا گیا؟

طاقتور افراد نے غاصبانہ طور پر مسلمانوں کی جو جائیدادیں اپنے قبضہ میں کر لی تھیں، ان کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے خلیفہ بنتے ہی نہایت سختی کے ساتھ واپس کر دیا، جس نے ان لوگوں میں عام برہمی پھیلا دی، لیکن یہ ناراضی صرف زبان و قلم تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ایک خطرناک سازش کی صورت اختیار کر لی اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی وفات اسی

سازش کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم کو ایک ہزار اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا یا گیا۔

لوگوں کی ہمدردی

عبدالحمید بن سہیل کا بیان ہے کہ میری حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے طبیب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا: کیا آج تم نے ان کا پیشاب ٹیسٹ کیا ہے؟ تو کہنے لگا: ہاں! مگر مجھے اس میں لوگوں کے دکھ درد کے علاوہ کوئی بیماری دکھائی نہیں دیتی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۱۶)

بغیر قمیص کے رہنا ہوگا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بیمار تھے۔ مسنمہ بن عبد الملک عیادت کے لیے آئے دیکھا کہ کرتا بہت میلا ہو رہا ہے اپنی ہمشیرہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا: ”انکی قمیص دھو دو۔“ اگلے دن انہوں نے دیکھا تو قمیص اسی طرح تھی تو اپنی بہن سے ناراض ہوئے اور کہا: ”فاطمہ! کیا میں نے تمہیں امیر المؤمنین کی قمیص دھونے کا نہیں کہا تھا؟ لوگ عیادت کرنے آتے ہیں۔“ بہن نے جواب دیا: ”وَاللّٰہِ! مَا لَہٗ قَمِیصٌ غَیْرُہٗا یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم! ان کے پاس بس یہی ایک قمیص ہے۔“ یعنی اگر اسے اتار کر دھوئیں تو اتنی دیر ان کو بغیر قمیص کے رہنا ہوگا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۱۸۲)

اولاد کو وصیت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ بیمار ہوئے تو آپ کے برادرِ نسبتی حضرت سیدنا مَسْلَمَہ بن عَبْدِ الْمَلِکِ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمَلِکِ آئے اور عرض کی: **امیر المؤمنین!** آپ نے اس مال سے اپنی زندگی میں تو اپنی اولاد کا منہ بند ہی رکھا، کم از کم ان کے بارے میں مجھے اور دیگر لوگوں کو وصیت ہی کر جاتے تاکہ ہم لوگ آپ کے بعد ان کی گزر بسر کا انتظام کر سکتے، یہ سن کر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: مجھے بٹھا دو۔ آپ کو بٹھا دیا گیا تو فرمایا: ”مَسْلَمَہ! میں نے تمہاری بات سنی، تم نے جو یہ کہا کہ میں نے اس مال سے انکے منہ بند کئے رکھے، خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی اولاد کا حق کبھی نہیں روکا مگر میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ دوسروں کا حق چھین چھین کر انہیں دیتا رہتا، رہی یہ بات کہ میں ان کی نگہداشت کے لیے کسی کو وصی بناؤں تو عمر کی اولاد میں دو ہی قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں: نیک یا بد، اگر وہ نیک ہے تو مجھے اس کی فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ، اللہ تعالیٰ خود ہی اسے مستغنی کر دے گا، اور اگر وہ بد ہے تو میں کیوں اسے مال دے کر اللہ کی نافرمانی پر اس کی مدد کروں۔

پھر فرمایا: ”میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔“ وہ آئے تو انہیں دیکھ کر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور فرمایا: میں قربان جاؤں، یہ بے چارے نو عمر ہیں جنہیں کنگال چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔“ پھر روتے ہوئے فرمایا: ”میرے بیٹو! میں دورا ہے پر کھڑا تھا، یا تم مالدار ہو جاتے اور میں جہنم کا

ایندھن بن جاتا، یا تم ہمیشہ کے لیے فقر و قلاش ہو جاتے اور میں جنت میں چلا جاتا، میرے خیال میں میرے لیے یہی دوسرا راستہ بہتر تھا، جاؤ! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارا حافظ و نگہبان ہو، جاؤ! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارا حافظ و نگہبان ہو، جاؤ! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں رِزق دے گا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۸ و سیرت ابن جوزی ص ۳۲۱)

امیر المؤمنین کی مدنی سوچ

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے اولاد کے بارے میں
 ہمارے بزرگانِ دین علیہم رحمۃ المبین کا کیسا مدنی ذہن تھا! مگر افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کے ذہنوں پر دولتوں اور خزانوں کے انبار جمع کرنے کی دُھن سوار ہے اور اس راہِ پُر خار میں خواہ کتنی ہی تکالیف سے دوچار ہونا پڑے، پرواہ نہیں، بس! ہر وقت دولتِ دنیا جمع کرنے کی جُرس ہے، اگر کبھی آخرت کی بھلائی کے لئے نیکیوں کی دولت اکٹھی کرنے کی طرف توجُّہ دلائی بھی جائے تو مُلا دَمت یا کاروباری مصروفیت وغیرہ کے بہانے آڑے آجاتے ہیں، بال بچوں کا دُنیوی مستقبل سنوارنے کی کوششوں میں اپنا اُخروی مستقبل بھول جاتے ہیں، اولاد کی دُنیوی پڑھائی پھر ان کی شادی کی فکر کسی اور طرف ذہن جانے ہی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ امین بجاہِ النَّبِیِّ الْأَمین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

برکت کے نظارے

خلیفہ منصور نے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن قاسم بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجئے تو فرمایا: اس چیز کی نصیحت کروں جو میں نے دیکھی ہے یا اس چیز کی جو میں نے سنی ہے؟ اس نے کہا: جو آپ نے دیکھی ہے۔ فرمایا: حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے گیارہ بیٹے چھوڑ کر وفات پائی اور ان کا کل ترکہ 17 دینار تھا جس میں سے کچھ دینار ان کے کفن دفن میں صرف ہوئے اور بقیہ بیٹوں پر تقسیم ہوا اور ہر بیٹے کو 19 وزہم ملے، ہشام بن عبد الملک بھی 11 بیٹے چھوڑ کر مر اور جب اس کا ترکہ تقسیم ہوا تو سب نے دس دس لاکھ پایا لیکن میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ ایک دن میں سو گھوڑے جہاد کے لئے پیش کئے اور ہشام کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس بے چارے کو صدقہ دے رہے ہیں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۳۸)

وہیں لوٹا دو

مسئلہ بن عبد الملک مرض وفات میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو وصیت فرمائی: ”میری وفات کے وقت میرے پاس موجود رہنا، تجھیں و تکلفین کا انتظام خود کرنا، قبر تک میرے ساتھ جانا اور لحد میں خود اتارنا۔“ پھر مسئلہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”ذرا غور کرو مسئلہ! تم مجھے کہاں چھوڑ کر آؤ گے اور دنیا مجھے کن حالات میں قبر کے

حوالے کرے گی؟“ مَسْئَلَمَہ نے عَرَض کی: ”امیرُ الْمُؤْمِنین! کوئی (مالی) وَصِیَّت فرمائیے۔“ فرمایا: ”میرے پاس مال ہی نہیں جس کی وَصِیَّت کروں۔“ عَرَض کی: ”میرے پاس ایک لاکھ دینار ہیں آپ جو چاہیں وَصِیَّت فرمائیے۔“ فرمایا: ”یہ جہاں سے لئے ہیں، وہیں لوٹا دو۔“ مَسْئَلَمَہ نے اَشْک بار آنکھوں سے کہا: یا امیرُ الْمُؤْمِنین! اللہ عَزَّ وَجَلَّ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، واللہ! آپ نے ہمارے سخت دلوں کو زَہَم کر دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۵ اور سیرت ابن جوزی ص ۳۲۰)

بعد کے خلیفہ کو وَصِیَّت

کسی نے عَرَض کی: یا امیرُ الْمُؤْمِنین! اپنے بعد کے خلیفہ ”یزید بن عبد الملک“ کے لیے وَصِیَّت و نصیحت کی کوئی تحریر لکھو اور بتجئے۔ آپ رحمةُ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کاتب کو حَکَم فرمایا لکھو: اما بعد! اے یزید! غفلت کے وقت کی لُغْرَش سے بچ کر رہنا کیونکہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، نہ رُجوع ہی کی توفیق ہوتی ہے، دیکھو! تم ان ساری چیزوں کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے جو تمہیں کلمہ خیر سے بھی یاد نہیں کریں اور اس ذات (یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ) کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کے یہاں تمہارے عذر و معذرت کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ والسلام (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۰۳) یہ بھی لکھا: ”تم جانتے ہو کہ اُمورِ خِلافت کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور خُدا عَزَّ وَجَلَّ مجھ سے اس کا حساب لے گا اور میں اس سے اپنا کوئی کام نہ چھپا سکوں گا، اگر خُدا عَزَّ وَجَلَّ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب رہوں گا اور ایک طویل عذاب سے بچوں گا اور اگر

مجھ سے ناراض ہوا تو افسوس ہے میرے انجام پر، میں خدائے وحدہ لا شریک لہ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے طُفیل آگ سے نجات دے اور اپنی رضا مندی سے جنت عطا کرے۔ تمہیں چاہئے کہ تقویٰ اختیار کرو اور رعایا کا خیال رکھو کیونکہ تم بھی کچھ عرصے بعد قبر میں اُتر جاؤ گے لہذا تمہیں غفلت میں ڈوب کر ایسی غلطی نہیں کرنی چاہئے جس کی تم کوئی تلافی نہ کر سکو۔ سلیمان بن عبدالملک خدائے وَجَدَ کا ایک بندہ تھا جس نے انتقال سے پہلے مجھے خلیفہ بنایا اور میرے لیے خود بیعت لی اور میرے بعد تم کو ولی عہد مقرر کیا، مجھے امیر المؤمنین کا منصب اس لئے نہیں ملا تھا کہ میں بہت سی بیبیوں کا انتخاب کروں اور مال و دولت جمع کروں کیونکہ خدائے وَجَدَ نے (خلافت سے پہلے ہی) مجھ کو اس سے بہتر سامان دیئے تھے لیکن میں سخت حساب اور نازک سوال سے ڈرتا ہوں۔ (سیرت ابن جوزی ۷/۳۱ ملخصاً)

ایک دن تمہیں بھی اسی طرح ہونا ہے

امیر المؤمنین حضرت سپہ ناعمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ کا وقتِ وصال قریب آیا تو حاضرین کو وصیت فرمائی: ”میں تمہیں اپنے اس (وقتِ نزع کے) حال سے ڈراتا ہوں کہ ایک دن تمہیں بھی اسی طرح ہونا ہے۔“

(احیاء العلوم ج ۴ ص ۵۸۲)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حضرت سپہ ناعمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے اپنی اس وصیت میں کئی فوائد و فضائل کے حصول کا نسخہ بتایا کہ موت کی یاد

گناہوں سے بچاتی، دلوں کو چمکاتی، حُبِّ دنیا سے بچاتی، عقلمندی دلاتی اور لَذَّاتِ دنیا کو مٹاتی ہے۔ کاش! ہم ہر دم موت کو یاد رکھنے اور اُس کے لئے تیاری کرنے والے بن جائیں۔ موت کی آمد کا یقین تو ہر ایک کو ہے لیکن اس کے لئے تیاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَظِیْمَةِ فرماتے ہیں: لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ موت آکر ہی رہے گی لیکن اُن کے اعمال ایسے ہیں جیسے اُنہوں نے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ (تَنْبِیْہُ الْعَاقِلِیْنَ ص ۱۷۰)

میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا

مرض الموت میں لوگوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَظِیْمَةِ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ مدینہ میں جا کر وفات پاتے تو رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ، حضرت سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ دَفْن ہوتے، اس مَدْفُنِ پاک میں ایک قبر کی جگہ اور ہے۔ فرمایا: میں اپنے آپ کو رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے پہلو میں دَفْن ہونے کے قابل نہیں سمجھتا۔

(سیرت ابن جوزی ص ۲۰۵)

قبر میں تبرکات رکھنے کی وصیت

نُورِ رِوَالِ آقِصَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے چند مومئے مُبَارَک اور ناخن

منگوا کر کفن میں رکھنے کی وصیت بھی فرمائی۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۱۸)

قبر کی جگہ خریدی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العَدِید نے اپنی قبر کی جگہ بیس دینار میں اور بعضوں کے بقول دس دینار میں خریدی تھی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۲۳ و سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۵) چنانچہ ابوامیہ کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمُبِیْن نے انتقال سے پہلے کچھ دینار دیئے مجھے فرمایا: جاؤ! گاؤں کے لوگوں سے میری قبر کی زمین خرید لو اور اگر وہ انکار کریں تو واپس آجانا۔ میں لوگوں کے پاس پہنچا اور زمین خریدنا چاہی تو انہوں نے کہا: واللہ! اگر ہمیں تمہارے واپس لوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہ دینار قبول نہ کرتے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۸۸)

سادہ کفن

جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی بیماری بڑھ گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مَسَلَمَہ بن عبد الملک کو حکم فرمایا: ”میرے مال میں سے دو دینار لے کر میرے لئے کفن خرید لاؤ۔“ اُس نے عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! آپ جیسی شخصیت کو دو دینار کا کفن دیا جائے گا!“ تو ارشاد فرمایا: ”اے مَسَلَمَہ! اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ سے راضی ہو تو اس کم قیمت کفن کو اس سے بہتر سے بدل دے گا اور اگر ناراض ہو تو یہ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔“ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچے دھاگے سے بٹنے ہوئے کپڑے کا کفن پہنایا گیا۔ ایک قول کے مطابق وہ بَیْمَنی چادر کا تھا۔ (الروض الفائق ص ۲۰۵)

دُنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں؟

عمر بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدید نے وصال سے قبل وہاں پر موجود لوگوں سے فرمایا: میری حالت سے عبرت پکڑو کیونکہ ایک دن تمہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہے اور جب تم مجھے قبر میں اتار چکو تو دیکھ لینا کہ میں تمہاری دُنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۲۲)

موت کی سختیوں کا فائدہ

حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے ارشاد فرمایا: ”میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان کر دیا جائے کیونکہ یہی تو وہ آخری چیز ہے جو بندہ مؤمن کو اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔“ (سیرت ابن جوزی ص ۳۲۴)

وقتِ وفات رونے لگے

مرض الموت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے تو عرض کی گئی: یا امیر المؤمنین! آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت سی سنتوں کو زندہ فرمایا ہے اور انصاف کا بول بالا کیا ہے، یہ سن کر آپ خوفِ خدا کی وجہ سے اور زیادہ روئے اور فرمایا: کیا مجھے اس مخلوق کے معاملے کی جواب دہی کے لئے کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی قسم! اگر مجھ پر عذل کیا

گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ پھنس جاؤں گا اور ان کے دلائل کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ (تاریخ دمشق، ج ۴۵، ص ۲۵۴)

کلمہ شریف پڑھا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز روزانہ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

يَا اللّٰه! عَزَّوَجَلَّ ميري موت کو مجھ پر آسان کر دے۔ چنانچہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے وقت میں ان کے خیمہ سے نکل کر مکان میں بیٹھ گئی تو میں نے ان کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۲﴾ (پ ۲۰، اقتصص: ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لئے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے اور آخرت کی بھلائی پر ہیروز گاروں کے لئے ہے۔

اس کے بعد وہ بالکل ہی پرسکون ہو گئے، نہ کچھ بولے، نہ کوئی حرکت کی۔ تو میں نے کینز سے کہا کہ ذرا دیکھنا! امیر المؤمنین کا کیا حال ہے؟ وہ دوڑ کر گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وفات پا چکے تھے (سیرت ابن جوزی ص ۳۲۵) اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ عین وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو جب لوگوں نے انہیں بٹھایا تو بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا: يَا اللّٰه! عَزَّوَجَلَّ! تو نے مجھے کچھ باتوں کا حکم فرمایا تو میں نے کوتاہی کی اور تو نے مجھے کچھ باتوں سے منع فرمایا تو میں نے نافرمانی کی۔

تین مرتبہ یہی کہا پھر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھا اور نظر جما کر دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں کچھ سبز پوش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جن، یہ کہا اور ان کی رُوح پرواز کر گئی۔ (احیاء العلوم ج ۴ ص ۸۰۴ و ۹۰۴)

مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت

خَدَاعَزَّوَجَلَّ کی قسم! خوش قسمت ہے وہ مسلمان جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اُس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رَحْمَتِ شَفِيعِ اُمَّتِ، مَالِكِ جَنَّةِ، محبوبِ رَبِّ الْعَزَّةِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ جَنَّتِ نشان ہے، جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو وہ داخلِ جَنَّتِ ہوگا۔

(ابوداؤد شریف، الحدیث ۳۱۶، ج ۳ ص ۱۳۲)

فَضْلٌ وَكَرَمٌ جَسْ بَرَّبْحِي هُوَا لَبْ بَرْمَرْتِي دَمَ كَلِمَةٍ
جَارِي هُوَا جَنَّتِ مِيں گِيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
صَلُّوْا عَلَيَّ الْعَجِيبُ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

دم رخصتِ تلاوتِ قرآن کی

عبید بن حسان کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی وفات کا وقت بالکل ہی قریب آ پہنچا تو انہوں نے ہر شخص کو گھر میں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہا اور برادرِ نسبتی مسنمہ دروازے پر بیٹھ گئے، انہوں نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں: مرحبا! خوش آمدید ہے ان چہروں کے لیے جو نہ آدمی ہیں نہ جن پھر یہ آیت پڑھی: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ پھر لوگوں نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وفات پا چکے تھے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۶)

وفات کے وقت عمر مبارک

تقریباً 20 دن بیمار رہنے کے بعد 25 رجب 101 ھ بدھ کے دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 سال تھی اور آپ تقریباً اڑھائی سال خلیفہ رہے۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپردِ خاک کیا گیا جو شام میں ہے۔ (بعض روایتوں میں تاریخ وفات ۲۰ رجب اور عمر ۴۰ سال بھی بیان کی گئی ہے) (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۱۹)

خیر الناس کا انتقال ہو گیا

جب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی وفات کی خبر ملی تو فرمایا: مَاتَ خَيْرُ النَّاسِ یعنی بہترین آدمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۵)

خوبیاں بیان کرنے والے کے لئے امام احمد بن حنبل کی بشارت

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَذُكُرُ مَحَاسِنَهُ وَيُنْشُرُهَا فَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ وَّرَاءِ ذَلِكَ خَيْرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے، اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔

(سیرت ابن جوزی ص ۷۴)

اخلاقی خوبیاں

عبدالملک بن عمیر نے ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی اخلاقی خوبیاں اس طرح گنوائیں: **امیر المؤمنین! خدا عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم کرے، آپ نگاہوں کو ٹھکائے رہتے تھے، پاک دامن تھے، فیاض تھے، ٹھٹھا مذاق نہیں کرتے تھے، کسی پر عیب لگاتے تھے نہ کسی کی غیبت کرتے تھے۔** (سیرت ابن جوزی ص ۳۳۰)

نجیب قوم

محمد بن علی بن حسین سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ ہر قوم میں ایک نجیب

دینہ

۱: ولایت کا ایک منصب

ہوتا ہے اور بنی امیہ کے نجیب شخص عمر بن عبدالعزیز (علیہ رحمۃ اللہ العزیز) ہیں۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۸۸)

بعدِ وصال چہرہ حکمگاہاٹھا

حضرت سیدنا رجا بن حیوۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے مرضِ وصال میں مجھ سے فرمایا: ”آپ مجھے غسل دینے، کفن پہنانے اور لحد میں اتارنے والوں میں رہے گا۔ جب لوگ مجھے لحد میں اتار دیں تو کفن کی گرہ کھول کر میرا چہرہ دیکھ لیجئے گا۔ جب آپ علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے انتقال فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دینے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ آپ کو قبر میں اتارے جانے کے بعد جب میں نے گرہ کھول کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ انور دیکھا تو وہ قبلہ رُخ تھا اور چودہ ہویں کے چاند کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ (الروض الفائق، ص ۲۰۴)

آسمانی رقعہ

حضرت سیدنا یوسف بن ماہک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی قبر مبارک کی مٹی برابر کر رہے تھے تو ایک آسمانی رقعہ ہم پر گرا جس پر لکھا تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَمَانٌ مِّنَ اللّٰهِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ مِنَ النَّارِ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لئے جہنم سے امان کا پروانہ ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۲۸)

عذاب سے چھٹکارے کا بشارت نامہ

معاذ مولیٰ زید بن تمیم کا بیان ہے کہ بنو تمیم کے ایک شخص نے خواب میں آسمان سے اترنے والی ایک کھلی کتاب کو دیکھا جس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غالب حکمت والے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لئے دردناک عذاب سے چھٹکارے کا پروانہ ہے۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۷۰)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْرَانِ كَىٰ صَدَقَ هَمَارَىٰ بَىٰ حَسَابِ

**مَغْفِرَتِ هُوَ - أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّدَ**

بوڑھے راہب کی عقیدت

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ كَيْ صَاحِبِ زَادِ
عبداللہ ایک جزیرے میں ایک بوڑھے راہب کے صومعے کے پاس کسی جھونپڑی
میں ٹھہرے تو وہ ان سے ملاقات کے لئے نیچے اتر آیا، اس سے پہلے اسے کسی کے لئے
اترتے ہوئے نہ دیکھا گیا تھا۔ بوڑھے راہب نے کہا: کیا تم جانتے ہو میں نیچے کیوں
اترا ہوں؟ عبداللہ نے کہا: نہیں۔ راہب کہنے لگا: لِحَقِّ اَيْبِكَ اِنَّا نَجِدُكَ مِنْ اُمَّةِ
الْعَدْلِ بِمَوْضِعِ رَجَبٍ مِنَ الْاَشْهُرِ الْحُرْمِ لِعِنِّي تَهَارِءُ وَالِدِ كَيْ حَقِّ كَىٰ وَجْهٍ سَءِ
بے شک ہم انہیں عادل اول ائمہ میں سے اسی طرح پاتے ہیں جیسے رجب کے مہینے

کو مُرمت والے مہینوں میں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۵۷)

صِدِّیقِ کِی قَبْرِ

حضرت سیدنا صالح بن علی علیہ رحمۃ اللہ العقی کا بیان ہے کہ میں شام گیا تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے مزار شریف پر حاضری کا ارادہ کیا مگر مجھے کوئی ایسا شخص نمل سکا جو ان کے مزار شریف کا پتا بتاتا، بالآخر ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا تو کہنے لگا: تم ”صِدِّیق“ کی قبر تلاش کر رہے ہو، وہ فلاں جگہ پر ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۳۱)

سَرَزِیْنِ سَمْعَانَ کِی خُوشِ نَصِیْبِی

حضرت ابو بکر بن عمیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیرِ سمعان کی سرزین سے ایک ایسے مرد قلندر (یعنی حضرت عمر بن العزیز) کا خُشر ہوگا جو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۲۰)

خِلاَفَتِ سَے وَفَاتِ تَکِ کَا سَفَرِ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے خِلاَفَتِ کے بعد نہ کوئی نئی سواری خریدی، نہ کسی عورت سے نکاح کیا، نہ نئی باندی رکھی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا اور خِلاَفَتِ سے وفات تک کبھی آپ کو کھل کر ہنسنے نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ خِلاَفَتِ سے وفات تک آپ نے تین مرتبہ کے سوا کبھی عُشَلِ جَنَابِتِ نہیں کیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۴۴)

خِلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد

حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ المُنعم فرماتے ہیں: ”جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز خلیفہ بن گئے تو ایک دن میں ان سے ملاقات کے لئے گیا۔ وہ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، اس لئے میں انہیں نہ پہچان سکا لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا: ”اے ابو حازم! میرے قریب آؤ۔ میں ان کے قریب گیا اور حیرت سے پوچھا: ”کیا آپ ہی امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں؟“ فرمایا: ”ہاں! میں ہی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔“ میں نے کہا: ”جس وقت آپ مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں ہمارے امیر تھے اس وقت آپ کا حُسن و جمال عروج پر تھا، چہرہ انتہائی تاباں اور روشن تھا، آپ کے پاس بہترین لباس اور بہت ہی عمدہ سواریاں تھیں، آپ کے کثیر خدام تھے اور آپ کی رہائش گاہ بہت ہی عمدہ تھی، اب آپ کو کس چیز نے اس حال میں پہنچا دیا؟ حالانکہ اب تو آپ امیر المؤمنین ہیں، اب تو آپ کے پاس زیادہ آسائش ہونی چاہئیں تھیں!“ یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا: ”ابو حازم! اس وقت میرا کیا حال ہوگا جب میں اندھیری قبر میں پہنچ جاؤں گا اور میری آنکھیں بہہ کر میرے رخساروں پر آجائیں گی، میرا پیٹ پھٹ جائے گا، زبان خشک ہو جائے گی اور کیڑے میرے جسم پر رینگ رہے ہوں گے!“ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے: ”مجھے وہی حدیث سنائیے جو مدینہ منورہ

میں سنائی تھی۔“ تو میں نے کہا: ”یا امیر المؤمنین! میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی مکرّم، نور مجسم، رسول اکرم صَلَّى اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارے سامنے دشوار گزار گھائی ہے جس سے صرف کمزور اور نحیف لوگ ہی گزر سکیں گے۔“ (حلیۃ الاولیاء، مسند عمر بن عبد العزیز، رقم: ۸۹۲۷، ج ۵، ص ۳۳۳) یہ حدیث پاک سن کر امیر المؤمنین بہت دیر تک روتے رہے، پھر فرمایا: ”اے ابو حازم! کیا میرے لئے یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے جسم کو کمزور و نحیف بنا لوں تاکہ اس ہولناک وادی سے گزر سکوں! لیکن مجھے اس خلافت کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ مجھے نجات ملے گی یا نہیں؟“

اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، اس پر لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی لیکن میں نے لوگوں سے کہا: ”تمہیں کیا معلوم! یہ کس آزمائش سے دوچار ہیں۔“ اچانک امیر المؤمنین نے رونا شروع کر دیا اور اتنا زور سے روئے کہ ہم سب نے ان کی آواز سنی پھر یکدم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے۔ میں نے پوچھا: ”امیر المؤمنین! ہم نے آپ کو بڑی تعجب خیز حالت میں دیکھا، پہلے تو خوب روئے پھر مسکرانا شروع کر دیا، اس میں کیا راز ہے؟“ انہوں نے پوچھا: ”کیا تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا؟“ میں نے کہا: ”جی ہاں! ہم سب نے آپ کی یہ تعجب خیز حالت دیکھی ہے۔“ فرمانے لگے: ”بات دراصل یہ

ہے کہ جب مجھ پر غشی طاری ہوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور مخلوق حساب و کتاب کے لئے میدانِ محشر میں جمع ہے، تمام اُمتوں کی 120 صفیں ہیں جن میں سے اسی (80) صفیں اُمتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ہیں، ندا دی گئی: ”عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہاں ہیں؟“ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے بارگاہِ خداوندی عَزَّوَجَلَّ میں حاضر کیا۔ ان سے مختصر حساب لیا گیا اور انہیں دائیں جانب جنت کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی گئی؟ وہ بھی بارگاہِ ربِّ العزَّات عَزَّوَجَلَّ میں حاضر کئے گئے اور مختصر حساب کے بعد انہیں بھی جنت کا مہرہ سنا دیا گیا، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مختصر حساب کے بعد جنت میں جانے کا حکم سنایا گیا پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْکَرِیْمُ کو ندا دی گئی۔ چنانچہ وہ بھی بارگاہِ احکام الحکمین عَزَّوَجَلَّ میں حاضر ہو گئے اور انہیں بھی مختصر حساب کے بعد جنت کا پروانہ مل گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ جلد ہی میری بھی باری آنے والی ہے تو میں منہ کے بل گر پڑا، مجھے معلوم نہیں کہ خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ پھر ندا دی گئی: عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے؟ میری حالت غیر ہو گئی اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا، بہر حال مجھے بارگاہِ خداوندی عَزَّوَجَلَّ میں حاضر کیا گیا اور مجھ سے حساب کتاب شروع ہوا اور ہر اس

فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا جو میں نے کیا تھی کہ گٹھلی اور اس کے چھلکے تک کے

بارے میں پوچھ پگچھ کی گئی، پھر مجھے بخش دیا گیا۔ (عیون الحکایات، ص ۷۱)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمَكَ هُوَ أَوْ أَنَّ كَىٰ صَدَقَهُ هَمَارَىٰ بِي حَسَابٍ

مَغْفِرَتِ هُوَ - 'امین بجاہِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ

پرنده کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی وفات کے بعد کچھ

فقہائے کرام تعزیت کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت

سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس آئے اور بعد دعائے

مغفرت ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا

نے فرمایا: **واللہ!** وہ آپ حضرات سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے یاروزے رکھنے

والے تو نہیں تھے مگر میں نے ان سے بڑھ کر خوف خدا رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا، کبھی

ایسا بھی ہوتا کہ ہم دونوں ایک لحاف میں ہوتے، اچانک ان کے دل پر **اللہ عَزَّ وَجَلَّ** کا

ایسا خوف طاری ہوتا کہ وہ اس پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے جو پانی میں گر گیا ہو،

پھر وہ آہ و بکا کرنے لگتے اور مجھے چھوڑ کر لحاف سے نکل جاتے، میں گھبرا کر کہتی: کاش

اس عہدے (یعنی خلافت) اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا کیونکہ یہ

جب سے ہمیں ملا ہے ہم نے سُرور کا ایک لمحہ نہیں دیکھا۔ (طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۲۰)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ

غریب اسلامی بہن کی خیر خواہی

جو لوگ مدد کے محتاج ہوتے تھے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ہر ممکن طریقے سے اُن کی مدد فرماتے تھے چنانچہ ایک عراقی عورت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے گھر آئی، جب وہ آپ کے دروازے پر پہنچی تو حیران ہو کر پوچھنے لگی: کیا امیر المؤمنین کے دروازے پر دربان نہیں ہوتا؟ اسے بتایا گیا: ”یہاں کوئی دربان نہیں، اندر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔“ یہ عورت زنان خانہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس گئیں۔ وہ گھر میں رُوئی ٹھیک کر رہی تھیں، سلام دُعا کے بعد انہوں نے بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز گھر آئے اور گھر کے کنویں سے پانی کے ڈول نکال نکال کر مٹی پر جو گھر میں پڑی تھی ڈالنے لگے اور آپ کی نظر بار بار اپنی زوجہ محترمہ پر پڑ رہی تھی، اسی عورت نے فاطمہ سے کہا: اس مزدور سے پردہ تو کر لو، یہ تمہاری طرف ہی دیکھے جا رہا ہے۔ فاطمہ نے بتایا: یہ مزدور نہیں امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اس کام سے فارغ ہو کر حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی طرف آئے، سلام کیا اور ان سے اس عورت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں عورت ہے۔ آپ نے توشہ دان اٹھایا، اس میں

کچھ انگور تھے، چن چن کر اس خاتون کو دیئے پھر دریافت فرمایا تم کس ضرورت سے آئیں؟ اس نے بتایا: میں عراق سے آئی ہوں، میری پانچ بے کس و بے سہارا لڑکیاں ہیں، میں آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں۔“ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے کس و بے سہارا کا لفظ دوہرا دہرا کر رونے لگے۔ پھر آپ نے کاغذ قلم لیا اور والی عراق کے نام خط لکھنا شروع کیا، عورت سے اس کی بڑی بیٹی کا نام پوچھا، اس نے بتایا تو آپ نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، عورت نے کہا: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ**، پھر دوسری، تیسری اور چوتھی کا نام دریافت کیا اور ایک ایک کا وظیفہ مقرر فرماتے گئے۔ عورت ہر ایک وظیفے پر **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ** کہتی جاتی، جب چوتھی لڑکی کا وظیفہ مقرر ہوا تو عورت خوشی سے بے قرار ہو گئی اور آپ کو دعائیں دینے لگی اور شکریہ کے طور پر **جَزَاکَ اللّٰہ** کہا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا: جب تک تم **مُسْتَحَقِّ حَمْدِی** یعنی **اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ** کا شکر کرتی رہیں ہم وظیفہ لگاتے رہے مگر اب جب کہ تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو اسکے بعد کا وظیفہ نفسانیت پر مبنی ہو گا پس ان چاروں لڑکیوں کو کہنا کہ اسی میں سے پانچویں کو بھی دے دیا کریں۔ عورت یہ تحریر لے کر عراق پہنچی اور اسے والی عراق کے سامنے پیش کیا۔ اُس نے خط پڑھا تو روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی، کچھ سنبھلا تو بولا: **اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ** صاحبِ خط پر رحم فرمائے۔ عورت بولی: کیا ہوا؟ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ جواب ملا: جی ہاں! یہ سن کر عورت چیخنے اور او ویلا کرنے لگی اور واپسی کا ارادہ کیا،

والی عراق نے کہا: بٹھرو، فکر کی بات نہیں، میں کسی بھی معاملے میں انکی تحریر کو رد نہیں کر سکتا، پھر اس کی تعمیل کی اس کی لڑکیوں کا وظیفہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۴۶)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَىٰ أَنْ بِرَحْمَتِ هُوَ اور ان کے صدقے ہماری بے حساب

مَغْفِرَتِ هُوَ۔ اٰمِیْنِ بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلٰی مُحَمَّد

ایک مسلمان قیدی کا واقعہ

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْز نے شاہِ روم کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ یہ قاصد ایک دن بادشاہ کے پاس سے اٹھا تو گھومتے پھرتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کے قرآن پڑھنے اور چکی پیسنے کی آواز آرہی تھی۔ یہ اس کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد اس کے حالات دریافت کئے تو اس نے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ سے قید کیا گیا تھا اور شاہِ روم کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے مجھے دعوت دی کہ میں نصرانی (کرستین) ہو جاؤں مگر میں نے انکار کر دیا، بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آنکھیں نکال دی جائیں گی مگر میں نے دین کو آنکھوں پر ترجیح دی چنانچہ گرم سلاخیوں سے میری آنکھیں ضائع کر دی گئیں اور یہاں قید خانے میں پہنچا دیا گیا، روزانہ کچھ گندم پیس لیتا ہوں جس کے عوض مجھے کھانا دیا جاتا ہے۔ جب قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیْز کے پاس پہنچا تو اس قیدی

کا ماجرا بھی بیان کیا۔ قاصد کا کہنا ہے کہ میں ابھی پورا قصہ بیان نہیں کر پایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ اُبل پڑا، جس سے ان کے آگے کی جگہ تر ہو گئی، اسی وقت شاہِ روم کے نام خط لکھا: ”اما بعد! مجھے فلاں قیدی کے بارے میں خبر ملی ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے اسے رہا کر کے میرے پاس نہیں بھیجا تو میں مقابلے کے لئے ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا اگلا سر اتمہارے پاس ہوگا اور پچھلا میرے پاس۔“

قاصد پھر شاہِ روم کے یہاں گیا تو اس نے کہا: ”بڑی جلدی دوبارہ آئے!“

قاصد نے حضرت عمر کا خط پیش کیا، اس نے پڑھ کر کہا: ہم نیک آدمی کو لشکر کشی کی زحمت نہیں دیں گے اور اس قیدی کو واپس کر دیں گے۔ قاصد کا بیان ہے کہ مجھے قیدی کی رہائی کے انتظار میں چند دن وہاں ٹھہرنا پڑا ایک دن بادشاہ کے دربار میں گیا تو عجیب منظر دیکھا کہ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے بیٹھا ہے اور چہرے پر حُزن و ملال کے آثار ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی کہا جانتے ہو میں اس طرح کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں نے کہا: مجھے پتا نہیں مگر میں بہت حیران ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے بعض علاقوں سے خبر پہنچی ہے کہ اس نیک آدمی (یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز) کا انتقال ہو گیا، اس کے غم میں میری یہ حالت ہوئی ہے۔ قاصد کہتا ہے: مجھے اس اطلاع سے اُس قیدی کی رہائی سے مایوسی ہو گئی، میں نے بادشاہ سے کہا: مجھے واپسی کی اجازت ہو۔ وہ کہنے لگا: یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی میں انکی بات مان لیں اور انکی

موت کے بعد اس سے پھر جائیں، چنانچہ اس قیدی کو رہا کر کے میرے ساتھ بھیج دیا۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۱۴۴)

جب خلیفہ کا قاصد موت کی خبر لے کر پہنچا

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا قاصد جب بصرہ آتا تو جونہی لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہوتی وہ بوق و دُجوق استقبال کے لیے نکل آتے، قاصد کی آمد عموماً وظیفے کی زیادتی، مال کی تقسیم، کسی بھلائی کے حکم یا کسی برائی سے ممانعت کا پیغام لایا کرتی۔ لوگ قاصد کے ساتھ چل کر مسجد پہنچتے جہاں وہ خلیفہ کا فرمان پڑھ کر سنا دیتا۔ جس دن قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے انتقال کی خبر لایا لوگ حسب معمول اس کے استقبال کے لیے نکلے، مگر آج وہ کسی خوش خبری کے بجائے رورور کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بارے میں بتا رہا تھا، لوگ اس عظیم حادثہ اور مصیبت پر روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور قاصد نے وہاں آپ کی وفات کی خبر باقاعدہ پڑھ کر سنائی۔ (سیرت ابن عبدالحکم ص ۵۷)

شاہِ روم کا رنج و غم

محمد بن معبد کا بیان ہے کہ میں شاہِ روم کے پاس گیا تو اس کو زمین پر نہایت رنج و غم کی حالت میں بیٹھا ہوا پایا، میں نے پوچھا: کیا حال ہے؟ کہنے لگا: جو کچھ ہوا تم کو خبر نہیں؟ میں نے کہا: کیا ہوا؟ بولا: مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا: وہ کون؟ بولا ”عمر بن عبدالعزیز“ پھر کہا: مجھے اس راہب کی حالت پر کوئی تعجب نہیں جس نے

اپنے دروازے کو بند کر کے دنیا کو چھوڑ دیا، اور عبادت میں مشغول ہو گیا، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جس کے قدموں کے نیچے دنیا تھی اور اس نے اس کو پامال کر کے راہبانہ زندگی اختیار کی۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۳۱)

نبیؐ کے آنسو

حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کے جنازے میں شرکت کے بعد جب واپس جا رہا تھا کہ ایک راہب نے مجھ سے پوچھا: کیا تم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی وفات کے وقت موجود تھے؟ میں نے کہا: ”ہاں۔“ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا: تم ان کے لئے کیوں رورہے ہو؟ وہ تو تمہارے ہم مذہب نہ تھے! اس نے کہا: اِنِّی لَسْتُ اَبِیْکِیْ عَلَیْہِ وَلَکِنُّ اَبِیْکِیْ عَلَیْ نُوْرٍ کَانَ فِی الْاَرْضِ فَطَفِیْ یعنی میں ان پر نہیں روتا اس نور پر روتا ہوں جو زمین پر تھا اور بجھا دیا گیا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۳۱)

وفات پر جنات کا اظہارِ غم

ایک رات کوفہ میں ایک عورت اپنی بیٹی کے ہمراہ بالا خانے میں چرخا کات رہی تھی، اچانک اس کی بیٹی کی کوئی چیز نیچے گر گئی، اس نے باہر دیکھا تو نیچے چند عورتوں کا حلقہٴ غم برپا تھا۔ درمیان میں کھڑی ایک عورت شعر پڑھ رہی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے: ”ہاں جنات کی عورتوں سے کہو کہ اب وہ فرطِ غم سے رویا کریں، ریشمی لباس میں

ناز و انداز سے چلنے کے بجائے ٹاٹ پہنا کریں اور برق رفتار گھوڑوں کی سواری کے بجائے سست رفتار جانوروں پر سوار ہوا کریں۔“

وہ عورت یہ شعر پڑھتی اور حاضرین مجلس ”ہائے امیر المومنین! ہائے امیر المومنین“ کہہ کر اس کی تائید کرتے، لڑکی نے گھبرا کر والدہ سے کہا: ”امی دیکھو تو نیچے کیا ہے؟“ بڑھیا نے نیچے جھانکا تو عجیب منظر دیکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ القدير کا انتقال ہوا تھا۔“

(سیرت ابن عبدالحکم ص ۹۹)

ایک جن کے اشعار

ایک جن نے ان الفاظ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات پر اظہارِ غم کے لئے یہ اشعار کہے:

عَنَّا جَزَاكَ مَلِيكُ النَّاسِ صَالِحَةً فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ وَالْفِرْدَوْسِ يَا عُمَرُ!
أَنْتَ الَّذِي لَا نَرَى عَدْلًا نَسْرِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَا جَرَى شَمْسٌ وَلَا قَمَرُ

ترجمہ: (۱)..... اے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ! لوگوں کا عظیم بادشاہ عزیز و جلّ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہماری طرف سے جنت الخلد اور جنت الفردوس میں بہترین جزاء عطا فرمائے۔ (آمین)

(۲)..... جب تک سورج چاند طلوع ہوتے رہیں گے، ہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ایسا عادل خلیفہ کبھی نہ پائیں گے جس سے ہم خوش ہو سکیں۔

(اخبار مکہ للفاکھی، ذکر السمر والحديث فی المسجد الحرام، الحديث ۱۳۳۹، ج ۲، ص ۱۵۱)

شہدا کی جنازے میں شرکت

کسی بُرگ کا لڑکا شہید ہو گیا، وہ اپنے باپ کو کبھی خواب میں نظر نہ آیا۔ صرف اس دن خواب میں باپ سے ملا جس دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے وصال فرمایا۔ باپ نے دیکھ کر فرمایا: میرے بیٹے! کیا تم پر موت واقع نہیں ہو چکی؟ تو اس نے جواب دیا: میں مُردہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے شہادت نصیب ہوئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے قُرب میں زندہ ہوں، اور مجھے انواع و اقسام کی روزی ملتی ہے۔ باپ نے پوچھا: پھر آج تم ادھر کیسے آگئے؟ تو اس نے کہا: آج تمام آسمان والوں کو آواز دی گئی کہ آج انبیاء و شہداء سب عمر بن عبدالعزیز کے جنازہ میں شریک ہوں، تو میں بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ادھر آیا تھا۔

(تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۲۵۷ ملخصاً)

آزادی کا پروانہ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز ایک مرتبہ شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شبِ براءت عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک ”سبز پرچہ“ ملا جس کا نُور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اُس پر لکھا تھا، ”هَذِهِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ لِعَبْدِهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ“، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ ”جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ“ ہے جو اُس کے

بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ (تفسیر روح البیان ج ۸ ص ۲۰۴)

جنت کے دروازے پر پروانہ نجات

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے: **بِرَأْفَةٍ**
مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِعَمْرٍ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ یعنی خدائے
 غالب و رحیم کی طرف سے اُس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لئے دردناک دن (یعنی یوم
 قیامت) کے عذاب سے نجات ہے۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۹۰)

میں جنت عدن میں ہوں

حضرت سیدنا مسلم بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عمر
 بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: کاش! مجھے پتا چل جائے
 کہ بعد وفات آپ کن حالات سے گزرے! فرمایا: **واللہ!** میں بہت آرام میں
 ہوں۔ پوچھا: یا امیر المؤمنین! آپ کہاں پر ہیں؟ فرمایا: ائمہ ہدی کے ساتھ جنت
 عدن میں۔ (سیرت ابن جوزی ص ۲۸۷)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَىٰ أَنْ يَرْحَمْتَ هُوَ أَوْ أَنْ يَكْفُرْ هُوَ

مَغْفِرَتِ هُوَ - آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّد

حضرت مکحول کے تاثرات

ایک بار حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقامِ دابق سے پلٹ کر ایک
 منزل میں گُویا کے وقت اترے اور ایک طرف دور نکل گئے، لوگوں نے پوچھا:

حضرت! کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا: پانچ میل کے فاصلہ پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی قبر تھی میں وہیں گیا تھا، خدا کی قسم! اُن کے زمانہ میں ان سے زیادہ کوئی خدا ترس نہ تھا، خدا کی قسم ان کے زمانہ میں ان سے زیادہ کوئی زاہد نہ تھا۔ (سیرت ابن جوزی ص ۳۷)

تقویٰ و پرہیزگاری کی قسم اٹھائی جاسکتی ہے

حضرت سیدنا کھول رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی بیان ہے کہ اگر میں اس بات پر قسم کھاؤں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نہایت زاہد، پاکباز اور خوف خدا رکھنے والے تھے تو میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۹۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام

حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں: فَلَکَمَا کَانَ فِی رَأْسِ الْمَاءِ مِنَ اللّٰهِ عَلٰی هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ یَعْنٰی جَبْ صَدٰی اِخْتِطَامِ پزیر ہوئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی صورت میں اس اُمت پر احسان فرمایا۔ (درمنثور ج ۱ ص ۶۲۸)

مرنے کے بعد بھی احترام

ہشام بن عبدالملک جب خلیفہ بنا تو اس کے پاس ایک آدمی آکر کہنے لگا: امیر المؤمنین! عبدالملک نے میرے دادا کو ایک جاگیر دی جسے ولید اور سلیمان نے

برقرار رکھا اور جب عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ خلیفہ بنے تو انہوں نے واپس لے لی۔ ہشام نے اس سے کہا: اپنی بات دہراؤ، اس نے کہا: امیر المؤمنین! عبدالملک نے میرے دادا کو ایک جاگیر دی جسے ولید اور سلیمان نے برقرار رکھا، اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لے لی، ہشام نے کہا: تم بھی عجیب آدمی ہو؟ جنہوں نے تمہارے دادا کو جاگیر دی ان کا تذکرہ بغیر کسی تعظیم کے کرتے ہو اور جس نے چھینی ان کے لئے دُعائے رحمت کر رہے ہو، البتہ ہم نے وہی حکم صادر کیا جو عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ نے کیا تھا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۸۰ ق ۶۷۷ ۷۷۸)

بارگاہِ مصطفیٰ میں حاضری

حضرت ماجشون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے (خواب میں) نبی پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا، ان کے دائیں بائیں شَجَّینِ کریمین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے اور ایک نوجوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جواب ملا: یہ عمر بن عبدالعزیز (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ہیں۔ میں نے کہا: یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اتنے قریب ہیں! جواب دیا: کیوں نہ ہوں! کیونکہ انہوں نے ظلم و ستم کے زمانے میں بھی حق و انصاف کا بول بالا کیا ہے۔ (شرح الصدور ص ۸۴)

نظامِ حکومت کی تبدیلی

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے جو عادلانہ نظامِ حکومت قائم کیا تھا یزید بن عبدالملک نے جو اُن کا جانشین ہوا صرف چالیس دن تک اس کو قائم رکھا اس کے بعد اس راہِ عدل سے الگ ہو گیا۔ غرضیکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ نے جو نظامِ سلطنت قائم کیا تھا وہ آپ کے وصال کے چند ہی روز میں درہم برہم ہو گیا اور دنیا نے کم و بیش اڑھائی برس ہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرزِ حکومت سے فائدہ اٹھایا۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَسَىٰ اَنْ يُّرَحِمْتَ هُوَ اَوْرَ اَنْ كَسَىٰ هَمَارِى بِي حَسَابِ

مَغْفِرَتِ هُوَ - اَمِيْنِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی

نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

مأخذ و مراجع

مطبوعه	مصنف	نام کتاب
برکات رضا ہند	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن نقی علی خان	(1) کنز الایمان ترجمہ قرآن
دار احیاء التراث العربی بیروت	امام محمد بن عمر فخر الدین رازی	(2) تفسیر الکبیر
دار الفکر بیروت	امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی	(3) تفسیر الدر المنثور
کوئٹہ	شیخ اسماعیل حقی بروسی	(4) تفسیر روح البیان
دار الفکر بیروت	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی	(5) تفسیر قرطبی
باب المدینہ کراچی	مرتبین	(6) تفسیر الحسن البصری
ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی	(7) تفسیر نعیمی
ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور	صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی	(8) تفسیر خزائن العرفان
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری	(9) صحیح البخاری
دار ابن حزم بیروت	امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج قشیری	(10) صحیح مسلم
دار الفکر بیروت	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی	(11) سنن الترمذی
دار احیاء التراث العربی بیروت	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی	(12) سنن ابی داؤد
دار المعرفہ بیروت	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ	(13) سنن ابن ماجہ
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو عبد الرحمن بن احمد شعیب نسائی	(14) سنن النسائی
دار الفکر بیروت	امام احمد بن حنبل	(15) المسند
دار الکتب العلمیہ بیروت	علامہ امیر علاء الدین علی بن بلبان فارسی	(16) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان
دار احیاء التراث العربی بیروت	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی	(17) المعجم الکبیر
دار الفکر بیروت	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی	(18) المعجم الاوسط
دار المعرفہ بیروت	امام محمد بن عبد اللہ الحاكم النیشاپوری	(19) المستدرک
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی	(20) السنن الکبریٰ
دار الفکر بیروت	امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ	(21) مصنف ابن ابی شیبہ
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو یعلیٰ احمد بن علی الموصلی	(22) المسند
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی	(23) جمع الجوامع
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو بکر احمد بن الحسن البیہقی	(24) شعب الایمان
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری	(25) الترغیب و الترهیب
مکتبۃ العصریہ بیروت	حافظ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد قرشی	(26) الموسوعۃ لابن ابی الدنیا
دار الفکر بیروت	امام نور الدین علی بن ابی بکر	(27) مجمع الزوائد
دار الکتب العلمیہ بیروت	شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی	(28) کشف الخفاء
دار الکتب العلمیہ بیروت	علی بن حسام الدین الہندی	(29) کنز العمال
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی	(30) مشکاة المصابیح

دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی	(31) شرح معانی الآثار
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام یحییٰ بن شرف النووی	(32) شرح صحیح مسلم
دارالفکر بیروت	امام بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی	(33) عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی	(34) فتح الباری شرح صحیح البخاری
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام محمد عبد الرؤف مناوی	(35) فیض القادی شرح الجامع الصغیر
ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی	(36) مرآۃ المناجیح شرح مشکاة المصابیح
مکہ المکرمہ	ابو الفرج عبد الرحمن بن شہاب الدین	(37) جامع العلوم والحکم
دار المعرفہ بیروت	علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی	(38) الدر المختار
دار المعرفہ بیروت	علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی	(39) رد المحتار
دار الفکر بیروت	علامہ محمد شہاب الدین بن بزاز کردری	(40) البرازیۃ علی هامش الفتاویٰ الہندیہ
دار الفکر بیروت	ملا نظام الدین و علمائے ہند	(41) الفتاویٰ الہندیہ
رضا فاؤنڈیشن لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن نقی علی خان	(42) الفتاویٰ الرضویہ
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی	(43) بہار شریعت
شبیر برادرز لاہور	مفتی جلال الدین احمد امجدی	(44) فتاویٰ فقیہ ملت
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبہانی	(45) حلیۃ الاولیاء
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام احمد بن محمد بن عبد ربہ	(46) العقد الفرید
دار الفکر بیروت	امام محمد بن ابو احمد الایشبھی	(47) المستطرف
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام محمد بن احمد الذہبی	(48) تذکرۃ الحفاظ
دار الفکر بیروت	امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی	(49) تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی	(50) الاصابۃ فی ترمیم الصحابہ
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام محمد بن سعد البصری	(51) الطبقات الکبریٰ
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو بکر احمد بن الحسن البیہقی	(52) دلائل النبوة
پشاور	امام ابو محمد عبد اللہ بن یوسف الحنفی	(53) نصب الرایۃ فی تخریج احادیث الہدیۃ
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام قسطلانی	(54) مسالک الحنفیاء
المکتبۃ الشاملہ	ابن الازرق	(55) بدائع السلف فی طبائع الملک
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو عمر یوسف بن عبد اللہ القرطبی	(56) جامع بیان العلم و فضلہ
المکتبۃ الشاملہ	امام ابو حامد محمد بن محمد الشافعی الغزالی	(57) الثیر المسبوک فی نصیحة الملوک
المکتبۃ الوہبہ	علامہ عبد اللہ بن عبد الحکم	(58) سیرت ابن عبد الحکم
دار الکتب العلمیہ بیروت	علامہ عبدالرحمن بن جوزی	(59) سیرت ابن جوزی
دار الفکر بیروت	ابو القاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر	(60) تاریخ دمشق
باب المدینہ کراچی	امام جلال الدین عبد الرحمان بن ابی بکر السیوطی	(61) تاریخ الخلفاء
دار ابن کثیر بیروت	امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری	(62) تاریخ طبری
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو الحسن علی بن محمد	(63) الکامل فی التاریخ

المکتبۃ الشاملة	احمد بن اسحاق	(64) تاریخ یعقوبی
دار الکتب العلمیۃ بیروت	ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی	(65) المعرفة و التاريخ
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام ابو عمر یوسف بن عبد اللہ	(66) الاستیعاب فی معرفة الاصحاب
دار احیاء التراث العربی بیروت	امام ابو الحسن علی بن محمد الجزری	(67) اسد الغابۃ
انتشارات گنجینه تهرآن	شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری	(68) تذکرۃ الاولیاء
المکتبۃ الشاملة	محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوی	(69) التحفة اللطيفة فی تاریخ المدينة الشریفۃ
دار حضر بیروت	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق الفاکھی	(70) اخبار مکة
دار الفکر بیروت	امام ابو الفداء اسماعیل بن عمر ابن کثیر	(71) البداية و النهاية
المکتبۃ الشاملة	احمد بن القاسم ابن ابی اصیبعۃ	(72) عیون الانیاء فی طبقات الاطباء
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری	(73) الرسالة القشیریۃ
دار البشائر، دار المعرفة بیروت	امام عبدالوہاب بن احمد شعرائی	(74) تنبیہ المغتربین
پشاور	امام ابو الیث نصر بن محمد السمرقندی	(75) تنبیہ الغافلین
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام ابو السعادات عبد اللہ بن اسعد	(76) روض الریاحین
دار احیاء التراث العربی بیروت	مبلغ اسلام شیخ شعیب حریش	(77) الروض الفائق
دار البشائر الاسلامیۃ بیروت	علی بن سلطان (المعروف ملا علی قاری)	(78) منح الروض
دار الکتب العلمیۃ بیروت	ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی	(79) عیون الحکایات
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی	(80) حسن المحاضرة
مرکز اهل السنة الہند	امام ابو طالب محمد بن علی المکی	(81) قوت القلوب
پشاور	عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی حنفی	(82) الحدیقة الندیۃ
دار صادر بیروت	امام ابو حامد محمد بن محمد الشافعی الغزالی	(83) احیاء علوم الدین
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام ابو حامد محمد بن محمد الشافعی الغزالی	(84) مکاشفة القلوب
تہران، ایران	امام ابو حامد محمد بن محمد الشافعی الغزالی	(85) کیمیائۃ سعادت
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام ابو حامد محمد بن محمد الشافعی الغزالی	(86) منهاج العابدین
	علامہ عبدالرحمن بن جوزی	(87) منهاج القاصدین
مرکز اہلسنت بركات رضاهند	امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی	(88) شرح الصدور
ضیاء الدین پبلیکیشنز کراچی	علامہ ڈاکٹر خلیل احمد قادری	(89) معدن اخلاق
		(90) مغنی الواعظین
المکتبۃ الشاملة	احمد بن علی بن عبد القادر المقریزی	(91) المواعظ والاعتبار
دار الکتب العلمیۃ بیروت	سید محمد بن محمد حسینی زبیدی	(92) اتحاف السادة المتقین
دار الکتب العلمیۃ بیروت	الحافظ ابی بکر عبد اللہ محمد المعروف ابن ابی الدنیا	(93) ذم الغیبة (الموسوعة)
مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ بیروت	امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی	(94) کتاب الزهد الكبير
دار الکتب العلمیۃ بیروت	امام عبد اللہ بن مبارک	(95) کتاب الزهد
دار الکتب العلمیۃ بیروت	علامہ بدر الدین شبلی	(96) آکام المرجان فی احکام الجنان

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	شہزادہ اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ رضا خان	(97) ملفوظات اعلیٰ حضرت
باب المدینہ کراچی	امام برہان الاسلام زرنوجی	(98) تعلیم المتعلم
	محمد بن مفلح حنبلی	(99) آداب الشرعیۃ
دار احیاء التراث العربی بیروت	امام ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ	(100) معجم البلدان
المکتبۃ الشاملۃ	احمد بن یحییٰ بن جابر بن داود البلاذری	(101) فتوح البلدان
باب المدینہ کراچی	علامہ علی بن محمد بن علی الجرجانی	(102) التعریفات
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	مصنف: رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان شارح: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن نقی علی خان	(103) فضائل دعا
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری	(104) حیات اعلیٰ حضرت
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(105) فیضان سنت (جلد اول)
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(106) کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(107) غیبی کی تباہ کاریاں
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(108) پردے کے بارے میں سوال جواب
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(109) زلزلہ اور اس کے اسباب
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(110) ظلم کا انجام
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(111) پراسرار بھکاری
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(112) کراماتِ فاروق اعظم
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(113) پل صراط کی دہشت
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(114) 101 مدنی پھول
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(115) قیامت کا امتحان
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(116) اشکوں کی برسات
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(117) کالے بچھو
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(118) جنتی محل کا سودا
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	المدینۃ العلمیۃ	(119) تذکرہ امیر اہلسنت (حصہ 5)
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن نقی علی خان	(120) حدائقِ بخشش
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ	امیر اہلسنت حضرت علامہ محمد الیاس عطارقادری مدظلہ العالی	(121) وسائلِ بخشش

مجلس المدینة العلمیة شعبہ اصلاحی کُتُب کی طرف سے پیش

کردہ 33 کُتُب و رسائل

- 01..... غوث پاک رَحِمَی اللہ تَعَالٰی عِنْدَہ کے حالات (کل صفحات: 106) 02..... تکبیر (کل صفحات: 97)
- 03..... فرامینِ مصطفیٰ صَلَّى اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (کل صفحات: 87) 04..... بدگمانی (کل صفحات: 57)
- 05..... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33) 06..... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
- 07..... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش (کل صفحات: 49) 08..... فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)
- 09..... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32) 10..... ریا کاری (کل صفحات: 170)
- 11..... قومِ جنات اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262) 12..... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
- 13..... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124) 14..... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
- 15..... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66) 16..... تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
- 17..... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63) 18..... ٹی وی اور مووی (کل صفحات: 32)
- 19..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30) 20..... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)
- 21..... فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120) 22..... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
- 23..... نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39) 24..... خوفِ خدا عَزَّ وَجَلَّ (کل صفحات: 160)
- 25..... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100) 26..... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)
- 27..... آیاتِ قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62) 28..... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
- 29..... فیضانِ احیاءِ العلوم (کل صفحات: 325) 30..... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408)
- 31..... جنت کی دو چابیاں (کل صفحات: 152) 32..... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)
- 33..... آدابِ مرشدِ کامل (مکمل 5 حصے) (کل صفحات: 275)



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سنت کی بہاریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مبلّغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مجھے مجھے مدنی ماحول میں بیکثرت سنتیں سبھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر شعراتِ مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے انجھی انجھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مدنی لہجہ ہے۔ حاجتِ ان رسول کے مدنی قلوبوں میں پختہ ثواب سنتوں کی ترسیل کیلئے سفر اور روزانہ فکرِ عینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پُر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے الحمدراہم اپنے یہاں کے ذمے دار کو قلعہ کروانے کا معمول بنا لیجئے، اِن شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی بزرگت سے پابند رہتے رہتے رہیں ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے گونے کا ڈھن بنے گا۔

ہر اسلامی بھائی اپنا بی ڈھن بنائے کہ ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِن شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اپنی اصلاح کے لیے ”مدنی انعامات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مدنی قلوبوں“ میں سفر کرتا ہے۔ اِن شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

مکتبہ المدینہ کی شاخیں

- کراچی: حمید محمد کھار، فون: 021-32203311
- راولپنڈی: افضل داہر، ڈاکٹر کمال، فون: 061-5563765
- لاہور: طاہرہ پارک، ڈاکٹر افضل، فون: 042-37311679
- پشاور: فیضان، ڈاکٹر مجید، فون: 068-5571686
- سرحد: پورٹ بھل، ڈاکٹر امین، پورٹ بھل، فون: 041-2632625
- خانیچہ: ذوالفقار، ڈاکٹر محمد کمال، فون: 0244-4302145
- گلشن: ڈاکٹر سعید، فون: 058274-37212
- مہاراجپور: فیضان، ڈاکٹر سعید، فون: 022-2620122
- سکس: فیضان، ڈاکٹر سعید، فون: 071-5619195
- مٹان: نور علی، ڈاکٹر سعید، فون: 061-4511102
- گورنمنٹ: فیضان، ڈاکٹر سعید، فون: 055-4225653
- کوئٹہ: ڈاکٹر سعید، فون: 044-2550767
- گلبرج: ڈاکٹر سعید، فون: 048-6007128

فیضانِ مدینہ، محلہ سووا گران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

فون: 021-34921389-93 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net

مکتبہ المدینہ
(مدینہ منورہ)